


جہانِ دو عالم کے 350 نادر تبرکات



# تبرکاتِ نبویؐ

کا تصویری البہم

مؤلف: مولانا ارسلان بن اختر مبین



حضور ﷺ کے مبینہ تبرکات کا پہلا منفرد مجموعہ

تبرکاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم  
کا  
تصویبی الیہم

مرتب

مولانا ارسلان بن اختر مبین

شعبہ تحقیق و تصنیف

مکتبہ ارسلان

بنوری ٹاؤن، کراچی

فون: 0333-2103655

marfat.com

جملہ حقوق ملکیت برائے  
مکتبہ ارسلان محفوظ ہیں

مکتبہ ارسلان  
فون: 0333-2103655- اردو بازار، کراچی۔

خط و کتابت کا پتہ: نفیس اکیڈمی اردو بازار، کراچی۔ فون: 2722080

نام کتاب ..... تبرکات نبویؐ کا تصویبی البہم

جامع و مرتب ..... مولانا ارسلان بن اختر مبین

اشاعت اول ..... 05-02-2008

اسٹاکسٹ: نفیس اکیڈمی اردو بازار، کراچی۔ فون: 2722080

ملنے کا پتہ:

کراچی: کتب خانہ مظہری گلشن اقبال نمبر 2، کراچی۔ فون: 4992176 نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی۔

ادارۃ الانور بنوری ٹاؤن، مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی

اسلامی کتب خانہ نزد بنوری ٹاؤن۔ دارالاشاعت اردو بازار، کراچی۔ علمی کتاب گھر اردو بازار، کراچی۔

لاہور: مکتبہ رحمانی غزنی اسٹریٹ اردو بازار، لاہور۔ ادارہ اسلامیات انارکلی بازار، لاہور۔

مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار، لاہور۔

راولپنڈی: مکتبہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔

ملتان: ادارہ اشاعت الخیر

0300-7301239، 061-4514929

## مولانا ارسلان بن اختر اکابر کی نظر میں

محمد یوسف لدھیانوی

نائب امیر، عالی مجلس تحفظ ختم نبوت  
استاذ حدیث جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن

شہید الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی ارسلان بن اختر کی کتاب ”علامات محبت“ کی تقریظ میں لکھا ہے کہ! زیر مجموعہ میں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کے مسترشد ”محمد ارسلان بن اختر“ نے نہایت محنت و عرق ریزی سے سلاست سے معمور اور مستند حوالوں سے مزین زیر نظر کتاب مرتب فرمائی ہے جو کہ تحسین اور لائق اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو امت مسلمہ کیلئے نافع بنائے۔ آمین!!!



العارض....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HAKIM MUHAMMAD AKHTAR**  
KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA  
ASHRAFUL MADARIS

حکیم محمد اختر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  
نَم: مَجَلِسُ إِشَاعَةِ الْحَقِّ  
خَانَقَا وَ اِمْدَادِيَةِ اشْرَفِيَةِ / اشْرَفِ الْمَدَارِسِ

کتاب ”اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں“ ۳۰۰ کتابوں سے مستند ہے۔ جس میں صوفی مولوی ارسلان سلمہ نے اپنے فطری ذوق عاشقانہ عارفانہ سے محبت اور معرفت کے نہایت مفید مضامین جمع کئے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ یہ کتاب اور موصوف کی دیگر کتابوں کا مطالعہ امت مسلمہ کیلئے معرفت اور محبت خداوندی کے حصول میں نہایت مفید ثابت ہوگا۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ موصوف کی تصنیف اور تالیف کردہ کتابوں کو امت مسلمہ کیلئے نہایت مفید بنا کر قارئین اور معاونین کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ العارض حکیم محمد اختر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

*Dr. Mufti Nizamuddin Shameai*  
Sheikh-ul-Hadees

Jamiat-ul-Uloom-Il Islamiyyah,  
Allama Mohammad Yousuf  
Banori Town, Karachi-5. PAKISTAN



ڈاکٹر مفتی نظام الدین سامزئی

شیخ الحدیث جامعہ العلوم اسلامیہ  
علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان

مولوی ارسلان بن اختر کی کتاب ”نماز میں خشوع و خضوع“ میں اقوال سلف کا اچھا ذخیرہ ہے۔ خصوصاً دوسرے حصے میں خشوع و خضوع کی صفت پیدا کرنے کے طریقے خوب بیان کئے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امت کیلئے نافع بنائے۔ آمین!!!

بندہ نے عزیز مولوی ارسلان کی کتاب ”حصول ولایت“ دیکھی، ماشاء اللہ اس مقصد کیلئے انتہائی نافع اور مفید ہے اس کتاب کے مضامین بھی ماشاء اللہ بہت اونچے ہیں انشاء اللہ اس کے پڑھنے سے ہر شخص میں محبت الہی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کی محنت کو اپنی مخلوق کیلئے باعث ہدایت بنائے۔ آمین!!!

حضرت ڈاکٹر صاحب نے ”گناہوں کا سمندر“ نامی کتاب میں دوران تقریظ لکھا ہے بندہ مولوی ارسلان کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین!!!

نظام الدین

۸ شعبان العظمیٰ ۱۴۲۳ھ

## مولانا ارسلان بن اختر میمن کی تصانیف

نمبر شمار	کتاب کا نام	قیمت
1	بیت اللہ کا تصویری البم	280
2	مسجد نبوی ﷺ کا تصویری البم	320
3	نامور علماء کے مثالی واقعات	230
4	تاریخ کے سنہری واقعات	265
5	حضور ﷺ کا مثالی بچپن	250
6	نامور بچوں کے مثالی واقعات	240
7	سچی حیران کن کارگزاریاں	200
8	موت کے پراسرار واقعات	265
9	حضور ﷺ کے بیان کردہ دلچسپ واقعات	270
10	اکیسویں اور بیسویں صدی کے سچے واقعات	475
11	مولانا طارق جمیل صاحب کے 10 بیانات کے کتابچہ	310
12	وجوہات محبت (بندوں کی اللہ سے محبت کی وجوہات)	100
13	اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں مولانا نعیم محمد اختر صاحب مدظلہ	240
14	اللہ کے عاشقوں کی عاشقی کا منظر مولانا نظام الدین شامزئی	225
15	محبت الہی کے راستے	150
16	گناہوں کا سمندر اور محبت الہی کی وسعت	190
17	نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے طریقے	150
18	جوانی ضائع کرنے کے نقصانات	70
19	علامات محبت مولانا یوسف کدھیا نوی	310
20	اللہ کے دوستوں کے حالات (اولیاء اللہ کے حالات)	70
21	اللہ کا پیارا بننے کا طریقے (دعوت و تبلیغ پر تحقیقی کتاب)	100
22	اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ (نفسانی خواہشات کی خدمت)	110
23	جدید مستند مجموعہ وظائف	85 Net
24	عبرت انگیز بیانات (مولانا طارق جمیل صاحب کے 20 اثر انگیز بیانات)	275
25	دلچسپ اصلاحی واقعات (مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کردہ)	285
26	دلچسپ عبرت انگیز واقعات (ہزاروں کتابوں سے منتخب واقعات)	150
27	دلچسپ حیرت انگیز واقعات (ہزاروں کتابوں سے منتخب واقعات)	150
28	دلچسپ اثر انگیز واقعات (ہزاروں کتابوں سے منتخب واقعات)	150
29	ہنستہ ہنساتے واقعات (اکابر کے مزاحیہ واقعات)	225
30	دلچسپ انوکھے واقعات (ہزاروں کتابوں سے منتخب واقعات)	150
31	صحابہ کے سبق آموز حالات	275
32	اللہ کے عاشقوں کے حالات (2 جلد کا سینٹ)	375
33	اللہ کے دیوانوں کے محبت بھر واقعات	275
34	رب کریم کا گنہگاروں سے پیار	275
35	خوف خدا کے سچے واقعات	284
36	اللہ والوں کی دنیا سے بے رغبتی	240
37	خواتین کے مثالی واقعات	265

38	گناہوں کا خوفناک انجام (سائز 23x36)	265
39	رزق حلال کی برکتیں	255
40	واقعات کی دنیا 4 کراؤنڈ ویشین پیچہ	375
41	واقعات کا خزانہ 4 کراؤنڈ ویشین پیچہ	375
42	فضائل حفظ قرآن (مولانا قاری محمد طاہر رحیمی)	240
43	روٹھے رب کو منالو سائز 23x36=16	190
44	حفاظت نظر کے 50 انعامات سائز 23x36=16	220
45	گناہوں سے بچنے اللہ کا محبوب بننے	70
46	مواعظ مولانا طارق جمیل صاحب مدظلہ	240
47	بیانات مولانا طارق جمیل مدظلہ (اول)	200
48	مواعظ مولانا طارق جمیل (دوم)	225
49	خطبات طارق جمیل	225
50	مسنون اذکار (کارڈ)	7 Net


## مولانا ارسلان بن اختر کی نئی تصانیف

53	گناہوں سے بچنے کے انعامات	440
54	اللہ سے دوستی کے انعامات	275
55	لذت ترک گناہ	260
56	سیرت النبی کے انمول واقعات	330
57	تبلیغ کی محنت انعامات کی بارشیں (مولانا طارق جمیل)	200
58	اللہ کا تعارف (مولانا طارق جمیل)	290
59	پراسرار از دہا اور جنتی لالھی (سوی کے تین سو واقعات)	255
60	مالی پریشانیوں کا نبوی حل	310
61	سکون دل کے نبوی راستے	520
62	تبرکات نبوی ﷺ کا تصویری البم NET	600
4 کراؤنڈ سائز کتب + انڈو ویشین پیچہ		
63	گناہوں کا خوفناک انجام	82 NET
64	عذاب قبر کے دہشتناک واقعات	82 NET
65	درود شریف کی برکات	82 NET
66	اللہ کو اپنا بنا لو.... (طارق جمیل) Vol. 1	72 NET
67	اللہ سے دوستی کر لو. (طارق جمیل) Vol. 2	72 NET
68	اللہ سے صلح کر لو. (طارق جمیل) Vol. 3	72 NET
69	شان محمد ﷺ کے مثالی واقعات	92 NET
70	تبرکات نبوی ﷺ کا تصویری البم 4 کراؤنڈ پیچہ	450 NET
71	ندامت کے آنسو	82 NET
72	ٹیکوں کے پہاڑ سینڈ و میں	50 NET
73	آپ کے پریشانیوں کا حل وظائف نبوی ﷺ کی روشنی میں	72 NET
74	روٹھے رب کو منالو	82 NET
75	نیک اعمال کی برکات	82 NET
76	عذاب قبر کا تصویری البم (سائز 23x36=16) 4 کراؤنڈ پیچہ	300 NET

نوٹ: مذکورہ کتب میں جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں وہ 05-08-09 کے ہیں بعد میں اگر کسی کتاب کے ریٹ بڑھیں تو براہ مہربانی کتب فروش سے بحث نہ کریں۔

# کتاب کے چند اہم ابواب

صفحہ نمبر 17	تاریخ تبرکات
صفحہ نمبر 49	مکہ مکرمہ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ
صفحہ نمبر 116	حضور ﷺ کی مکہ سے مدینہ ہجرت
صفحہ نمبر 173	دنیا بھر میں موجود مدینہ تبرکات نبوی ﷺ
صفحہ نمبر 261	حضور ﷺ سے منسوب مقامات متفرقہ
صفحہ نمبر 288	مکہ اور مدینہ کے تبرک پہاڑ
صفحہ نمبر 310	مکہ اور مدینہ کے تاریخی کنویں
صفحہ نمبر 328	مکہ اور مدینہ کی مشہور مساجد
صفحہ نمبر 373	حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے مزارات
صفحہ نمبر 387	تاریخ جنت البقیع
صفحہ نمبر 397	مدینہ منورہ کی مبارک وادیاں
صفحہ نمبر 415	غزوات النبی ﷺ کا تصویری البم



# فہرست

25	آثار تبرکات سے برکت کا حصول	17	باب نمبر 1
25	حضور ﷺ کا لباس مبارک	17	تاریخ تبرکات
27	زینب بنت محمد اور تہبند نبوی ﷺ	17	آثار و تبرکات کی شرعی حیثیت
27	ممبر نبوی ﷺ	17	آثار انبیاء کے اثبات پر قرآنی شواہد
27	بال نبوی ﷺ کی برکات	17	ابراہیم کے قدموں کے نشانات
28	جستجو جاء نماز نبوی ﷺ	18	متروکات نبوی ﷺ
28	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ارشادات	19	رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ سے خلفائے راشدین تک کے تبرکات
29	موجودہ تاریخی تبرکات	19	حضور ﷺ کی ذات اقدس اور آپ ﷺ کے آثار سے تبرک کا حصول
30	تبرکات نبوی ﷺ	20	ریشم سے زیادہ نازک ہاتھ
30	آپ ﷺ کا جبہ مبارک	20	حضور ﷺ سے منسوب مشکیزہ
30	موئے مبارک	21	مبارک کھجوریں
31	نفس صندوق میں محفوظ تبرکات	21	حضور ﷺ کا پیالہ مبارک
31	حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار	21	حضور ﷺ کے نعلین مبارک
32	ہیرے جواہرات کے انبار	21	حضور ﷺ کا جبہ مبارک
32	سونے سے مزین فوارہ	22	حاف نبوی ﷺ
32	الماس نامی ہیرہ	22	چادر نبوی ﷺ
33	ہیرے کا خنجر	22	حضور ﷺ کا پسینہ مبارک
33	نواردات ہی نواردات	22	وضو کا بچا ہوا مبارک پانی
33	دندان مبارک	23	سرخ رنگ کے بال مبارک
33	غلاف کعبہ کے قدیم ٹکڑے	23	آپ ﷺ نے کس طرف سے کھانا کھایا؟
33	آپ ﷺ کا خط مبارک	24	خالد بن ولید اور حضور ﷺ کے موئے مبارک
34	آپ ﷺ کی تلوار مبارک	25	نتیجہ احادیث تبرکات
34	آپ ﷺ کی چادر مبارک	25	موئے مبارک سے شفا
34	آپ ﷺ کا جھنڈا مبارک		
34	مہر مبارک		
35	حضرت بل میں موجود موئے مبارک نبوی ﷺ		

54	حضور ﷺ کے ہاتھوں حجر اسود کی تنصیب.....	36	ماہرہ میں موجود مومے مبارک ﷺ.....
56	وہ مبارک پتھر جس کا حضور ﷺ اکثر بوسہ لیا کرتے تھے	38	حضور ﷺ کا ایک نقش قدم مبارک.....
57	حضور ﷺ کا حضرت خدیجہؓ سے نکاح.....	38	دارالعلوم دیوبند کی دیوار.....
58	حضور ﷺ کا ۳ سال تک شعب ابی طالب میں قید رہنا	39	شاہی مسجد لاہور کے تبرکات.....
60	غار حرا: جہاں حضور ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی.....	39	مذکورہ تبرکات کی تاریخی حیثیت.....
62	ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ کی وفات.....	40	قصیدہ بردہ شریف حضور ﷺ کے ہاتھ میں.....
63	حضور ﷺ کا حضرت خدیجہؓ کا مکان مبارک.....	40	حضرت گنگوہیؒ اور تبرکات نبوی ﷺ.....
64	محبوب کے اشارہ پر چاند کے دو ٹکڑے.....	41	حضرت تھانویؒ اور جبہ نبوی ﷺ.....
66	معراج حبیب ﷺ.....	41	حضور ﷺ کی انگٹھی مبارک.....
67	سیدہ ام ہانیؓ کا مکان.....	44	چادر نبوی ﷺ.....
68	حضور ﷺ کے ہاتھوں غسل کعبہ.....	44	چادر نبوی ﷺ کی عجیب برکت.....
70	کعبۃ اللہ کا اندرونی منظر.....	45	آپ ﷺ کا پرچم مبارک.....
72	خانہ کعبہ کی انمول چابی.....	45	نبی کریم ﷺ کا کنگھی، سرمہ اور آئینہ کا استعمال.....
74	وہ مبارک جگہ جہاں سے حضور ﷺ بیت اللہ میں	45	حضور ﷺ کی کنگھی مبارک.....
74	عبادت کے لئے داخل ہوتے تھے.....	45	حضور ﷺ کا سرمہ مبارک.....
76	تاریخ مقام ابراہیمؑ.....	46	حضرت عثمانؓ کا قرآن مبارک.....
78	تاریخ ملتزم.....	46	ختم بخاری شریف کی برکات.....
79	میزاب رحمت.....	47	حضور ﷺ کا رومال مبارک.....
80	تاریخ رکن یمانی.....	47	محبوب کے اشارہ پر بتوں کے ٹکڑے ہو گئے.....
83	صفا روہ کی پہاڑیاں.....	48	مسجد اقصیٰ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ.....
85	باب الفتح، باب عمرہ، باب عبدالعزیز.....		<b>..... باب نمبر 2 .....</b>
	موجودہ صفا کی چٹان کا محفوظ حصہ جس پر قبلہ رو ہو کر حجاج	49	<b>مکہ مکرمہ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ</b>
86	دعا مانگتے ہیں.....	50	حضور ﷺ کی آمد پر سرزمین اسلام سے بتوں کا صفایا.....
88	فضائل آب زمزم.....	51	حریم شریفین پر تسلط کا خوفناک امریکی منصوبہ.....
90	وہ جگہ جہاں شیطان نے اسماعیلؑ کو بہکانے کی کوشش کی	52	مسجد حرام کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور رنگوں کے ایسے میں)
90	عرفات: ابراہیمؑ کی اسماعیل سے ملاقات کی جگہ.....	53	حضور ﷺ کا مکہ سے عرفات تک کا سفر کا نقشہ.....



115	..... گزاری	92	..... جبل رحمت
116	..... <b>باب نمبر 2</b> .....	93	..... وہ مبارک جگہ حضور ﷺ نے شیطان کو نکلیا ماریں
116	..... <b>حضور ﷺ کی مکہ سے مدینہ ہجرت</b> .....	94	..... مکہ مکرمہ کے چند مقدس مقامات
117	..... حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا غار ثور کی طرف سفر ...	95	..... مکہ مکرمہ کے چند مشہور تاریخی مقامات
118	..... سراقہ کی حضور ﷺ سے ملاقات	96	..... ولادت گاہ مصطفیٰ ﷺ
119	..... غار ثور سے قبا میں حضور ﷺ کی آمد	97	..... حضور ﷺ کی جائے ولادت
122	..... تعمیر مسجد قباء کے موقع پر حضور ﷺ نے اس جگہ قیام فرمایا تھا	98	..... ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ کا مکان
126	..... وہ مسجد جس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا	99	..... حضور ﷺ کی تبلیغ کا مرکزی مقام: دار ارقم
127	..... حضور ﷺ کا مدینے میں داخلہ	100	..... حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ان کا مکان
145	..... آپ ﷺ کے روضہ پر موجود 3 سوراخ	101	..... وہ مقام جہاں بیعت رضوان ہوئی
146	..... روضہ شریف	102	..... بچپن میں نبی کریم ﷺ کا شوق صدر
147	..... روضہ نبوی ﷺ کے سوراخ (روشن دان)	103	..... مقام طائف (جہاں آپ ﷺ کے پاؤں خون سے رنگین ہو گئے)
148	..... روضہ اقدس ﷺ سے دماغ کو معطر کرنے والی خوشبو کی برسات	104	..... طائف کی طرف انتہائی اذیت دہ سفر
152	..... نبی پاک ﷺ کی قبر شریف	105	..... طائف کے راستے میں مسجد عداس
153	..... روضہ رسول ﷺ سے پاؤں ظاہر ہونے کا واقعہ	107	..... وہ وادی جہاں سے حضور ﷺ کا گزر ہوا (وادی محشر)
154	..... یہ وہ جگہ ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے آپ ﷺ کا گھر تھا	108	..... پر اسرار پرندوں اور طاقتور ہاتھی فوج کے درمیان خوفناک جنگ کا بھیانک منظر
155	..... ازواج النبی ﷺ کے کچی اینٹوں کے گھر	111	..... سقیفہ بنی ساعدی (جہاں حضور ﷺ کے قدم مبارک لگے)
156	..... حجرہ نبوی ﷺ کی دیواروں پر آیات قرآنی کے نقش و نگار	112	..... میدان عرفات میں مسجد نمبرہ اور حجاج کرام
159	..... مغربی جانب ریاض الجنتہ میں حجرہ نبوی کی جالیوں کی تصویر	112	..... مسجد نمبرہ: وہ مبارک جگہ جہاں آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور خطبہ دیا
159	..... حجرہ نبوی ﷺ کے برابر شمال میں باب جبریل، باب نساء کے درمیان واقع گارڈ کا چبوترہ	113	..... مسجد خیف (۷۵ انبیاء کے نماز پڑھنے کی جگہ)
160	..... روضہ رسول ﷺ کی باہر پیتل کی جالی	114	..... منیٰ میں مسجد خیف
161	..... مسجد نبوی ﷺ کا باب جبریل	115	..... حضور ﷺ نے یہاں عید کی نماز پڑھی

199	روضۃ النبی ﷺ کی مٹی مبارک	162	چبوترہ اصحاب صفہ
	استنبول، توپ کا پی سرائے میں رسول اللہ ﷺ کے	164	اسطوانہ وفود
200	دائیں قدم نبوی ﷺ کا نشان	165	اسطوانہ تہجد
200	حضور ﷺ کا پیالہ مبارک	166	ستون حنانہ
201	رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے	167	اسطوانہ عائشہؓ
202	حضور ﷺ کی دستار مبارک کا جھنڈا	168	ستون ابولبابہؓ
203	رسول اللہ ﷺ کے عمامہ شریف	169	اسطوانہ سرید
206	رسول اللہ ﷺ کی مہر مبارک	170	اسطوانہ حرس یا اسطوانہ علیؓ
207	حضور ﷺ کی چادر مبارک	170	اسطوانہ الحرم
208	نبوی ذخائر	171	”باب الرحمۃ“ جہاں حضور ﷺ کی دعا قبول ہوئی
211	توپ کا پی میوزیم میں موجود حضور ﷺ کے درجنوں تبرکات	172	باب السلام
212	خانہ کعبہ کی 12 سوسال پرانی کنجی	172	عہد نبوی میں مسجد نبوی ﷺ کی حد
214	ہرن کی کھال پر لکھا ہوا قرآن مجید	173	.....باب نمبر 3.....
215	توپ کا پی میوزیم میں موجود بیت اللہ کا دروازہ	173	دنیا بھر میں موجود مہینہ تبرکات نبوی ﷺ
217	رسول اللہ ﷺ کی تلواریں	173	توپ کا پی میوزیم کا اندرونی منظر
220	حضرت عثمانؓ کا قرآن مبارک جو کہ قاہرہ میں محفوظ ہے	176	توپ کا پی میں تبرکات والے کمرے کا خوبصورت گنبد
220	حضور ﷺ یا حضرت علیؓ سے منسوب ذوالفقار نامی تلوار		توپ کا پی میں تبرکات نبوی ﷺ والے کمرے کی
222	رسول اللہ ﷺ کی تلوار مبارک	177	دیوار کا حسین منظر
222	حضرت خالد بن ولیدؓ سیف اللہ کی تلوار		توپ کا پی میوزیم میں موجود 800 سال پرانے غلاف
223	حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی مبارک تلواریں	179	کعبہ کا حسین منظر
224	حضور ﷺ اور صحابہؓ سے منسوب تلواریں	187	رسول اللہ ﷺ کا عصائے مبارک
229	نقش پار رسول اللہ ﷺ	189	رسول اللہ ﷺ کے اگلے دندان مبارک
232	حضور ﷺ کی نعلین مبارک کا مہینہ خاکہ	192	رسول اللہ ﷺ کے سرمہ لگانے کی سلائی
225	حضور ﷺ اور 15 صحابہؓ کی مبارک تلواریں	193	حضور ﷺ کا جبہ مبارک
	توپ کا پی میوزیم میں موجود حضور ﷺ سے منسوب	194	حضور ﷺ کا شفا یاب جبہ
227	تلوار مبارک	196	موئے مبارک

270	شہیکہ قبرستان (جہاں حضور ﷺ کے زمانہ جہلاء زندہ بچیاں دفن کر دیتے تھے).....
249	مقام بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ (جہاں حضور ﷺ نے صحابہ سے بیعت فرمائی).....
272	بصرہ کی وہ جگہ جو آپ ﷺ کی پیدائش پر روشن ہو گئی تھی
275	حضور ﷺ کے صاحبزادہ ابراہیمؑ کی قبر مبارک.....
277	قوم صالح اور قوم ثمود کے مکانات کے آثار.....
278	عام الوفود (جہاں حضور وفود سے ملاقات کرتے تھے)...
281	کسریٰ کے محل دیوار.....
282	ایوان کسریٰ اور اس کی محراب کے آثار.....
282	محل کسریٰ.....
285	قبۃ الصخرہ کا اندرونی منظر.....
287	بحیرہ راہب کی خانقاہ کا منظر.....
288	.....
288	..... باب نمبر 5.....
288	مکہ و مدینہ کے تبرک پہاڑ
289	غار حرا میں نبوت کا تحفہ.....
292	غار حرا کا خوبصورت نظارہ.....
296	جبل نور کی دور سے کھنچی گئی تصویر.....
297	سفر مکہ سے لیکر مدینہ مقام ہجرت کے مبارک مقامات...
299	غار ثور کی ہیئت.....
300	معرکہ احد.....
303	اس پہاڑ پر حضور ﷺ نے آرام فرمایا تھا.....
304	مدینہ منورہ کے ۳ مبارک پہاڑ.....
304	اس پہاڑ پر حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی.....

228	حضور ﷺ کی تلوار مبارک کا دستہ.....
230	رسول اللہ ﷺ کے نعل پاک کے نیچے کا حصہ.....
234	حضور ﷺ کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط.....
235	جامع مسجد ایا صوفیہ (عجائب گھر توپ کاپی) کا اندرونی منظر
236	نبی کریم ﷺ کا مکتوب.....
238	حارث غسانی کے نام رسول اللہ ﷺ کے گرامی نامہ کی اصل کا عکس.....
240	حضور ﷺ کے خطوط مبارک.....
244	رسول اللہ ﷺ کے کمان.....
246	نبی ﷺ کا نام مبارک بنام مقوقس.....
247	توپ کاپی میں محفوظ حضور ﷺ کے تیر کمان.....
248	حضور ﷺ سے منسوب بال مبارک.....
253	رسول اللہ ﷺ کی ڈاڑھی شریف کے موئے مبارک.....
259	حضرت فاطمہؑ کا قمیض مبارک.....
261	.....
261	..... باب نمبر 4.....
261	حضور ﷺ سے منسوب مقامات مفرقہ
262	بی بی حلیمہؑ کا گھر مبارک.....
263	وہ باغ جہاں حضور ﷺ نے کھجور کے پودے لگائے تھے
263	جنت البقیع میں موجود دانی حلیمہؑ کی قبر مبارک.....
264	دانی حلیمہؑ کا گھر مبارک.....
265	مسجد القدم (جہاں حضور ﷺ کے قدم کے نشان موجود ہیں
266	مسجد قدم کا بیرونی منظر.....
267	شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات.....
268	بحیرہ راہب کا گر جا.....

345	مسجد منارتین
345	مسجد کبش
346	مسجد المعرس
347	مسجد النود
347	مسجد عمر بن ابن الخطابؓ
348	مسجد علیؓ ابن ابی طالب
349	مسجد علیؓ
350	مسجد ابی ذرؓ
351	مسجد میقات (یا مسجد ذوالحلیفہ)
352	مسجد عتبان
354	مسجد عائشہؓ
355	مسجد المستراح
356	مسجد اجاجہ
358	مسجد سیدنا بلال ابن رباحؓ
359	مسجد بنی ساعدہ
360	مسجد سقیاء
362	مسجد سبق
363	مسجد بنی انیف
363	مسجد دار سعد بن خثیمہؓ
365	مسجد غمامہ
367	مسجد بنی بیاضہ
367	مسجد بنی عبدالاشہل
368	مسجد بنی حارثہ
369	مسجد فضیح
370	مسجد بنو ظفر
372	غار بنی حرام

..... باب نمبر 5.....

310	مکہ و مدینہ منورہ کے تاریخی کنویں
312	بئر غرس کی قدیم تصاویر
314	بئر البیضہ
317	بئر خانم کی قدیم تصویر
318	وہ کنواں جس میں حضور ﷺ کی انگوٹھی گر گئی تھی
324	حضرت علیؓ کا کنواں
325	بئر القراضہ
326	بئر متسیر (بئر الیہوب)
327	بہر عہن

..... باب نمبر 6.....

328	مکہ و مدینہ کی مشہور مساجد
329	مسجد قبلتین
330	مسجد قبلتین کا فضائی منظر
334	وہ جگہ جہاں حضور ﷺ کے ہاتھ پر ۱۲ جنات نے اسلام قبول کیا
335	ایک صحابی جن کا واقعہ
337	قدیم مسجد جن کی تصویر
338	ابلیس کے پر پوتہ کی حضور ﷺ کے پاس آمد
339	اس جگہ حضور ﷺ کے حکم پر درخت چلتا ہوا آپ ﷺ کی خدمت میں آیا تھا
340	مسجد الشخین
341	مسجد مشربہ ابراہیم
342	مسجد الرایہ
343	مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ
344	

397	..... باب نمبر 9 .....
397	مدینہ منورہ کی وادیوں کا نقشہ
398	..... وادی بطحان
399	..... وادی عقیق
400	..... وادی عرنہ
401	.....
401	ٹوپ کا پے میں موجود حضور اکرم ﷺ کے مزید نادرتبرکات
410	..... حضرت خدیجہؓ کے گھر کی منفرد نادر تصاویر
421	..... باب نمبر 10 .....
421	غزوات النبی کا تصویری البم
426	.....
426	غزوہ بدر کے رمضان ۲ھ
427	..... میدان بدر میں رسول اللہ ﷺ کے آرام کرنے کا مقام
428	..... بدر میں صحابہ کرام اس حوض سے سیراب ہوتے رہے...
430	..... میدان جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے آرام فرمانے کی مقدس جگہ
430	..... غزوہ بدر کا چشمہ اور مسجد عریش صحابہ کرام نے اس چشمہ سے پانی پیا تھا
431	..... بدر کے شہداء یہاں آرام فرما ہیں
432	..... بدر کا 1400 سال پرانا کنواں اور میدان بدر
433	..... مسجد بدر: وہ مقام جہاں غزوہ بدر ہوا
433	..... شہداء بدر کی یاد میں ان کے اسماء سے مزین کتبہ
434	..... مسجد عریش کے سامنے میدان جنگ کا ایک حصہ جہاں اب کھجوروں کا باغ ہے
434	..... اس کنویں کا مقام جسے رسول اللہ ﷺ نے حضرت حبابؓ کے مشورہ پر باقی رہنے دیا

372	..... قبیلہ بنو حرام کا علاقہ
373	..... باب نمبر 7 .....
373	حضور کی ازواج مطہرات کے مبارک مزارات
374	..... ازواج مطہرات
374	..... حضور ﷺ کی زوجہ حضرت صفیہؓ کی قبر مبارک
375	..... حضور کی زوجہ ام حفصہؓ کی قبر مبارک
375	..... ام حبیبہؓ کی قبر مبارک
379	..... حضور ﷺ کی زوجہ ام سلمہؓ کی قبر مبارک
380	..... جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہؓ کی قبر مبارک
381	..... حضور ﷺ کی زوجہ ام میمونہؓ کی قبر مبارک
382	..... حضور ﷺ کی زوجہ ماریہ قبطیہؓ کی قبر مبارک
383	..... جنت البقیع میں ازواج مطہرات حضرت عائشہؓ، حضرت سوڈہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت جویریہؓ کا مزار
385	..... حضور ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کا گھر مبارک
386	..... حضور ﷺ کی والدہ حضرت آمنہؓ کا مزار
387	..... باب نمبر 8 .....
387	تاریخ جنت البقیع
388	..... جنت البقیع مدینہ منورہ کا انتہائی حسین منظر
390	..... جنت البقیع میں مدفون صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام مبارک
394	..... حضور ﷺ کی صاحبزادیوں اور بیٹے یہاں مدفون ہیں
395	..... مکہ مکرمہ کے تاریخی قبرستان ”جنت المعلیٰ“
395	..... جنت البقیع میں حضور ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب اور حضرت عبدالمطلب کے مزارات
396	..... حضور ﷺ کی صاحبزادی زینب بنت محمدؓ کی قبر مبارک


435	میدان بدر میں صحابہؓ کی قبر پر لگے ہوئے دو کتبات ...
436	غزوہ بدر کا پرانا کنواں جس میں مقتولین قریش کے لاشے ڈالے گئے
437	بدر کے قدیم شہر کا ایک حصہ
438	غزوہ احد شوال ۳ھ
439	وادی احد کا ایک دل فریب منظر
439	جبل احد
439	مسجد سید الشہداء
440	جنگ احد کا تاریخی منظر
443	جبل الرماة
444	غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہؓ کے مزارات ...
446	غزوہ احد کے قریب حضرت امیر حمزہؓ، حضرت مصعب بن عمیرؓ کی قبریں
447	غزوہ احد کا وہ مبارک غار جس میں زخمی ہونے کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ نے آرام فرمایا تھا
448	غزوہ احد میں تیر اندازوں کا ٹیلہ
449	مرقد عمرو بن جموح
449	جبل حراء الاسد
450	غزوہ خندق
451	غزوہ خندق میں موجود جبل زباب نامی پہاڑ
452	نقشہ جنگ خندق ۵ھ
453	غزوہ احزاب
454	حضرت سلمان فارسیؓ کا مقبرہ
455	ذباب پہاڑی کا ایک منظر
456	یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر نماز پڑھی
457	سلع پہاڑی
458	غزوہ خندق کی وہ جگہ جہاں صحابہؓ کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا ...
458	کوہ تیاب احد کے مشرق میں وادی قنہ کے قریب واقع ہے
59	مقام خندق اور اس کے پیچھے احد پہاڑ نمایاں ہے ...
459	جبل سلع کا منظر
460	غزوہ خندق کے وہ 5 مقامات جہاں حضور ﷺ نے نمازیں پڑھیں
461	مسجد فتح کی قدیم تصویر
461	خندق میں موجود مسجد فتح تعمیر کے بعد
462	خندق کی جگہ بنی ۵ مساجد کا نقشہ
462	خندق کی وہ جگہ جہاں حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی ...
463	مسجد سلمان فارسیؓ
464	غزوہ خندق میں موجود 6 مساجد
464	مسجد علیؓ (نئی تعمیر سے پہلے)
465	جبل سلع اور مسجد بنی حرام
466	سلع نامی پہاڑی
467	غزوہ بنی قریظہ
468	مرحب نامی یہودی کا قلعہ
469	مسجد فصیح (جہاں حضور اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی) ..
469	مسجد فصیح کی قدیم تصویر
470	غزوہ بنی قریظہ کے مقام پر موجود مسجد بنی قریظہ
471	سلع حدیبیہ ذیقعدہ ۶ھ
472	حدیبیہ کا قدیم کنواں

486	غزوة موتہ کے شہداء کی اجتماعی قبر، قدیم مسجد اور میدان موتہ
488	.....
488	مقام حضرت شرجیل بن حسنہؓ
488	.....
488	مقام شہید موتہ حضرت زید بن حارثہؓ
488	.....
488	مقام شہید موتہ حضرت ضرارؓ
488	.....
488	شہید موتہ، حضرت جعفر طیارؓ کا مزار
488	.....
488	شہید موتہ، حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کا مزار مبارک
488	.....
488	موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کے مزار کا اندرونی منظر
489	.....
489	غزوة موتہ کے میدان میں موجود شہداء کی اجتماعی قبر
490	.....
490	<b>فتح مکہ</b>
490	.....
490	خانہ کعبہ کی چھت پر اسلامی پرچم
490	.....
490	وہ مقام جہاں فتح مکہ کے موقع پر فتح کا جھنڈا نصب کیا گیا تھا
491	.....
491	مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا شاندار داخلہ
492	.....
492	<b>غزوة حنین</b>
492	.....
492	غزوة حنین کے تاریخی مقامات
493	.....
493	غزوة حنین میں شہید ہونے والے صحابہ کا قبرستان
494	.....
494	<b>غزوة طائف</b>
494	.....
494	وادی طائف کا پر نور منظر
495	.....
495	طائف میں واقع مسجد بلال
496	.....
496	مسجد شراعیع
496	.....
496	النزلة الیمانیہ
497	.....
497	طائف شہر کا فضائی منظر

473	.....
473	مسجد شمیمس جو صلح حدیبیہ کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی
473	.....
473	مقام غزوة حمراء الاسد
474	.....
474	<b>غزوة خیبر و فدک</b>
475	.....
475	خیبر میں موجود یہودیوں کے قلعوں کا نقشہ
477	.....
477	خیبر میں موجود یہودی قلعوں کا منظر
477	.....
477	خیبر میں موجود عین الہمامہ نامی چشمہ
478	.....
478	غزوة خیبر میں مسجد خیبر
478	.....
478	موجود خیبر کا دروازہ (باب الداخلہ) کا منظر
479	.....
479	خیبر میں کعب بن اشرف کا قلعہ
479	.....
479	کعب بن اشرف کون؟
479	.....
479	کعب بن اشرف کی ناکام سازش
479	.....
479	محمد بن مسلمہ اور کعب بن اشرف کے درمیان مکالمہ
480	.....
480	کعب بن اشرف کا قتل
480	.....
480	کعب بن اشرف کے جرائم
480	.....
480	خیبر میں موجود یہودی قلعوں کا نظارہ
481	.....
481	کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کا اندرونی منظر
482	.....
482	کعب بن اشرف نامی یہودی کے قلعے کے کھنڈرات
483	.....
483	کعب بن اشرف کے باغات
483	.....
483	کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کا بیرونی منظر
484	.....
484	خیبر میں موجود یہودیوں کے مکانات
485	.....
485	قلعہ قموص
485	.....
485	مقام قلعہ قموص کے نیچے مسجد علیؓ کا محراب
486	.....
486	<b>غزوة موتہ</b>
486	.....
486	موتہ کی لڑائی اور اسلام کی فتح

503	..... تبوک میں قائم مسجد الرسول ﷺ
503	..... غزوہ تبوک میں موجود مسجد تبوک
505	.....
	<b>حجۃ الوداع</b>
505	..... رسول اللہ ﷺ کا آخری حج


498	<b>غزوہ تبوک رجب ۹ھ</b>
499	..... تبوک میں موجود قلعہ کا منظر
500	..... جدید تبوک شہر کی آبادی
501	..... تبوک کا ایک قبرستان
501	..... تبوک میں موجود سعودی چھاؤنی کا منظر
502	..... تبوک کی ایک عالیشان مسجد






حضور ﷺ کے جسم مبارک کو  
چرانے کی عیسائی سازش


مسجد نبوی ﷺ کی جدید توسیع کی حالیہ کھدائی میں وہ سرنگ برآمد ہوئی ہے جس کے ذریعہ دو یہودیوں نے حضور ﷺ کے جسم اطہر کو روضہ رسول سے چرانے کی سازش کی تھی پھر سلطان نورالدین زنگی جو کہ شام کے بادشاہ تھے۔ ۱۱۱۸ء میں ان کو 3 مرتبہ خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی جس میں حضور ﷺ نے فرمایا اے سلطان مجھے 2 راہوں سے بچاؤ یہ حکم ملتے ہی سلطان 20 سپاہیوں کے ساتھ 16 دن میں مدینہ منورہ پہنچے وہاں تحقیق کے بعد 2 راہوں کا پتہ چلا کہ یہ لوگ مدینہ میں نئے ہیں اور مشکوک معلوم ہوتے ہیں چنانچہ سلطان جب ان کے خیمہ تک گئے تو دیکھا خیمہ کے بیچ میں چٹائی کے نیچے سرنگ بنی ہوئی تھی جو آپ ﷺ کی قبر تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ سلطان نے ان دونوں کو قتل کیا اور حضور ﷺ کے روضہ مبارک کے چاروں طرف کئی فٹ لمبی خندق کھود کر اس میں سیسہ بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی سازش نہ کر سکے۔



سلطان نورالدین زنگی کی قبر مبارک



سرنگ کی چوڑائی اور لمبائی دیکھی جاسکتی ہے یہ اس کا دروازہ ہے اور قبر مبارک تک اسی گہرائی سے کھودی گئی تھی۔ (تصویر بٹکر یہ مصباح الدین)



مسجد نبوی کی توسیع کے دوران کھدائیوں میں برآمد ہونے والی وہ سرنگ جو عیسائی راہبوں نے بنائی تھی

فرماتا ہے:

”ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى

للعالمين فيه آيات بينت مقام ابراهيم.“

**تَرْجَمًا:** ”بے شک سب میں پہلا گھر کہ لوگوں کے لئے مقرر فرمایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہاں کو راہ دکھاتا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کا پتھر جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ بنایا، ان کے قدم پاک کا نشان اس پتھر پر نقش ہو گیا۔“

**ابراہیم کے قدموں کے نشانات** تفسیر کبیر میں

ہے: کعبہ معظمہ کی ایک فضیلت مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جتنا ٹکڑا ان کے زیر قدم آیا ترمٹی کی طرح نرم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کا قدم مبارک اس میں نقش گیا اور یہ خاص قدرت الہیہ و معجزہ انبیاء ہے۔ پھر جب ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام نے قدم اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس ٹکڑے میں پتھر کی سختی پیدا کر دی کہ وہ نشان قدم محفوظ ہو جائے۔ پھر اسے حق سبحانہ نے مدتہمدت باقی رکھا۔ تو یہ اقسام اقسام کے عجیب و غریب معجزے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں ظاہر فرمائے۔

ارشاد العقل السليم میں ہے: اسی ایک پتھر کو اللہ تعالیٰ نے

متعدد آیات میں بیان فرمایا۔ اس لئے کہ اس میں ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کا نشان قدم ہو جانا ایک، اور ان کے قدموں کا گٹوں تک اس میں پیر جانا، دو۔ اور پتھر کا ایک ٹکڑا نرم ہو جانا باقی کا اپنے حال پر رہنا، تین۔ اور معجزات انبیاء سابقین علیہم السلام میں اس معجزہ کا باقی رکھنا، چار۔ اور باوجود کثرت اعداء ہزاروں برس اس کا محفوظ رہنا، پانچ۔ یہ ہر ایک بجائے خود ایک آیت معجزہ ہے۔

## تاریخ تبرکات نبوی ﷺ

عموماً کلام میں مستعمل الفاظ، برکت، برکت، تبرک، تبارک،

مبارک وغیرہ سب ایک ہی مادہ ”برک“ سے بنے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے کہا کہ برکت کا معنی ہے ”کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا۔“

سب سے بابرکت ذات قرآن مجید کہتا ہے: ”تبارک الذی بیدہ الملک“ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔

قرآن اور برکت ”ہذا ذکر مبارک انزلناہ“ یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام بھی مبارک ہیں حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کا مقولہ ہے: ”وجعلنی مبارک کا اینما کنت۔“

**تَرْجَمًا:** میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ ”و بارکنا علیہ و علی اسحاق۔“

**تَرْجَمًا:** ہم نے اس (ابراہیم) اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں۔ بعض مقامات بھی مبارک ہیں ”و بارکنا فیہا“

**تَرْجَمًا:** اور علاقہ شام میں ہم نے برکت رکھی ہے۔

## آثار و تبرکات کی شرعی حیثیت

تبرکات کی اہمیت پر قرآن و حدیث اور اقوال انبیاء کے

ناقابل تردید ثبوت۔

آثار انبیاء کے اثبات پر قرآنی شواہد اللہ تبارک و تعالیٰ

مولیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”قال لهم نبیہم ان آية ملكہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ من ربکم وبقیة مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکة ان فی ذالک لایة لکم ان کنتم مومنین.“

ترجمہ: ”بنی اسرائیل کے نبی شمویل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ سلطنت طاہوت کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور موسیٰ و ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں بے شک اس میں تمہارے لئے عظیم نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“

نبی ﷺ کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جس کی برکت سے بنی اسرائیل ہمیشہ کافروں پر فتح پاتے رہے۔ اس میں کیا تھا ”بقیة مما ترک آل موسیٰ و ہارون“ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات سے کچھ بقیہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور نعلین مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ وغیرہ۔

### متروکات نبی ﷺ

سیرت پاک کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں متروکات نبی ﷺ کی سب سے زیادہ مستند فہرست حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے اپنے کتاب ”سید المرسلین“ کے صفحہ ۸۰ میں لکھی ہے۔ ذیل میں ہم اس کی نقل پیش کرتے ہیں۔  
وصال کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ چیزیں چھوڑیں:


- 1) دو یمنی چادریں، ایک یمانی آزار بند، دو عدد صحاری کپڑے، ایک صحاری اور ایک سحوی قمیض، ایک یمنی جبہ، ایک منقش چادر تین یا چار عدد چھوٹی دیوار والی ٹوپیاں، ایک رنگ دار لحاف۔
- 2) آنحضرت ﷺ کے پاس چمڑے کا ایک تھیلا بھی تھا جس میں آئینہ، کنگھی، سرمہ دان اور مسواک رکھا کرتے تھے۔
- 3) سرور عالم ﷺ کا بچھونا چمڑے کا تھا، اس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے۔
- 4) آنحضرت ﷺ کے پاس ایک پیالہ تھا، جس پر مضبوطی کے لئے تین جگہ چاندی کے پترے لگے ہوئے تھے، کانچ کا ایک برتن حنا وغیرہ کے استعمال کے لئے تھا، جب حضور ﷺ اپنے سر مبارک میں حرارت محسوس کرتے تو حنا استعمال فرماتے تھے۔
- 5) آپ ﷺ کے پاس بلور کا ایک پیالہ، ایک ڈول غسل کے لئے، ایک اور بڑا پیالہ اور ایک پتھر کا برتن بھی تھا۔
- 6) صدقہ فطر ناپنے کے لئے ایک پیانہ بھی تھا۔ اس پیانہ کا وزن 58.5 تولہ تھا۔
- 7) چاندی کی انگشتری بھی آنحضرت ﷺ کے پاس تھی۔ اس میں نگینہ بھی چاندی کا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ یہ انگشتری لوہے کی تھی اور نگینے کو چاندی کے ٹانکے سے جوڑا گیا تھا۔
- 8) شاہ نجاشی نے دو جوڑے موزے آنحضرت ﷺ کی خدمت پاک میں ہدیہ بھیجے اور آپ نے انہیں استعمال فرمایا۔
- 9) آنحضرت ﷺ کے کبل اور عمامہ (جس کو سحاب کہا جاتا ہے) کارنگ سیاہ تھا۔
- 10) عام استعمال کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے حضور ﷺ کے پاس ایسے بھی تھے جنہیں خاص طور پر جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔

(11) ایک رومال بھی تھا جس کو وضو کے بعد استعمال فرماتے تھے۔

دوسری کتابوں کی بعض روایات کے مطابق آپ کے کچھ ہتھیار مثلاً زرہ، کمائیں، تیر اور ڈھال وغیرہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے تھیں وہ بھی تر کے میں شامل تھیں۔ ایک چارپائی اور بستر کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ ترکہ اس شاہ عرب و عجم کا تھا جس کی ایک جنبش نگاہ پر لوگ اپنی جان قربان کرنے کو دنیا جہاں کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے اور جس کی فیاضی و سخاوت کی نظیر آج تک کوئی پیش نہ کر سکا۔

ان متروکات کا (Disposal) کیا ہوا اس کے متعلق زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ اور یوں بھی نبی کا ترکہ عوام الناس کی ملکیت ہو جاتا ہے یہ وراثت نہیں ہوتی نہ وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں چند چیزوں کے مسجد نبوی میں کسی جگہ دفن کر دینے کی روایات ملتی ہیں اور یہ دفن بھی آپ ﷺ کے وصال کے بہت بعد کی بات ہے۔

ایک نہایت قوی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے ایک تلوار، ایک نیزہ، ایک زرہ، ایک خود، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک گھوڑا جس کا نام دلدل تھا اور ایک سانڈنی جس کا نام عضبا تھا اپنے متروکات میں چھوڑا ہے۔ جبکہ لونڈی غلام آپ نے اپنے وصال سے پہلے آزاد کر دیئے تھے۔



۶۵ھ میں سلطان ناصر الدین نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک گنبد بنانے کا حکم دیا تاکہ آنحضرت ﷺ کے متروکات کو محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ متروکات نبوی میں سے جو میسر ہوئی اس

میں رکھی گئیں، ان میں سے ایک اونی چادر اور ایک سوتی چادر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ تھیں۔

یہ چادریں وہ ہیں جن میں آنحضرت ﷺ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ایک طیالیسی جبہ تھا جس کی کفوں پر ریشم لگا ہوا تھا۔ آپ اسے وقتاً فوقتاً پہنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک حصہ پانی میں بھگو کر یہ پانی مریض کو پلایا جاتا تھا اور وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ اور محفوظات بھی اس میں رکھی گئیں جیسے خانہ کعبہ کی چادر اور جانماز اور جھنڈے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت کی محفوظات وغیرہ ان میں سے کچھ آستانہ (ترکی) کے عجائب گھر میں بھیج دی گئیں۔

آثار صحابہ سے ثابت ہے کہ جس چیز کو کسی طرح آپ ﷺ سے کوئی علاقہ بدن اقدس سے چھونے کا ہوتا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرماتے آئے۔ اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کے لئے کسی سند کی بھی حاجت نہیں۔ بلکہ جو چیز حضور ﷺ کے نام پاک سے مشہور ہو اس کی تعظیم شعائر دین میں سے ہے۔ شفا شریف، مواہب لدنیہ اور مدارج شریف وغیرہ میں ہے:

”من اعظامہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظام جمیع اسبابہ و مالمسہ او عرف بہ۔“

ترجمہ: یعنی رسول ﷺ کی تعظیم میں سے ہے ان تمام اشیاء کی تعظیم جن کو نبی ﷺ سے کچھ علاقہ ہو اور جسے نبی ﷺ نے چھوا ہوا جو حضور کے نام پاک سے مشہور ہو۔

رسول ﷺ کی تعظیم کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور ﷺ سے کچھ علاقہ ہو، حضور ﷺ کی طرف منسوب ہو،

تو شق فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیرے اور میرے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں۔

اور یہ برکت عظیمہ آپ ﷺ کا ہی خاصہ تھی۔ اور اللہ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى کے اذن و امر سے ہی حاجت مند کو فیض یاب کرتی تھی۔

آپ ﷺ کے تبرکات کی اہمیت صحابہ کی نظر میں

صحیح بخاری شریف ”کتاب اللباس“ میں عیسیٰ بن

طہمان سے روایت ہے:

”قال اخرج اليسنا انس بن مالك رضى الله عنه نعلين

لهما قبالة فقال ثابت البناني هذا نعل النبي صلى الله

عليه وسلم.“

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دو نعل مبارک

ہمارے پاس لائے کہ ہر ایک میں بندش کے دو تھے تھے۔ ان کے

شاگرد رشید ثابت بنانی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کی

نعل مقدس ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور آثار مصطفیٰ ﷺ حضرت ابو ہریرہ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت امام حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے سوال کیا کہ

ان کو وہ جگہ دکھائیں جس پر نبی اکرم ﷺ نے بوسہ دیا تھا۔ انہوں

نے ناف کے بارے میں بتایا تو اس جگہ کو حضرت ابو ہریرہ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آثار و ذریت مصطفوی سے برکت حاصل کرنے

کے لئے بوسہ دیا۔

ریشم سے زیادہ نازک ہاتھ حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

فرماتے ہیں: ”میں نے کبھی کوئی ریشم رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلی سے

زیادہ نرم نہیں چھوا۔ اور نہ کوئی خوشبو حضور ﷺ کے بدن مبارک

سے زیادہ خوشبودار سونگھی۔“ اسی طرح بیان کرتے کرتے فرط محبت

سے اتنے بے قرار ہوئے کہ گریہ طاری ہو گیا اور زبان پر بے اختیار

یہ الفاظ آ گئے۔

حضور ﷺ نے اسے چھوا ہو یا حضور ﷺ کے نام پاک سے پہچانی

جاتی ہو ان سب کی تعظیم کی جائے۔ خالد بن ولید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی

ٹوپی میں چند موئے مبارک تھے۔ کسی لڑائی میں وہ ٹوپی گر گئی۔

خالد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کے لئے ایسا شدید حملہ فرمایا جس پر اور

صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے انکار کیا اس لئے کہ اس شدید سخت

حملہ میں بہت سے مسلمان کام میں آئے۔ خالد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے

فرمایا میرا یہ حملہ ٹوپی کے لئے نہ تھا بلکہ موئے مبارک کے لئے تھا کہ

مبادا اس کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ

لگیں۔

اور ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو دیکھا گیا کہ منبر اطہر سید

عالم ﷺ میں جو جگہ جلوس اقدس کی تھی اسے ہاتھ سے مس کر کے وہ

ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیتے۔

حضور ﷺ کی ذات اقدس اور آپ کے آثار سے تبرک کا حصول

میرے بھائیوں! اس بات میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں

کہ رسول ﷺ کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ رب تعالیٰ نے ان

میں ایسی برکت رکھی ہے جو ان ہی کے ساتھ خاص ہے اور صحابہ

کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ جیسا کہ بخاری

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی

روایت نقل کی ہے کہ: ”نبی ﷺ اپنی آخری مرض الوفا میں اپنے

آپ پر معوذات سے دم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ﷺ

کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی تو میں وہ معوذات پڑھتی اور آپ

ﷺ کے ہاتھ پکڑ کر ان کے جسم پر پھیرتی۔ بسبب ان کی برکت کے۔“

تو حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا رسول اللہ ﷺ کے

ہاتھ کی برکت سے باخبر تھیں اور ان کے اپنے ہاتھ سے ہی ان کے

جسم مبارک پر مسح کرتی تھیں اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس عمل کی

**حضور ﷺ سے منسوب مشکیزہ:** کبشہ صحابیہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر تشریف لائے اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزہ سے منہ لگا کر کھڑے کھڑے پانی پیا۔ میں کھڑی ہوئی اور بعد میں اس دہانہ مشک کو کاٹ کر تبرک اپنے پاس رکھ لیا۔

**مبارک کھجوریں** حضرت ابو ہریرہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کا واقعہ ہے کہ چند کھجوریں حضور ﷺ نے ان کو دم کر کے دی تھیں جنہیں انہوں نے ایک توشہ دان میں رکھ لیا تھا اور ان میں ایسی برکت ہوئی کہ ہمیشہ ان میں سے کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کے واقعہ شہادت میں وہ ان کے پاس سے کہیں گم ہو گیا۔ جس کا انہیں بہت صدمہ ہوا۔

وہ اکثر کہتے تھے کہ لوگوں کو ایک غم ہی ہے (حضرت عثمان **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کی شہادت کا) اور مجھے آج دو غم ہیں توشہ دان کے کھوئے جانے کا غم اور حضرت عثمان **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کے شہید ہوجانے کا غم۔ حضرت ابو ہریرہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کو اس برکت نبی ﷺ کے فوت ہوجانے کا غم تھا جو ان کھجوروں میں تھی۔

عشاق کی یہی حالت ہوتی ہے کہ محبوب کی ذرا ذرا سی چیز پر جان دیتے ہیں

عشاق کو اس حب منزل محبوب کی بنا پر جنت کی بھی تمنا اسی طمع و اشتیاق میں ہوگی کہ وہاں جنت میں حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ جنت میں گوراحت تو انشاء اللہ ملے گی مگر عشاق کو جنت کی اصل تمنا اور آرزو زیادہ اسی لئے ہوتی ہے کہ وہاں حضور ﷺ کی زیارت ہوگی۔ تو گویا جنت میں بھی آپ ﷺ کی ذات بابرکات ہی مقصود ہوگی۔

**حضور ﷺ کے مبارک بال** حجۃ الوداع کے موقع پر حضور ﷺ نے ایک سوانٹ کی قربانی ادا فرمائی۔ ۶۳ اونٹ آپ

ﷺ نے خود اپنے دست اطہر سے ذبح کئے اور ۳۷ کی حضرت علی المرتضیٰ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** نے قربانی کی۔ قربانی سے فارغ ہو کر سر مبارک معمر بن عبد اللہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** سے منڈوایا۔ فرط محبت سے حضرت ابو طلحہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** کو اپنے کچھ مبارک بال عنایت فرمائے اور باقی ماندہ بال حضرت ابو طلحہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کر دیئے۔

**حضور ﷺ کا پیالہ مبارک** حضرت خدش بن ابی خدش **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کے پاس حضور اقدس ﷺ کا استعمالی پیالہ شریف تھا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** جب کبھی حضرت خدش **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ پیالہ منگواتے اور اس میں آب زمزم رکھ کر پیتے، پھر اپنے چہرے پر اس پانی کے چھینٹے مارتے۔

**حضور ﷺ کے نعلین مبارک** خالد بن ولید **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** خود آپ کے پاس سرکار اقدس ﷺ کے نعلین مقدس اور پیالہ شریف کی گراں بہادولتیں موجود تھیں۔

**حضور ﷺ کا جبہ مبارک** سراج العاشقین حضرت اویس قرنی **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کے لئے حضور اکرم ﷺ نے اپنے ایک جبہ مبارک کے متعلق وصیت فرمائی کہ ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے وصال کے کچھ عرصہ بعد حضرت **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** اور حضرت علی **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** نے یہ جبہ مبارک ان تک پہنچایا۔

اس روایت پر تقریباً سب علماء اور صوفیاء کا اتفاق ہے۔ شاہ جہان بادشاہ کے پوتے اور شہزادہ دارالشکوہ کے بیٹے مرزا محمد اختر دہلوی نے ”تذکرۃ الاولیاء“ میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ حضرت اویس قرنی **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کے مزار پر پہنچے اور جبہ مبارک کو چھت کے ساتھ

**حضور ﷺ کا پسینہ مبارک** مسلم شریف میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں آرام فرماتے۔ اور بعض اوقات وہ گھر پر بھی نہ ہوتیں۔ ایک موقع پر آپ ﷺ ان کے گھر تشریف لے گئے اور بستر پر سو گئے۔ انہیں خبر دی گئی کہ رسول اللہ ﷺ تو آپ کے گھر کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ وہ آئیں اور دیکھا کہ آپ ﷺ کو پسینہ آ رہا ہے اور چمڑے کے بستر کے ایک حصہ پر پسینے کے قطرے جمع ہو گئے ہیں۔

چنانچہ وہ ایک ڈبہ سالے آئیں اور اسی میں آپ ﷺ کے پسینے کے قطرات جمع کرنے لگیں۔ اس کیفیت میں آپ بڑا کر اٹھے اور پوچھا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب ان مبارک قطرات میں ہم اپنے بچوں کے لئے برکت کے امیدوار ہیں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا درست ہے۔

اور آپ وہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ کو نیند آ جاتی تو وہ آپ کا پسینہ اور گرے ہوئے بال جمع کر کے شیشی میں ڈال لیتیں اور پھر دوسری خوشبوؤں میں ملا لیتی تھیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں اپنی خوشبو میں ملا لیتی ہوں۔ (صحیح مسلم)

**وضو کا بچا ہوا مبارک پانی** حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وضو کا پانی لے کر نکلے تو کوئی اس پانی کو لے رہا ہے کوئی دوسرے سے برتری حاصل کر کے مل رہا ہے۔

شرح مسلم میں اس حدیث کے تحت فرمایا: **”فیہ التبرک بائثار الصالحین واستعمال فضل طہور ہم و طعا مهم و شرابهم و لباسهم۔“** اس میں آثار صالحین سے برکت حاصل کرنے اور ان کے وضو و غسل سے بچے ہوئے پانی اور ان کے

معلق پایا تو اپنا سر اس کے نیچے جھکا دیا اور کافی دیر تک اسی حالت میں رہے کیونکہ فیوض و برکات اور انوار و تجلیات کا فیضان بہت زیادہ تھا۔ **حضور ﷺ کے ناخن مبارک** خادم رسول اللہ ﷺ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی یہ مشاہداتی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ناخن مبارک ترشوا کر غلاموں کو عطا فرمائے۔

**لحاف نبوی ﷺ** سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ لحاف اور تہبند سنبھال رکھا تھا جس میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا وصال شریف ہوا۔

**چادر نبوی ﷺ** سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ ﷺ کے ہاں آئیں وہ ایک خوبصورت نقش چادر لائی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کیا آپ ﷺ اسے پہننا پسند فرمائیں گے؟ تو وہ آپ ﷺ نے لے لی اور آپ کے قبول کرنے کے انداز سے محسوس ہوتا تھا گویا آپ ﷺ کو اس کی ضرورت ہے اور پھر آپ ﷺ نے اسے اوڑھ بھی لیا۔ ایک صحابی نے دیکھا اور کہنے لگا حضرت یہ تو بہت خوبصورت ہے! آپ ﷺ یہ مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لے لو۔

جب نبی ﷺ مجلس سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے اس صحابی کو ملامت کیا اور کہنے لگے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جبکہ تم نے دیکھا بھی آپ ﷺ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ آپ ﷺ کو اس کی ضرورت ہے اور پھر بھی تو نے وہ مانگ لی۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جب بھی آپ ﷺ سے کوئی شے مانگی جائے آپ ﷺ انکار نہیں فرماتے۔ وہ کہنے لگا دراصل جب آپ ﷺ نے اسے پہن لیا تو اس کے بابرکت ہونے کے خیال سے مانگ لیا شاید یہ میرا کفن بن سکے۔ (صحیح بخاری)

کھانے، پینے اور لباس کے بقیہ کے استعمال کے سلسلہ میں دلیل ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ جناب سائب بن یزید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لے گئیں اور کہا حضور! میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو والے پانی سے تھوڑا سا پیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی جو کچا دے بٹن یا گرہ کی مانند تھی۔ (صحیح مسلم)

اسی سلسلہ میں صلح حدیبیہ کے واقعہ میں امام بخاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ یہ روایت لائے ہیں کہ قریش مکہ کا نمائندہ عروہ اصحاب رسول کو نہایت غور سے دیکھتا رہا۔

وہ کہتا ہے کہ جو نبی آپ ﷺ تھوکتے تو وہ تھوک بجائے زمین کے کسی صحابی کے ہاتھوں پر پہنچتی اور وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اگر وہ کوئی حکم دیتے تو سب فوراً بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیل کرتے۔ اور جب آپ ﷺ وضو فرماتے تو اس پانی پر ان کی خوب کھینچا تانی ہوتی اور جب آپ ﷺ بولتے تو آپ کے سامنے وہ آوازیں پست کر لیتے اور عظمت و تکریم کے باعث آپ ﷺ سے نظریں نہ ملاتے تھے۔

سرخ رنگ کے بال مبارک ایک اور روایت میں مالک بن اسماعیل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن عبد اللہ بن موہب سے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ام المؤمنین کے ہاں پانی کا پیالہ دے کر بھیجا۔

اسماعیل نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنی تین

انگلیاں بند کر لیں یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ پیالہ چھوٹا سا تھا۔ یا اس میں پانی تھوڑا سا تھا) اس میں رسول اللہ ﷺ کا ایک بال رکھا ہوا تھا۔ تو جسے نظر لگ جاتی تھی یا کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے ہاں اپنا پانی کا برتن بھیج دیتا۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈبیہ میں دیکھا تو سرخ رگ کے چند بال دکھائی دیئے۔ (صحیح بخاری)

آپ ﷺ نے کس طرف سے کھانا کھایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی حدیث ہے:

”اَکَل مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ انی۔“

ایک موقع پر آپ ﷺ نے کھانا کھایا اور بقیہ میری جانب بھیج دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے: ”سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ اصَابِعِهِ فَتَبِعَ مَوْضِعَ اصَابِعِهِ.“ حضرت ایوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پہلے یہ دریافت فرماتے کہ سرکار نے کہاں انگلیاں رکھ کر تناول فرمایا پھر خاص اسی جگہ سے اٹھاتے۔

شرح حدیث: اس حدیث کے تحت شرح مسلم میں ہے:

”فِيهِ التَّبَرُّكُ بِأَثَارِ الْخَيْرِ فِي الطَّعَامِ“۔

تَرْجَمَةً: ”اس میں کھانے وغیرہ میں بزرگ ہستی سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔“

شرح مسلم شریف میں عثمان بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

کی حدیث ہے: ”انی احب تاتینى و تصلى فى منزلى

فاتخذہ مصلى“۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف

لائیں اور میرے گھر نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے جائے نماز

بنالوں۔

امام ابو زکریا نووی (ولادت ۶۳۱ھ وفات ۶۷۷ھ)

اس حدیث کے تحت اپنی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:



لوگوں میں تقسیم کر دو۔“

خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک

عمرہ جہرانہ میں سر اقدس کے حلق کے بعد موئے مبارک

تقسیم ہوئے، حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس

کے شاہد اور اس دولت عظمیٰ سے شرف یاب ہیں۔ ایک دوسرے

موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہنی جانب کے

سارے موئے مبارک عطا فرما کر بائیں جانب کے موئے مبارک

تقسیم کر دینے کا حکم دیا۔ (رواہ الشیخین)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نامور

سپہ سالار تھے۔ فتح و نصرت نے جن کے قدم ہمیشہ چومے انہوں نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک اپنی ٹوپی کے اندر سی لئے تھے

اور انہیں اس بات کا پختہ یقین تھا کہ ان موئے مبارک کی برکت سے

انہیں اللہ پاک ہمیشہ فتح سے نوازیں گے۔ اس لئے بے دھڑک

لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا جایا کرتے تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں

کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔

حضرت قاضی عیاض رحمہم اللہ تعالیٰ نے ”شفا“ میں

ایک واقعہ لکھا ہے کہ رومیوں کے خلاف ایک جنگ میں ان کے سر

سے وہ ٹوپی گر پڑی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک موجود

تھے۔ تو اس کے لئے انہوں نے غنیمت پر ایسا سخت حملہ کیا جو ان کے

ساتھیوں کو غیر معمولی معلوم ہوا۔ کیونکہ اس حملہ میں بہت سے آدمی

ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔

جنگ کے بعد ساتھیوں نے جب یہ دریافت کیا کہ اس

سے پیشتر آپ نے کبھی اس قدر سخت حملہ نہ کیا تھا پھر آج کیا وجہ ہوئی

کہ آپ نے غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو آپ نے

جواب دیا کہ میں نے حملہ ٹوپی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس میں

”فی هذا الحديث انواع من العلم. ففيه التبرک

بآثار الصالحين و فيه زيارة العلماء والفضلاء والكبرا

واتباعهم وتبريكهم اهامم.“

اس حدیث سے چند چیزوں کا علم ہوا۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ

صالحین کے آثار سے برکت حاصل کی جائے۔ اسی طرح اس سے

اہل علم و فضل اور بزرگان کا اپنے معتقدین و تبعین کی ملاقات کے

لئے جانا اور انہیں اپنی برکتوں سے نوازنا بھی ثابت ہوتا ہے۔

اسی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں:

”فی حدیث عتبان هذا فوائد كثيره، منها التبرک

بالصالحين و آثارهم والصلوة فى المواضع التبرک

صلوا بها و طلب التبرک منهم.“

حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بہت فوائد ہیں جن

میں سے چند یہ ہیں: صالحین سے برکت حاصل کرنا۔ ان کے آثار

سے برکت لینا۔ جن مقامات پر انہوں نے نماز ادا کی ہو وہیں نماز ادا

کرنا۔ ان سے یہ درخواست کرنا کہ ہمیں اپنی برکتوں سے نوازیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے:

”ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق و ناقل

الحالق شقة الايمن فحلقة ثم دعا ابا طلحة الانصاري

فاعطاه اياه ثم ناول الشق الايسر فقال احلق فحلقة

فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس.“

ترجمہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلا کر سر مبارک کے دہنی جانب

کے بال منڈوانے کا حکم فرمایا۔ پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

بلا کر وہ سب بال انہیں عطا فرمادیئے۔ پھر بائیں جانب کے بالوں

منڈوانے کو حکم فرمایا اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیئے کہ انہیں

حضور ﷺ کے موئے مبارک تھے ان کی وجہ سے کیا تھا۔ مبادا ان کی برکت سے محروم رہ جاؤں اور یہ مبارک بال کفار کے ہاتھ تک پہنچ جائیں۔  
**فَائِدَةٌ:** ان تفصیلات سے اندازہ کیجئے کہ عہد صحابہ میں آثار کریمہ کے ساتھ صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کو کس قدر والہانہ وابستگی تھی کس قدر انس تھا، شغف تھا، احترام تھا؟ جب سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا یہ احترام آپ کے وصال کریم کے بعد تھا تو خود حیات طیبہ میں کس قدر شیفگی رہی ہوگی؟ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے غسالہ وضو کے حاصل کرنے میں بے پناہ سبقت کی جاتی۔

**نتیجہ احادیث تبرکات** امام ابو زکریا نووی، علامہ عینی، امام ابن حجر عسقلانی، امام احمد بن محمد قسطلانی، ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى جیسے بلند پایہ مستند ائمہ حدیث ان روایات سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

”وفيه التبرک باثار الصالحین و استعمال فضل طهورهم و طعامهم و شرابهم و لباسهم.“

اس میں آثار صالحین سے برکت حاصل کرنے اور ان کے وضو و غسل سے بچے ہوئے پانی اور ان کے کھانے پینے اور لباس کے بقیہ کے استعمال کے سلسلہ میں دلیل ہے۔

**موئے مبارک سے شفا** اور یہ نتیجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے ماخوذ ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مریضوں کو اور نظر لگے ہوئے انسان کو موئے مبارک جس شیشی میں رکھا ہوا تھا اس شیشی کو پانی سے بھر کر وہ موئے مبارک میں ڈبو کر وہ دے دیتیں جس سے اسے شفا ہو جاتی۔

(بخاری کتاب اللباس)

**فَائِدَةٌ:** الغرض یہ صحیح احادیث اور دیگر روایات اس امر پر دلالت

کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اور جو چیز آپ کے جسم سے الگ ہوئی ہو از قسم بال، پسینہ، لباس یا آپ کے مستعملہ برتن وغیرہ ان میں اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے برکت ڈالی ہے جس سے شفاء حاصل کی جاتی تھی اور ان سے دینی و اخروی فائدہ کی توقع کی جاتی تھی اور اس خیر و برکت کا دینے والا ”رب السموات والارض“ ہی ہے۔

**آثار تبرکات سے برکت کا حصول** حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آثار مصطفیٰ ﷺ اور حضرت عبداللہ بن عمرو انس بن مالک اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ آثار مصطفیٰ ﷺ سے تبرک حاصل کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ کی نماز کی جگہوں کا قصد کیا کرتے تھے اور ان راستوں کو ڈھونڈتے جن راستوں پر اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کے پیارے محبوب ﷺ کے مبارک قدم لگے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے پیالے میں بطور تبرک پانی پیتے تھے اور حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس آپ ﷺ کا پیالہ تھا۔

**حضور ﷺ کا لباس مبارک** اور حضرت عائشہ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے پاس آپ ﷺ کا لباس تھا۔ اور صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی ہیں کے پاس نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک تھے حتیٰ کہ انہوں نے وصیت کی کہ یہ بال مبارک ان کے ساتھ ان کی قبر میں تبرکاً دفن کر دیئے جائیں اور وہ ان بالوں کے ساتھ تبرک اور توسل حاصل کرتے تھے۔

**وضو سے بچے ہوئے پانی کو جسم پر ملنا** حضرت عبدالرحمن بن ابی قراص بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم ﷺ نے وضو فرمایا اور صحابہ کرام آپ کے وضو والے پانی کو اپنے جسم پر ملنے لگے آپ نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟

وہ بولے کہ یہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور اس کے رسول کی محبت

جو شخص صحیح طور پر مسلمان نہ ہو اسے یہ برکت و تبرک حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تبرک حاصل کرنے والے کو رسول اللہ ﷺ کے آثار میں سے کوئی نہ کوئی شے واقعہً حاصل ہو اور پھر وہ اسے استعمال بھی کرے۔

اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کے آثار از قسم کپڑے یا بال وغیرہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اور کوئی شخص قطعی یقین کے ساتھ ان چیزوں کا وجود ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جب حقیقت یہی ہے تو ہمارے اس زمانے پر موضوع محض نظری طور پر باقی رہ جاتا ہے نہ کہ حقیقت واقعہ کی صورت میں، تو اسے طول دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ (التوسل وانواعہ واحکامہ ص ۴۶)

میں نے رسول ﷺ کی ذات مقدس اور آپ کے آثار سے حصول تبرک کے دلائل ذکر کر دیئے ہیں تاکہ صورت مسئولہ مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام کا حصول تبرک آپ ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔ کسی دوسرے کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى نے فرمایا: حضور نبی کریم ﷺ نے کثرت سے اپنے موئے مبارک صحابہ میں تقسیم فرمائے ہیں اور ظاہر ہے کہ صحابہ شرقاً و غرباً منتشر ہو گئے تھے تو اگر کہیں موئے مبارک پایا جائے تو جلدی سے اس کا انکار نہ کر دیا جائے بلکہ اگر سند صحیح سے اس کا پتہ معلوم ہو جائے تب تو اس کی تعظیم کی جائے ورنہ اگر یقینی دلیل نہ ہو (یعنی اس کے اصلی یا نقلی ہونے کے متعلق یقین نہ ہو) تو سکوت کیا جائے یعنی نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب، کیونکہ مشتبہ امور میں شریعت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں موئے مبارک بسند متعبر موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى موئے مبارک کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے موئے

میں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور اس کے رسول سے محبت کرے یا یہ کہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور رسول اس سے محبت کریں تو اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، امانت دی جائے تو ادا کر دے اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے۔

**قَائِدًا:** حضرت شیخ صاحب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى اس حدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے اس کی کئی سندیں اور شواہد ہیں جو مجم طبرانی وغیرہ میں وارد ہیں۔ امام منذری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى نے الترغیب والترہیب ۲۶/۳ میں اس پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ اور یہ کہ میں نے اسے ”الصحيحہ“ میں (۲۹۹۸) درج کیا ہے۔

(التوسل وانواعہ واحکامہ)

ایسے ہی یہ روایات جناب محمد رشید رضا کے خیال کی بھی تردید کرتی ہیں۔ انہوں نے کتاب الاعتصام کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ کیفیت کہ انہوں نے آپ ﷺ کے وضو اور آپ کے تھوک سے تبرک لیا حدیبیہ کے موقع کے علاوہ کہیں اور ثابت نہیں۔ (حاشیہ اعتصام)

واضح رہے کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ ﷺ سے تبرک حاصل کرنا کسی غزوہ سے مخصوص نہیں رہا جیسا کہ گزر چکا اور کسی سے انکار بھی وارد نہیں ہے۔

تاہم شیخ البانی صاحب حفظہ اللہ کی یہ بات مجھے از حد پسند آئی ہے کہتے ہیں: یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ ﷺ کے آثار سے حصول تبرک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کرتے جیسا کہ ہمارے متعلق مخالفین دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اس تبرک کے لئے بھی چند شرطیں ہیں اول یہ کہ تبرک صاحب ایمان ہو، ایسا ایمان جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔

مبارک پایا نہیں مگر اتنی خبر سنی ہے کہ دنیا میں موجود ہے تسلی کے لئے ہمیں اتنا بھی کافی ہے۔ پھر یہ شعر فرماتے ہیں۔

مرا از زلف تو موئے پسند است

ہوس را رہ مدہ بوئے پسند است

ہمیں تو تمہاری زلف کا ایک بال بھی پسند ہے اور زیادہ ہوس کو چھوڑ کر خوشبو بھی پسند ہے۔

زینب بنت محمد اور تہبند نبوی ﷺ حضرت ام عطیہ

رضوان اللہ تعالیٰ علیہا حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ کے غسل و کفن

کے واقعہ میں روایت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا تہبند ہمارے

پاس بھیج دیا کہ اس کو زینب بنت رسول کے کفن کے نیچے پہنا دو۔

حضرت شیخ عبدالحق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى کی اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے

ہیں کہ صالحین اور بزرگوں کے آثار و ملبوسات سے برکت لینے کا

طریقہ یہ بھی ہے کہ موت کے بعد ان کو کفن میں رکھ دی جائے مگر

قرآن مجید اور دعاؤں کی کتابوں کا کفن میں رکھنا جائز ہے کیونکہ ان

کا احترام جاتا رہتا ہے اور بدن گل کر جس ہو جاتا ہے تو یہ نجاست ان

کو بھی لگے گی جو ان کتابوں کی سخت توہین اور بے ادبی ہے۔

ممبر نبوی ﷺ قاضی عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى حضرت عبد اللہ

ابن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ منبر نبوی

ﷺ پر نشست گاہ نبوی سے مس کر کے اپنی پیشانی کو ملتے تھے۔ اس

سے معلوم ہوا کہ جو چیز ملبوس نبی ﷺ سے مس کی گئی ہو اس میں

برکت ہوتی ہے مگر ان سب کو عید نہیں بنانا چاہئے کیونکہ سمجھنے کی بات

یہ ہے کہ ان چیزوں کی قدر صرف اس لئے ہے کہ یہ نبی اکرم

ﷺ کی چیزیں ہیں پھر ان کے متعلق احکام بھی تو نبی ﷺ کے ہیں

ان کی بھی قدر کرنی چاہئے اور ان کی قدر یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔

یہاں تک تو عہد صحابہ کی گفتگو تھی اب عہد تابعین کا بھی

جائزہ لیتے چلیں کہ حضرات تابعین کیسی وابستگی رکھتے تھے آثار کریمہ کے ساتھ۔

مجدد اول خلیفہ راشد سید التابعین حضرت عمر بن

عبد العزیز رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جذبات عقیدت کے بارے میں شیخ

عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ تحریر فرماتے ہیں: حضور اکرم

ﷺ کے متروکات و تبرکات میں سے بعض چیزیں حضرت عمر بن

عبد العزیز کے پاس تھیں۔

جنہیں انہوں نے ایک کمرہ میں احترام کے ساتھ محفوظ

کر رکھا تھا اور ہر روز ایک بار ان تبرکات کی زیارت کیا کرتے تھے۔

سادات و اشراف میں سے جب کوئی آپ سے ملاقات کے لئے آتا

تو اسے بھی آپ ان کی زیارت کراتے اور عرض کرتے کہ یہی تبرکات

تو میرا سرمایہ ہیں اور فرماتے یہ اس ذات کی میراث ہے جس کے

سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت و تکریم سے نوازا ہے۔

کمرہ کے اندر رکھے ہوئے تبرکات یہ تھے۔ چار پائی،

چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک جوڑا اموزہ،

چکی اور ترکش جس میں چند تیر تھے۔ تکیہ کے اندر رسول اللہ

ﷺ کے سر مبارک کی چکنائی کا اثر تھا، ایک شخص کو سخت بیماری لاحق

ہوئی جس سے اسے شفا نہیں مل رہی تھی، حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ

سے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا اور پھر آپ کی اجازت سے اس

کی چکنائی میں سے کچھ دھو کر بیمار کی ناک میں ٹپکا دیا گیا جس سے وہ

تندرست ہو گیا۔ (مدارج النبوة)

بال نبوی ﷺ کی برکات حضرت شاہ ولی اللہ محدث

دہلوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب

ایک مرتبہ سخت علیل ہوئے کہ زندگی کی امید جاتی رہی۔ سرکار ابد قرار

رحمت عالم ﷺ خواب میں تشریف لائے اور انہیں شفا یابی اور عمر

طویل کی بشارت دی مزید آپ کی آرزو کی تکمیل کی خاطر ریش اقدس کے دو بال شریف عنایت فرمائے۔ ان کی برکات و کرامات کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنئے۔ وہ انفاس العارفين میں لکھتے ہیں:

ان دو بالوں کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں گتھے رہتے ہیں مگر جب درود پڑھا جائے تو جدا جدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ تاثیر برکات کے منکروں میں سے تین آدمیوں نے امتحان لینا چاہا۔ میں اس بے ادبی پر راضی نہ ہوا مگر جب بحث و مباحثہ طویل ہو گیا تو کچھ عزیزان مقدس بالوں کو سورج کے سامنے لے گئے۔

اسی وقت بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر منکروں میں سے ایک نے توبہ کی اور دوسرے نے کہا یہ اتفاقی امر ہے۔ عزیز دوسری مرتبہ لے گئے تو دوبارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا اس پر دوسرے منکر نے بھی توبہ کی مگر تیسرے نے کہا یہ تو اتفاقی بات تھی یہ سن کر تیسری مرتبہ موئے مبارک سورج کے سامنے لے گئے۔ سہ بار بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منکر بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا: ”ایک بار یہ موئے مبارک زیارت کے لئے باہر لے آیا بہت بڑا مجمع تھا۔ ہر چند صندوق تبرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی ناپاک ہے جس کی ناپاکی کی شامت کے سبب یہ نعمت میسر نہیں آرہی ہے۔ عیب پوشی کرتے ہوئے میں نے ان سب کو تجدید طہارت کے لئے حکم دیا وہ ناپاک آدمی بھی مجمع سے چلا گیا اور اس وقت بڑی آسانی سے تالا کھولا گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔“

اس سے یہ بات روشن ہوگئی کہ آثار کریمہ کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عقیدت، طرز سلف کا آئینہ دار ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کے دل میں بھی عشق و وفا اور وابستگی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہوگا وہ یقیناً ان نقوش محبت کو آنکھوں سے لگائے گا۔ سر پہ رکھے گا اور دل میں جگہ دینا اپنی سعادت تصور کرے گا۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاک اور طاہر قلوب اور شفاف ذہن و دماغ انہی تصورات عشق اور ایسے ہی جذبات عقیدت سے لبریز رہا کرتے تھے۔ انہیں تو بس نسبتوں کی تلاش ہوتی تھی سند اور دلیل کی نہیں۔

**جستجو جاء نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ**  
اپنی نماز، قیام اور گزر میں اس جگہ کی تلاش و جستجو فرماتے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہو یا تشریف رکھی ہو۔ ایک بار سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا۔

### شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ارشادات

**قَائِلًا:** شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۳ھ فیوض الحرمین (ص ۲۰) میں لکھتے ہیں:

”من اراد ان يحصل له ما للملاء السافل من الملائكة فلا سبيل الي ذال الا الا اعتصام بالطهارات والحلول بالمساجد القديمة التي صلى فيها جماعات من الاولياء.“

**ترجمہ:** ”جو یہ ارادہ کرے کہ اسے فرشتوں کے طبقہ زیریں کی برکت حاصل ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ طہارتوں کی خوب پابندی کرے اور ان پرانی مسجدوں میں داخل ہوتا رہے جن میں اولیاء کی کچھ جماعتیں نماز ادا کر چکی ہوں۔“

**نوٹ:** مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض لوگ حضور کے

### باب نمبر 3

#### موجودہ تاریخی تبرکات

(جو اس وقت موجود ہیں)

**توپ کا پے سرائے اور اس کے نوادرات** ترکی زبان میں سرائے محل کو کہتے ہیں اور کا پے دروازے کو۔ لہذا توپ کا پے سرائے کے معنی ہیں توپ دروازہ محل، اسی لئے اسے عربی زبان میں ”قصر باب المدفع“ بھی کہتے ہیں۔ دراصل بازنطینی دور میں یہاں قسطنطنیہ میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا جو سینٹ رومانوس دروازہ کہلاتا تھا۔

جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنی ایک بھاری توپ اسی دروازہ کے سامنے نصب کی تھی اور مسلمانوں کی گولہ باری سے سب سے زیادہ نقصان اسی دروازے کو پہنچا تھا۔ پھر فتح کے بعد سلطان محمد فاتح اسی دروازہ سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔

اسی بنا پر اس دروازے کا نام ”توپ کا پے“ (توپ دروازہ) مشہور ہو گیا۔ بعد میں یہاں ایک محل بھی تعمیر کر دیا گیا جو سلاطین آل عثمان کے دور میں (سلطان محمد فاتح سے سلطان عبدالحمید تک) سلاطین کی رہائش وغیرہ کے لئے بھی استعمال کیا گیا۔ اس محل کا نام ”توپ کا پے سرائے“ رکھا گیا۔ یعنی ”توپ دروازہ محل“ آج کل اس محل کو ایک تاریخی یادگار کے علاوہ ایک عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو اپنے بیش قیمت نوادرات کے لحاظ سے دنیا کے بہترین اور امیر ترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔

اس محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہوتے ہی سب

تبرکات میں حد سے زیادہ غلو کر لیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، آج کے زمانہ میں خاص طور پر ہمارے پاکستان میں ہزاروں شخص حضور ﷺ کے موئے مبارک کے دعویٰ دار ہیں کہ ہمارے پاس آپ ﷺ کا موئے مبارک موجود ہے، حالانکہ ان کی ظاہری حالت دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی بھی نہیں ہے گھر میں ٹی وی جیسا منحوس ڈبہ بھی موجود ہے مگر دعویٰ ہے کہ میرے پاس آپ ﷺ کا موئے مبارک موجود ہے اور ہماری عوام کی بے وقوفی بھی دیکھئے کہ ہزار ہا لوگ اس کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ خود احقر کے والد کے دوست نے والد محترم سے کہا کہ آپ تہجد گزار آدمی ہیں میرے پاس آپ ﷺ کے 10 بال مبارک ہیں ان میں سے 2 بال میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ قیمتی ہدیہ وہ شخص نے دیا ہے جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور افسوس کے حضور ﷺ کے انمول سنت ڈاڑھی سے محروم ہیں تو والد صاحب نے کہا کہ بھی میں اپنے گھر کو اتنے متبرک تبرکات کا اہل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح احقر نے گھر والوں سے ایک مجلس کا آنکھوں دیکھا حال سنا کہ حضور ﷺ کا مبینہ بال کمرہ کے بیچ میں شیشے کے جار میں رکھا ہوا ہے اور ایک عورت نے اس بال کے گھر 7 چکر لگائے اور پھر کہا کہ یہ متبرک پانی کون پیئے گا؟ اب وہ عورت 7 چکر لگا رہی ہے اور عورتوں کو پانی پلا رہی ہے لہذا خدا را اس طرح کی حد سے زیادہ شریکات سے بچا جائے۔ اور لوگوں کو بھی ان خرافات سے منع کیا جائے۔

کمرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اسی سے متصل ایک اور کمرہ ہے جس میں پرانے طرز کی مسہری بچھی ہوئی ہے یہ اس مسہری کا نمونہ ہے جو اس دور میں شاہی استعمال میں رہتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان کی خواب گاہ بھی چھوٹی سی ہے اور کم از کم اس کے انداز تعمیر میں ٹھاٹھ باٹھ کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔

توپ کا پے سرائے بہت بڑا قلعہ ہے جس کے بہت سے حصے ہیں اور تمام حصوں کو ڈیڑھ دو گھنٹے کے وقت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لئے ہم اس کے چند منتخب حصے ہی دیکھ سکے جو اس عجائب گھر میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔

**تبرکات نبوی** یوں تو دنیا کے مختلف حصوں میں آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب تبرکات پائے جاتے ہیں۔

**(1) آپ کا جبہ مبارک** لیکن مشہور یہ ہے کہ استنبول میں محفوظ تبرکات زیادہ مستند ہیں۔ ان میں سرورد عالم ﷺ کا جبہ مبارک اور آپ کی دو تلواریں بھی شامل ہیں۔

**(2) موئے مبارک** تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبرکات بنو عباس کے خلفاء کے پاس موجود تھے، چنانچہ یہ آخری عباسی خلیفہ المتوکل کے حصے میں بھی آئے تھے۔ وہ آخر میں مصر کے اندر مملوک سلاطین کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا تھا، اقتدار و اختیار میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔

دسویں صدی ہجری میں جب حجاز اور مصر کے علاقوں نے عثمانی سلطان سلیم اول کی سلطنت تسلیم کر لی، اور اسے خادم الحرمین الشریفین کا منصب عطا کیا گیا تو عباسی خلیفہ المتوکل نے خلافت کا منصب بھی سلطان سلیم کو سونپ دیا اور مقامات مقدسہ و

سے پہلے ایک کشادہ صحن سے گزر کر قصر محمد الفاتح کے نام سے ایک عمارت نظر آتی ہے جس کے سامنے ایک برآمدہ ہے۔ اس برآمدہ کے سامنے صحن کے بیچوں بیچ فرش پر ایک بڑا سا سوراخ ہے، یہ اس دور میں جھنڈا گاڑنے کی جگہ تھی جہاں صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا سرخ ہلالی پرچم لہراتا رہا ہے، وہ پرچم جس نے ساہا سال تک یورپ کی طاقتوں کو اپنے آگے سرنگوں رکھا۔

جو صدیوں تک عالم اسلام کی اسلام کے اتحاد کی علامت بنا رہا، اور جو آل عثمان کے دور میں دنیا کے تین براعظموں پر مسلمانوں کی شوکت کے نشان کے طور پر لہرایا۔ آج اس کی یادگار کے طور پر صرف یہ سوراخ باقی رہ گیا ہے جس کا خلا اس پرچم کے اکھڑنے کے بعد آج تک نہیں بھرا جاسکا۔

یہ برآمدہ جس کے آگے علم گاڑنے کی جگہ تھی ”باب السعادة“ کہلاتا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سلطنت عثمانیہ کا ہر نیا سربراہ اپنی خلافت کے لئے بیعت لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ”قصر محمد الفاتح“ شروع ہوتا ہے۔ قصر اور محل کے لفظ سے عموماً ایک زرق برق اور پر تکلف عمارت کا تصور آتا ہے۔

لیکن یہ قصر اس تصور سے بہت مختلف ہے۔ اس میں قدم قدم پر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے اسے سادگی کے ساتھ بنایا ہے اور بے ضرورت تعمیرات سے پرہیز کیا ہے۔ بس اس کی حیثیت پرانے زمانے کے ایک وسیع مکان کی سی ہے جس کے طول و عرض اور اونچائی میں محلاتی انداز نہیں ہے۔

اندر داخل ہو کر سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں سلطان عبدالجید کے افسر مہمانداری (پروٹوکول آفیسر) کا دفتر تھا، اس کے بعد ایک نسبتاً بڑا کمرہ ہے جو سلطان کی ملاقات کے

حرمین شریفین کی کنجیاں اور یہ تبرکات بھی بطور سند خلافت ان کے حوالے کر دیئے۔ اسی کے بعد سے سلاطین عثمان کو خلیفہ اور امیر المؤمنین کا لقب مل گیا اور پوری دنیائے اسلام نے ان کی یہ حیثیت کسی اختلاف کے بغیر تسلیم کر لی۔

اس طرح سلطان سلیم دسویں صدی ہجری میں یہ تبرکات مصر سے استنبول لے کر آئے، اور یہ اہتمام کیا کہ توپ کا پے سرائے میں ان کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا۔ سلطان کی طرف سے ان تبرکات کی قدر دانی اور ان سے عشق و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب تک سلطان سلیم زندہ رہے استنبول میں مقیم رہنے کے دوران اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے اور اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔

اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا کہ وہ چوبیس گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہیں، حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں، اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں چار سو سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی، اور اس دوران ایک لمحے کے لئے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہوا۔

**نفس صندوق میں محفوظ تبرکات** ان تبرکات کو انتہائی نفیس لکڑی کے صندوقوں میں رکھا گیا ہے، اور سال بھر میں صرف ایک بار رمضان کی ستائیسویں شب میں انہیں باہر نکال کر ان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ عام دنوں میں یہ تبرکات صندوقوں میں بند رہتے ہیں، اور صرف صندوق ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہ گنہگار آنکھیں یقیناً ان تبرکات کے لائق نہ تھیں، ان کے لئے اس ظرف کی زیارت بھی ایک نعمت عظمیٰ تھی جسے ان کی صحبت و مساس کا شرف حاصل ہے۔ درجہ استناد کے لحاظ سے ان تبرکات کی جو بھی حیثیت ہو، لیکن ایک امتی کے لئے اس نسبت کی سچائی کا احتمال اور صرف احتمال بھی کیا کم ہے۔

**(3) حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار** اسی کمرے میں کچھ اور تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں جو شوکیسوں میں محفوظ ہیں، اور شفاف شیشوں کے واسطے سے ان کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ ان میں ایک تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔

**(4)** اور وہ تھیلا بھی محفوظ ہے جس میں کسی زمانے میں حجر اسود رکھا گیا تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضہ اقدس کی مٹی بھی موجود ہے۔

**دوسرے تاریخی نوادر** تبرکات کے کمرے سے نکل کر ایک اور قصر میں داخل ہوئے جو بہت سے کمروں پر مشتمل تھا۔ ہر کمرہ بیش قیمت نوادر سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں مختلف سلاطین کے لباس اور اسلحہ محفوظ ہیں، ان لباسوں میں خاص طور پر سلطان محمد فاتح کی ایک عبا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سلطان مصطفیٰ سوم کا فولادی لباس جس پر سونا چڑھا ہوا ہے، اور سلطان مراد کا بیش قیمت اسلحہ بطور خاص قابل ذکر ہے۔

میں نے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب **رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی** کے سفر نامہ ترکی میں پڑھا تھا کہ: ”بعض واقفین کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کسی زمانے میں دیوالیہ ہو جائے تو اس عجائب خانے (توپ کا پے) کا سونا کچھ مدت تک پورے ملک کا خرچہ چلا سکتا ہے۔“

یہ پڑھتے وقت بادی النظر میں یوں معلوم ہوا کہ جن



جگہ جواہر سے خالی ہو، لیکن انہیں اس نزاکت اور خوبصورتی سے تراشا گیا ہے کہ بس انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔

**سونے سے مدین فوارہ** سلطان عبدالمجید کے زمانے کا

ایک فوارہ نظر آیا جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے میں ۲۸ کلو خالص سونا خرچ ہوا ہے۔ گویا پورے فورے میں چھیا نوے کلو گرام سونا موجود ہے، اور اس کے مختلف حصوں میں چھ ہزار چھ سو چھیا سٹھ ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ خالص سونے کے بنے ہوئے کئی بڑے بڑے شمع دان نظر آئے جن میں سے ایک ایک پر کم از کم بیس بیس ہیر سونا صرف ہوا ہوگا۔

**الماس نامی ہیرہ** الماس اور ہیرے کا اس سے پہلے نام ہی سنا

تھا، لیکن کبھی اصل ہیرا دیکھنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا، حسین اور تاریخی ہیرا بھی دیکھا جو تچے کی طرح مخروطی گولائی لئے ہوئے ہے اور ”کشک چہ الماسی“ کہلاتا ہے۔ یہ ۸۶ قیراط کا ہے۔ اور اس کے گرد سونے کا نہایت حسین فریم ہے۔ یہ ہیرا اس قدر تابدار ہے کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک چینی کے انتہائی شفاف گلوب میں کوئی نظر نہ آنے والا بلب روشن ہو، اس کی چمک کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کی شعاعوں کو سیدھے زاویے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھا جائے تو آنکھ خیرہ ہو جائے۔

یہ ہیرا کسی ہندوستانی مہاراجہ کا تھا۔ ایک فرانسیسی جرنیل اسے خرید کر فرانس لے گیا، وہاں اس سے مشہور فرانسیسی فاتح نپولین بونا پارٹ کی ماں نے خرید لیا۔ نپولین اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا اور اسے اس مصیبت سے چھڑانے کے لئے بڑی رقم کی ضرورت تھی، لہذا نپولین کی ماں نے یہ ہیرا ایک ترکی جرنیل علی پاشا کو ڈیڑھ سو ملین (پندرہ کروڑ) میں بیچ دیا۔ وہاں سے یہ عثمانی خزانے

لوگوں نے یہ بات کہی ہے، شاید انہوں نے ضرورت سے زیادہ مبالغہ کر دیا ہے، لیکن توپ کا پے کا یہ حصہ دیکھ کر جو شاہی نوادر پر مشتمل ہے، واقعہً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ خیال ہوا کہ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے۔ غالباً سونے، چاندی، جواہرات، مرصع ظروف اور بیش قیمت اشیاء کا اتنا نادرا، اتنا قیمتی اور اتنا بڑا ذخیرہ دنیا کے کسی عجائب گھر میں نہیں ہوگا۔

دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول حضرت مولانا ندوی

رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی آل عثمان نے صدیوں متمدن دنیا کے غالباً سب سے

بڑے حصے پر حکومت کی ہے، بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے سلاطین ان کے باج گزار اور زیر اثر رہے ہیں، اور وہ سب سلاطین آل عثمان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تعلق کی حد تک سلاطین آل عثمان کو بیش قیمت تحفے بھیجتے رہے ہیں، یہ تمام تحفے اور خود سلاطین آل عثمان نے اپنے شوق سے اپنے اور اپنی بیگمات کے لئے جو قیمتی چیزیں تیار کیں وہ سب یہاں محفوظ ہیں۔

**(5) ہیرے جواہرات کے انبار** سلطان سلیم نے ایران

کے شیعہ بادشاہ اسماعیل صفوی کو شکست دی تھی اور اس کا شاہی تخت ایران سے استنبول لے آیا تھا۔ یہ تخت بھی یہاں محفوظ ہے، تخت کیا ہے؟ ہیرے جواہرات کا خزانہ ہے۔ اس تخت کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا بھر میں اس کی کوئی نظیر آج بھی موجود نہیں ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ انسانی صنعت کا یہ شاہکار کمرے میں داخل ہوتے ہی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے، اور میں نے فرنیچر کے قبیل سے کوئی انسانی صنعت اتنی حسین نہیں دیکھی۔ عموماً ہیرے جواہرات سے مرصع اشیاء اتنی بوجھل ہو جاتی ہیں کہ ان کا حسن محفوظ نہیں رہتا۔ لیکن باوجود یہ کہ اس تخت میں شاید ہی کوئی انچ

میں آیا۔ اور بالآخر اس عجب گھر کی زینت بنا۔

**ہیرے کا خنجر** سلطان محمد کا ایک خنجر بھی دیکھا جس کے

بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے قیمتی خنجر ہے یہ بھی

ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، اس میں تین زمرد بھی لگے ہوئے

ہیں اور اس کے قبضے کے اوپر ایک ڈھکن دار گھڑی بنی ہوئی ہے۔

**نو واردات ہی نو واردات** اس کے علاوہ ایک کمرہ ان

شاہی تحفوں اور تمنگوں کے لئے وقف ہے، جو وقتاً فوقتاً یورپ کی

مختلف سلطنتیں عثمانی خلفاء کو بطور ہدیہ بھیجتی رہیں۔ ان میں اکثر اشیاء

بھی سونے اور جواہر سے مرصع ہیں، ان میں بیش قیمت تمنغے، سنگھار

دان، شمع دان، اسلحہ، ڈبے، برتن، زیورات وغیرہ شامل ہیں۔

**دندان مبارک** غزوہ احد کے موقع پر جو آپ کا دندان

مبارک شہید ہو گیا تھا یہ اس کا ایک حصہ ہے اور ایک مخملی ڈبیہ کے اندر

محفوظ ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں اس کمرے میں

موجود ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کا ایک قدیم نسخہ، موئے مبارک، آپ

ﷺ کے قدم مبارک کا نشان۔ یہ نشان ترکی فوج کا سپہ سالار احمد

بیگ ترا بلس الغرب (شمالی افریقہ) سے لایا اور اس نے ۱۸۴۷ء

میں سلطان مجید کی خدمت میں پیش کیا اور سلطان سے ایک لاکھ ۱۴

ہزار قرش بطور انعام پائے۔ ۱۸۷۷ء میں سلطان عبدالمجید ثانی نے

اسے ایک سنہرے فریم میں جڑوا دیا۔

**غلاف کعبہ کے قدیم ٹکڑے** غلاف کعبہ، میزاب کعبہ،

غلاف کعبہ کے ٹکڑے، کلید بیت اللہ، باب کعبہ کا ایک بازو۔ ۱۵۹۲ء

میں جب سلطان مراد سوم کے حکم سے بیت اللہ شریف کا دروازہ

تبدیل کیا گیا تو پرانے دروازے کا ایک بازو استنبول منگوا کر اسے

اس کمرہ میں رکھوا دیا گیا۔ سلطان احمد سوم (۱۷۰۳ء۔ ۱۷۳۰ء) کے

ہاتھ کا لکھا ہوا کلمہ شریف سلطان احمد سوم بڑا خوشنویس تھا اس نے

اپنے ہاتھ سے کلمہ شریف کا یہ طغرائم رقم کیا تھا۔

ان تمام تبرکات اور آثار میں سے آنحضرت ﷺ کی

جانب جو چیزیں منسوب ہیں وہ اہل تحقیق کے نزدیک محل نظر بلکہ

بعض قطعاً مشکوک ہیں۔ مگر اس پہلو سے قطع نظر صرف یہ بات قابل

ذکر ہے کہ عثمانی خلفاء اور سلاطین کو ایسی چیزوں سے بے حد محبت تھی

اور انہیں جہاں جہاں ایسی چیزیں دستیاب ہوئیں انہوں نے استنبول

میں محفوظ کر لیں۔ اور ان کی حفاظت اور ترصیع اور تجمیل پر غیر معمولی

توجہ دی اور بڑی دولت صرف کی اور ان کے لئے ایک مستقل میوزیم

قائم کیا۔

**(6) آپ ﷺ کا خط مبارک** آنحضرت ﷺ کا خط

مقوس کے نام: یہ نامہ مبارک آنحضرت ﷺ نے ۶۲۷ء میں قبطیوں

کے بادشاہ مقوس کو تحریر فرمایا تھا۔ ۱۸۵۰ء میں یہ نامہ مبارک ایک

فرانسیسی شخص کو جس کا نام برشلیم ہے مصر میں قبطیوں کے ایک

دیر (عبادت گاہ) کے اندر ملا۔ اس وقت قبطی انجیل کے ایک قدیم

نسخے کے اندر یہ خط چسپاں کیا ہوا تھا۔

اس فرانسیسی عالم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے

نبی ﷺ کا نامہ مبارک ہے تو اس نے اسے سلطان عبدالمجید کی

خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اسے سونے کے فریم میں

جڑوا دیا اور اسے سونے کے ایک مرصع صندوقچے میں رکھوا دیا۔ یہ

نامہ مبارک کھال پر نقش ہے۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

درمیان میں بعض سطریں مدہم ہو چکی ہیں۔ صندوقچے کے باہر کی

جانب نامہ مبارک کے اصل الفاظ منقش کر دیئے گئے ہیں۔

### مہند من سیوف اللہ مسلول

رسول اللہ ﷺ ایسا نور ہیں جس سے اہل جہاں ضو حاصل کرتے ہیں اور آپ اللہ کی برہنہ تلوار ہیں۔

تو اس شعر پر آنجناب مسکرا دیئے اور آپ نے کعب بن زہیر کو اپنی چادر مبارک عطیہ فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چادر دس ہزار درہم کے عوض خریدنا چاہی مگر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے ورثاء نے یہ چادر بیس ہزار درہم کے عوض فروخت کر دی۔

اور یہ اموی حکمرانوں کے پاس چلی گئی۔ اور ان سے عباسی سلاطین کو منتقل ہو گئی اور عباسیوں کے ہاتھ سے نکل کر مصر تک کیسے پہنچ گئی اس سلسلہ میں متعدد روایات منقول ہیں۔ ۱۰ فروری ۱۵۱ء میں سلطان سلیم نے مصر کو فتح کیا اور دوسرے تبرکات کے ساتھ دو اے مبارک بھی اسے پیش کر دی گئی۔ سلطان سلیم نے یہ تمام تبرکات مصر سے استنبول منتقل کر دیئے اور انہیں قصر توپ کا پے میں رکھوا دیا۔

**(9) آپ ﷺ کا جھنڈا مبارک** ان تمام تبرکات شریفہ میں سب سے اہم چیز نبی ﷺ کا جھنڈا مبارک ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جسے مسلمان سلاطین اور سپہ سالار جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ جھنڈا اب جگہ جگہ سے تلف ہو چکا ہے۔ اس لئے اسے ایک مخصوص صندوقچے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس جھنڈے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا تھا۔

**(10) مہر مبارک** یہ مہر مبارک بڑی انگوٹھی کے سائز میں ہے اور اس پر ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ منقش ہیں۔ اور

### (7) آپ کی تلوار مبارک

آنحضور ﷺ اور صحابہ کرام کی تلواریں: ان میں دو تلواریں آنحضور ﷺ کی جانب منسوب ہیں۔ یہ چاندی کے ایک بکس کے اوپر کے ٹکڑے میں جڑی ہوئی ہیں۔ سامنے کی جانب میں جو تلوار ہے اس کی نیام اور دستہ سلطان احمد اول نے خالص سونے سے تیار کروایا اور اس پر قیمتی جوہرات مرصع کروائے۔ آنحضور ﷺ کی ان دو مبارک تلواروں کے علاوہ اور بھی متعدد تلواریں رکھی ہوئی ہیں جو قیمتی اور مرصع نیاموں کے اندر محفوظ ہیں۔

ان میں ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور دوسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ دونوں تلواریں قدرے نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ الگ تلوار بھی موجود ہے۔ تلواروں کے اوپر نبی ﷺ کی قوس مبارک رکھی ہوئی ہے، اس قوس کے خول کے اوپر ایک قصیدہ کندہ ہے جس میں قوس کی مدح کی گئی ہے۔

### (8) آپ ﷺ کی چادر مبارک

یہ ردائے مبارک ایک سنہری صندوقچے کے اندر محفوظ ہے۔ جس پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیات سلطان عبدالعزیز نے (۱۸۶۱ء-۱۸۶۶ء) میں کندہ کروائی تھیں۔ یہ مشہور ہے کہ یہ وہی ردائے مبارک ہے جو آنحضور ﷺ نے کعب بن زہیر کو عنایت فرمائی تھی۔ کعب بن زہیر نے آنحضور ﷺ کی شان مبارک میں وہ طویل قصیدہ پیش کیا تھا جسے قصیدہ بردہ (چادر والا قصیدہ) کہا جاتا ہے۔ جب کعب بن زہیر نے یہ شعر پڑھا

ان الرسول لنور يستضاء به

صدیوں سے یہ تبرکات نبوی کے ساتھ محفوظ چلی آرہی ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت قطعاً مشکوک ہے۔

جب نبی اکرم ﷺ نے شاہان عرب و عجم کے نام مکتوبات گرامی بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو ان پر مہر لگانے کے لئے چاندی کی ایک انگوٹھی بنا کر اس میں ”اللہ رسول محمد“ کے الفاظ کندہ کرائے اور اسے بطور مہر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ انگوٹھی آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہوتی ہوئی حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس پہنچی جو بئیر اریس یا بئیر خانم میں گر گئی۔

یہ کنواں مسجد قبا سے تقریباً پچاس قدم کے فاصلہ پر ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنا مبارک لعاب دہن اس میں ڈالا جس کی برکت سے اس کا کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ کی مہر والی انگوٹھی پہنے ہوئے ایک بار حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنے چند احباب کے ساتھ اس کنوئیں کی منڈیر پر تشریف فرما تھے۔

یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، اتفاق سے ہاتھ سے چھوٹ کر کنوئیں میں گر گئی اور پھر تلاش کے باوجود نہ مل سکی اس لئے اس کنوئیں کو بئر خاتم بھی کہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے مملکت اسلامیہ کے کاروبار میں فتور پیدا ہونے لگا۔

اس بات کو ذہن میں رکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ توپ کا پے عجائب گھر میں کون سی مہر ہے جسے نبی اکرم ﷺ کی مہر کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس مبارک انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد ممکن ہے ایسی ہی دوسری انگوٹھی بنا کر امور سلطنت میں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا ہوگا اور بعد میں یہ سلاطین ترکیہ

کے پاس پہنچ گئی۔ یہ تبرکات نبوی میں شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس انگوٹھی نے نبی اکرم ﷺ کی انگشت مبارک یا دست مبارک کو نہیں چھوا تھا۔

اور اگر کوئی انگوٹھی ایسی بھی موجود تھی جیسا کہ بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ حضور ﷺ کو کسی صحابی نے سونے کی ایک انگوٹھی دی تھی جس پر یہی الفاظ کندہ تھے اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ایک مشکل باقی رہ جاتی ہے کہ کیا یہ انگوٹھی مردوں کے لئے سونے کا استعمال حرام قرار دیئے جانے سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ اور پھر یہ انگوٹھی سلاطین ترکیہ تک کب اور کیسے پہنچی۔

### حضرت بل میں موجود مومے مبارک نبوی ﷺ

حضرت بل (کشمیر) میں جو مومے مبارک ہے اس کی تاریخ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے سیدنا عبداللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ان کا اسم گرامی تھا۔ جن کے پاس نسلاً بعد نسل نہایت قیمتی تبرکات چلے آتے تھے۔ ان میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا ایک مومے مبارک تھا۔

۱۶۳۳ء میں خلیفہ وقت کی ناراضگی کی بنا پر سید عبداللہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اس لئے آپ تبرکات سمیت ہندوستان میں تشریف لے آئے اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ شاہجہان کی حکومت تھی انہوں نے آپ کی داستان سن کر آپ کو بیجا پور (دکن) میں جا گیر دے دی۔

حضرت سید عبداللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی وفات پر یہ تبرکات آپ کے صاحبزادہ سید حامد کی تحویل میں آگئے مگر کچھ عرصہ بعد سید حامد غربت کا شکار ہو گئے۔ سترھویں صدی کے اواخر میں سید حامد نے اپنی مشکلات ایک کشمیری تاجر خواجہ نور الدین مشاوری سے بیان کیں خواجہ صاحب نے سید حامد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی دل کھول کر

مدد کی۔

منگوا یا۔

مقدس تبرکات کی زیارت کی اور پھر ہر وقت موئے مبارک حاصل کرنے کے لئے بے قرار رہنے لگے۔ سید حامد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سے بھی اپنی آرزو کا ذکر کیا مگر انہوں نے موئے مبارک دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک رات سید حامد نے سرور دو عالم ﷺ کی زیارت کی آپ ﷺ نے فرمایا اس تاجر کو مایوس نہ کرو اور یہ مقدس تبرکات اسے دے دو۔

اس طرح خواجہ صاحب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کو یہ موئے مبارک ملا۔ اس کو لے کر وہ اپنے وطن کشمیر کیلئے روانہ ہوئے اور چند روز لاہور میں قیام کیا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ان دنوں لاہور میں تھے انہوں نے خواجہ صاحب کو دربار میں طلب کیا اور تحقیق کے لئے موئے مبارک کو آگ پر رکھا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ دھوپ میں رکھا تو غیب سے ابر کے ٹکڑے نے ظاہر ہو کر اس پر سایہ کر دیا۔

درود شریف کے ورد کے ساتھ موئے مبارک میں جنبش شروع ہو گئی۔ غرض حضور ﷺ کے موئے مبارک کے اصلی ہونے کا جب اطمینان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس مقدس بال کے سامنے میری سلطنت تاج و تخت اور جان و مال سب کچھ ہیچ ہے اور حکم دیا کہ اجمیر شریف لے جا کر یہ موئے مبارک حضرت خواجہ اجمیری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کے روضہ میں رکھا جائے۔

اس موئے مبارک کو اجمیر پہنچے ابھی نواں دن تھا کہ شہنشاہ اورنگ زیب نے خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے خواجہ کا دل توڑا ہے جو میری محبت سے معمور تھا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ خواجہ کی وصیت پوری کرو۔ شہنشاہ نے صبح ہوتے ہی اجمیر شریف سے موئے مبارک

اسے صندوق کے ایک صندوق میں بند کیا اور خواجہ نور الدین مشاوری کی میت کے ساتھ کشمیر بھجوا دیا۔ یہ موئے مبارک باغ صادق خان (سری نگر) کی مسجد میں رکھ دیا گیا اور خواجہ صاحب کو مسجد کے باغ میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جلد ہی اس مسجد کا نام حضرت بل پڑ گیا۔ (یعنی بال مبارک والی مسجد)

۲۷ دسمبر ۱۹۶۳ء کو یہ موئے مبارک چوری کر لیا گیا۔ کشمیر میں گویا قیامت آگئی۔ زبردست احتجاجی مظاہروں اور غم و غصہ کے اظہار کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر موئے مبارک برآمد کر لیا گیا۔ کشمیری زبان میں بال کو بل کہتے ہیں۔ حضرت بل یاد رگاہ بل یہ مقام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں حضرت محمد ﷺ کا موئے مبارک محفوظ ہے۔

مسجد کے ایک حجرے میں شیشے کی ایک ٹکلی کے اندر ہی موئے مبارک محفوظ ہے جو چاندی کی ایک صندوقچی میں بند ہے۔ یہ صندوقچی چاندی کی ایک بڑی صندوقچی میں بند ہے جو فولاد کے ایک صندوق میں بند رہتی ہے۔ حجرہ کا دروازہ شیشے کا بنا ہوا ہے جس کی چابی امام مسجد کے پاس رہتی ہے۔

اور دروازہ پر چوبیس گھنٹے پہرہ لگا رہتا ہے۔ موئے مبارک کا دیدار صرف خاص موقع پر کرایا جاتا ہے۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۶۳ء کو جب کشمیر میں بخشی غلام محمد وزیر اعلیٰ تھا کسی نے شیشے کا دروازہ توڑ کر موئے مبارک غائب کر دیا مگر جس طرح سے غائب ہوا تھا اسی طرح چپکے سے واپس بھی آ گیا۔

ماہرہ میں موجود موئے مبارک ﷺ ماہرہ یوپی انڈیا میں بہت سے تبرکات ﷺ اور دیگر بزرگان دین کے موجود ہیں۔

جو مسجد برکات تہ ماہرہ میں ایک الماری کے اندر مقفل رہتے ہیں اور ان کی زیارت بعض بعض اعراس (عرس کی جمع) کے موقعوں پر کرائی جاتی ہے۔ ان تبرکات کی مفصل کیفیت ”کاشف الاستار“ میں یوں درج ہے:

ایک موئے مبارک حضرت محمد ایک موئے مبارک سیدنا حضرت امام حسن ایک موئے مبارک امام حسینؑ  
یہ تبرکات نواب خیر اندیش خان زبیری عالمگیری میرٹھی کے فرزند نواب روح اللہ خان زبیری نے تمام ترکہ پدری کو چھوڑ کر جو لاکھوں روپیہ کا تھا اپنے اعزہ سے حاصل کئے تھے اور اپنے پیرو مرشد حضرت برکت علی مارہروی کو نذر گزار کئے تھے۔ ان تبرکات کے پہنچنے سے پہلے عالم واقعہ میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے حضرت برکت اللہ مارہروی سے ارشاد فرمایا تھا کہ:

میں نے اپنی یادگاریں تمہیں عنایت کیں اس کے بعد نواب روح اللہ خان مارہرہ پہنچے۔ اور اپنے پیرو کو یہ تبرکات نذر کئے یہ تبرکات نواب خیر اندیش میرٹھی کے پاس اس طرح آئے تھے کہ جب تک ان کے والد نواب محبت علی خان کے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک باکمال درویش نے ان کو ایک درود بتایا تھا نواب محبت علی خان اس کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات حضور ﷺ کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوئے آپ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک فرزند صالح صاحب اقبال عطا کیا۔ اس خواب کے بعد نواب خیر اندیش پیدا ہوئے اور اپنی ذاتی لیاقت سے اور نگریب عالمگیر کے زمانے میں مناصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔

وہ بھی ہمیشہ اس درود شریف کا ورد رکھتے تھے، ایک بار وہ بھی زیارت رسول ﷺ سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ نے

ان کو اس درویش کی صورت دکھائی اور ارشاد فرمایا کہ ان درویش کی معرفت میری چند یادگاریں تجھ کو پہنچیں گی۔

نواب صاحب خواب سے بیدار ہوئے بہت خوش ہوئے اور اسی وقت سے دربانوں کو حکم دے دیا کہ میں خواہ کسی حال میں ہوں۔ کوئی درویش آئے تو اس کو فوراً میرے پاس پہنچا دینا۔ ایک دن نواب صاحب محل سرائے میں تھے کہ ایک فقیر کے آنے کی خبر پہنچی۔ نواب صاحب نے فوراً پردہ کھول کر ان کو محل سرائے میں بلایا۔ دیکھا تو وہی صورت تھی جو آپ ﷺ نے دکھائی تھی۔

ان درویش صاحب کی مادری زبان عربی تھی اور تھوڑی سی فارسی بھی جانتے تھے۔ انہوں نے نواب صاحب سے کہا کہ میں روم میں تھا کہ حضور ﷺ کا حکم ہوا کہ میں یہ موئے مبارک آپ کو پہنچا دوں سو یہ امانت لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں تبرکات نواب صاحب کو دے دیئے۔

نواب صاحب نے اس عطیہ کو آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور اپنے اہل و عیال کو ان کی زیارت کرانے میں مصروف ہو گئے اور خواجہ سراؤں کو حکم دیا کہ درویش صاحب کو دیوان خانہ میں قیام کرائیں۔ میں ابھی باہر آتا ہوں۔ چنانچہ درویش صاحب کو خواجہ سراؤں نے دیوان خانہ میں لے جا کر ایک مکلف جگہ پر بٹھا دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نواب صاحب باہر تشریف لائے تو درویش صاحب کو نہ پایا۔ دربانوں سے پوچھا، بہت تلاش کیا مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کون تھے اور کہاں چلے گئے۔ سندان تبرکات کی اسی الماری میں محفوظ ہے۔

(1) مارہرہ کے مزید موئے مبارک

(2) حضور ﷺ کا ایک موئے مبارک

### (3) حضور ﷺ کا ایک نعلین (جوتا) مبارک

حضور ﷺ کا ایک نقش قدم مبارک یہ تینوں تبرکات

حاجی جعفر بن حاجی جمال الدین صاحب بلالی عربی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کو زیارت مارہرہ لائے اور حضرت سیدنا حمزہ شاہ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کو زیارت کرائی اس وقت حضرت حمزہ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کے دل میں خیال آیا کہ حاجی صاحب میری پوری جائیداد لے لیں اور یہ تبرکات مجھ کو دے دیں آخر حاجی صاحب سے اس خیال کا اظہار کر ہی دیا۔ جس کو انہوں نے سختی سے رد کر دیا اور رنجیدہ ہو کر مارہرہ سے چلے گئے۔ حضرت شاہ صاحب کو بھی ان تبرکات کے نہ ملنے کا بے حد ملال تھا۔

اس شب عالم واقعہ میں شاہ صاحب کو حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا: صاحبزادے کیوں رنجیدہ ہوتے ہو، ہم کو تمہاری خاطر منظور ہے تم کو تمہاری خواہش کے مطابق یہ تینوں برکات دے دیئے۔ حضرت شاہ صاحب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے اور تبرکات کے منتظر رہنے لگے۔

اسی اثنا میں حاجی صاحب گریہ و زاری کرتے ہوئے تشریف لائے اور تینوں تبرکات لا کر شاہ صاحب کے سر پر رکھ دیئے اور فرمایا رات مجھے خواب میں سرور دو عالم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تینوں تبرکات میرے فرزند سید شاہ حمزہ کو فوراً دے دے سو یہ امانت لیجئے، یہ کہہ کر واپس جانا چاہا۔

شاہ صاحب نے ہر چند ان کو روکا، تو واضح کرنی چاہی مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور واپس چلے گئے۔ سندان تبرکات کی جو حاجی صاحب کے پاس تھی وہ بھی دے گئے۔ وہ سند بھی ان تبرکات کے ساتھ آج بھی الماری میں موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت حاجی صاحب کو یہ تبرکات کیونکر پہنچے تو یہ ایک طویل داستان ہے۔

صرف اس قدر جان لیجئے کہ یہ تبرکات نہایت درجہ مستند ہیں بلکہ جیسے مستند تبرکات مارہرہ میں موجود ہیں شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کی دیوار مدرسہ دارالعلوم دیوبند

(انڈیا) ایک الہامی مدرسہ ہے۔ ۱۷ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء کو اس ادارے کا آغاز کیا گیا۔ زمین مل جانے کے بعد عمارت مدرسہ کے لئے بنیاد رکھ دی گئی جب وقت آیا کہ اسے بھرا جائے اور اس پر عمارت تعمیر کی جائے تو مولانا رفیع الدین رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مہتمم ثانی دارالعلوم دیوبند نے خواب میں دیکھا کہ اس زمین پر نبی آخر الزمان ﷺ تشریف فرما ہیں ہاتھ میں عصا مبارک ہے۔

آپ نے مولانا سے فرمایا: شمالی جانب جو بنیاد کھدوادی گئی ہے اس سے صحن مدرسہ چھوٹا اور تنگ رہے گا۔ اور آپ نے عصائے مبارک سے دس بیس گز شمال کی جانب ہٹ کر نشان لگایا اور فرمایا کہ بنیاد یہاں ہونی چاہئے تاکہ مدرسہ کا صحن وسیع رہے۔ (جہاں تک باب صحن کی لمبائی ہے) خواب دیکھنے کے بعد مولانا علی اصح بنیادوں کے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت محمد ﷺ کا لگا ہوا نشان بدستور موجود پایا چنانچہ اسی نشان پر بنیاد کھدوائی اور مدرسہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔

(الہام مدرسہ از قاری محمد طیب صاحب قاسمی دارالعلوم دیوبند۔ یہ مضمون ماہنامہ الرشید لاہور کے دارالعلوم دیوبند نمبر فروری، مارچ ۱۹۷۶ء جلد نمبر ۴ شمارہ نمبر ۳۰۲ کے صفحہ ۱۳۸ تا ۱۳۹ میں شائع ہوا) ”اشرف عمارات“ ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۷ء اس کی تعمیر کا مادہ تاریخ ہے۔ اس عمارت کے دو درجے ہیں اور ہر ایک درجے میں نو۔ نو

- ☆ دروازے ہیں۔ اس لئے یہ عمارت ”نودرہ“ کے نام سے موسوم ہے۔  
 شاہی مسجد لاہور کے تبرکات لاہور کی شاہی مسجد کی ڈیوڑھی کے بالا خانے میں رکھے ہوئے تبرکات نبوی کے متعلق لکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ شاہی مسجد اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اس میں حضور ﷺ اور آپ کے اہل بیت اطہار کے تبرکات محفوظ ہیں۔ یہ تبرکات مشرقی صدر دروازے کے اوپر گومتی ہوئی ایک گول گیلری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:
- ☆ رسول اللہ ﷺ کی سبز دستار اور کلاہ مبارک۔  
 ☆ آپ کا سبز چغہ اور بستر کی چادر جس پر سرخ اور سفید دھاریاں ہیں۔  
 ☆ آپ کا سفید چغہ پا جامہ اور نعلین مبارک۔  
 ☆ پتھر پر آپ کے قدم مبارک کا نشان۔  
 ☆ آپ کا سفید جھنڈا جس پر آیات قرآنی درج ہیں۔  
 ☆ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوشتہ قرآن مجید کا پارہ اول بخط کوفی سفید کاغذ پر۔  
 ☆ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاہ مع صاف۔  
 ☆ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعویذ جو دھندلا ہو چکا ہے۔  
 ☆ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کاڑھا ہوا رومال اور بنائی ہوئی جائے نماز۔  
 ☆ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوشتہ سورہ یسین۔  
 ☆ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صندلی دستار۔  
 ☆ وہ جھنڈا جو کربلا میں استعمال کیا گیا تھا۔  
 ☆ وہ رومال جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک کے دھبے ہیں جو میالے ہو چکے ہیں۔  
 ☆ ارض کربلا کی سرخ مٹی۔

☆ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے غلاف۔

☆ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا ہوا دانت۔

☆ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی، لحاف اور جائے نماز۔

☆ مذکورہ تبرکات کی تاریخی حیثیت ان متبرک آثار

کی تاریخ ۱۰۵۰ بہت قدیم اور بہت طویل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب امیر تیمور نے ۸۰۳ھ (۱۴۰۰ء) میں دمشق کو فتح کیا تو سلطان یلدرم بایزید اور دمشق کی دیگر مذہبی شخصیتوں نے بطور اظہار خیر سگالی امیر تیمور کو یہ آثار نبوی نذر کئے تھے۔ یہ تبرکات امیر تیمور کے بعد اس کے وارث بادشاہوں میں بطور ورثہ منتقل ہوتے رہے۔

یہاں تک کہ جب ملکہ زمانی دختر فرخ سیر نے اپنی بیٹی مغلانی بیگم دختر محمد شاہ کے ہمراہ کابل سے دہلی مراجعت کی تو دوران واپسی ملکہ زمانی نے ان تبرکات کو رسول نگر کے دو بھائیوں میر محمد چٹھہ اور شاہ محمد بازا کے ہاتھ اسی ہزار روپے میں ہدیہ کر دیا۔ دونوں بھائیوں میں یہ تبرکات نصف نصف تقسیم ہو گئے۔ ۱۷۹۷ء میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رسول نگر کو فتح کیا تو میر محمد چٹھہ کے حصے کے تبرکات تو جنگ کارزار میں تلف ہو گئے اور جو شاہ محمد بازا کے پاس تھے وہ رنجیت سنگھ کے قبضہ میں آ گئے۔

یہ ۱۸۴۶ء تک بڑی احتیاط اور احترام کے ساتھ رنجیت سنگھ کی بیوی مہتاب کور، سدا کور، رنجیت سنگھ کی ماں اور سردار جواہر سنگھ (وزیر حکومت خالصہ) کے پاس محفوظ رہے۔ پھر جے دیوی عرف جنداں کے حکم سے سردار جیون سنگھ کی تحویل میں آئے۔ آخر کار انگریزوں کے دور اقتدار میں جب حکومت خالصہ ختم ہو گئی تو



وراشہ ملی۔ مورخ ابوالغداء اور امام سیوطی کا بیان ہے کہ سقوط بغداد کے بعد جب تاتاریوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا تو بردہ شریف کہیں گم ہو گئی۔ لیکن بعض دوسرے مورخین نے یہ رائے ظاہر کی کہ عباسی خاندان کے جو افراد تاتار گردی سے بچ رہے تھے وہ اس ردائے مبارک کو اپنے ساتھ پہلے شام اور پھر مصر لے گئے۔

مشہور مملوک فرمانروا الظاہر بیبرس نے جب مصر میں خلافت عباسیہ کا احیاء کیا تو عباسی خلفاء اس ردائے مبارک کو خاص خاص موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ ترکوں نے مصر کی مملوک حکومت کو ختم کیا تو بردہ شریف قسطنطنیہ منتقل ہو گئی اور آج بھی استنبول میں سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ محل ”توپ کاپے“ کمرہ نمبر ۱۲ میں ایک صندوق میں محفوظ ہے۔

پاکستان کے شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق اپنے دور حکومت کے آخری سالوں میں ایک دفعہ جب استنبول گئے تو ترکی حکومت نے آپ کے لئے ”توپ کاپے“ کا کمرہ نمبر ۱۲ کھول دیا اور جب طلائی صندوق کو کھولا گیا اور آپ نے بردہ شریف کو دیکھا تو آپ پر بے اختیار رقت طاری ہو گئی اور کافی دیر تک آنکھیں اشک بار رہیں۔ حضور ﷺ کی عطا کردہ یہ چادر مبارک اب تک موجود ہے۔ (بشکریہ حوالہ رحمت دارین کے سوشیائی صفحہ ۳۶۵-۳۷۸)

### حضرت گنگوہی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اور تبرکات نبوی ﷺ

تبرکات و آثار نبوی سے علمائے کرام کی خصوصی محبت کے بہت سے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ”الشہاب الثاقب“ میں لکھا ہے: حضرت گنگوہی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کے ہاں تبرکات میں حجرہ مطہرہ نبویہ کے غلاف کا ایک سبز رنگ کا ٹکڑا بھی تھا۔ بروز جمعہ کبھی کبھی حاضرین و

انگریزوں نے ۱۸۵۳ء میں ان تبرکات کو شاہ محمد بازا کو واپس کر دیا۔ شاہ محمد بازا کی وفات کے بعد یہ تبرکات اس کے ورثا کو مل گئے جن سے سید نور الدین برادر سید عزیز الدین نے ہدیہ دے کر خود حاصل کر لئے۔

### قصیدہ بردہ شریف حضور ﷺ کے ہاتھ میں

محمد بوسیری (۶۰۸-۶۹۴ھ) نے بھی اپنی بیماری کے دوران قصیدہ لکھا۔ خواب میں حضور ﷺ کے سامنے پیش کیا، آپ نے دست شفقت ان کے مفلوج جسم پر پھیرا اور ردائے مبارک عطا فرمائی۔ بنا بریں بوسیری صحت یاب ہو گئے اسے بھی قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ اس کے ۱۶۲ شعر ہیں اس بردہ (چادر) شریف کی تاریخ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔

ردائے مبارک کا عطا کیا جانا اتنا بڑا اعزاز تھا کہ کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے نزدیک دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیج تھیں۔ جب تک وہ حیات رہے انہوں نے اس بردہ شریف کو سینے سے لگا کر رکھا اور تنگدستی کے باوجود کسی قیمت پر بھی اس کو جدا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

امام جلال الدین سیوطی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ”تاریخ الخلفاء“ میں لکھا ہے کہ حضرت معاریہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس چادر مبارک کو دس ہزار درہم میں حضرت کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے خریدنا چاہا۔ لیکن انہوں نے اس متاع عزیز کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عقبہ المضرب نے یہ بردہ شریف حضرت امیر معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ باختلاف روایت بیس، تیس یا چالیس ہزار درہم میں فروخت کر دی۔

بنو امیہ کے بعد یہ ردائے مبارک خلفائے بنی عباس کو

خدام کو جب ان تبرکات کی زیارت خود کرایا کرتے تھے تو صندوقچہ خود اپنے دست مبارک سے کھولتے اور غلاف نکال کر اپنی آنکھوں سے لگاتے اور منہ سے چومتے پھر اوروں کی آنکھوں سے لگاتے اور ان کے سروں پر رکھتے۔ حجرہ شریف علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خاک کو سرمہ میں ڈلوایا اور روزانہ بعد نماز عشاء خواب استراحت فرماتے وقت اتباعاً للسنۃ اس سرمہ کو آخر عمر تک استعمال فرماتے رہے۔

### حضرت تھانوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اور جبہ نبوی ﷺ

ریاست رام پور میں اس وقت ایک جبہ شریف ہے جس کو جلال آباد سے تھانہ بھون پر نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کی درخواست پر منتقل کیا گیا ہے جس کے متعلق گویا کہ کسی باقاعدہ سند سے تو ثابت نہیں مگر عام طور پر مشہور ہے کہ یہ جبہ حضور نبی کریم ﷺ کا ہے۔ اس کا حال اور حکم پورا پورا السنۃ الجملہ میں حضرت والا (مولانا اشرف علی تھانوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) نے تحریر فرمایا ہے۔ اس جبہ کو خدام جبہ ربیع الاول میں ریاست رام پور سے جلال آباد بھی لایا کرتے ہیں اور کبھی تھانہ بھون بھی اس کو لایا جاتا ہے۔

تو اس کے متعلق حضرت والا مولانا اشرف علی تھانوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ایک تذکرہ میں فرمایا کہ وہ جبہ شریف یہاں آتا ہے تو مومن والی مسجد کے احاطے میں ایک مختصر صحن ہے وہاں پر ایک محفوظ مقام میں اس جبہ شریف کو رکھا جاتا ہے تو گو وہ اس وقت مومن والی مسجد میں ہوتا ہے (یہ مومن والی مسجد اس مقام جہاں خانقاہ میں حضرت والا مولانا اشرف علی تھانوی دو پہر کو لیٹتے ہیں بہت دور ہے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ) یہاں لیٹنے میں اول اول جبہ شریف کی طرف پیر نہیں کرتا تھا اور اب تو کبھی ذہول بھی ہو جاتا ہے

مگر نیند کے بعد گرانی ہوتی ہے۔

میں (مولانا اشرف علی تھانوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) نے خدام جبہ سے کہا کہ جس وقت کوئی نہ ہوگا اس وقت خلوت میں اس کی زیارت کروادیں مگر جبہ شریف کو کھول تم ہی جانا کیونکہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ جبہ شریف کو مس کریں وہ چونکہ خدام ہیں اس جبہ شریف کے اس لئے میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے افضل جانا۔ انہوں نے منظور کر لیا پس مولانا تھانوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے خلوت میں اس جبہ شریف کی زیارت کی تو خوب چوما آنکھوں سے لگایا پھر حضرت تھانوی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے فرمایا ایک ضروری بات قابل غور ہے کہ اس جبہ شریف کو نسبت ہے حضور ﷺ کے ساتھ۔

### حضور ﷺ کی انگٹھی مبارک امام بخاری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں: سرور دو عالم ﷺ نے جب قیصر کسریٰ اور سلاطین عالم کو دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! جب تک کسی خط پر مہر ثبت نہ ہو اس وقت تک وہ سلاطین ایسے خط وصول ہی نہیں کرتے۔ اس لئے حضور ﷺ نے ایک انگٹھی بنوائی جس کا نقشہ یہ تھا:

اللہ رسول محمد

حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ اب بھی اس مبارک انگٹھی کی چمک مجھے نظر آرہی ہے۔

ابن عساکر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حضرت ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے حضور ﷺ نے سونے کی انگٹھی بنوائی اور اس کو صرف تین دن تک پہنا۔ اس کے نگینہ کو اپنی ہتھیلی کی طرف کیا۔ لوگوں نے بھی اپنے نبی کی اقتدا کرتے ہوئے سونے کی

انگوٹھیاں بنوائیں۔ ایک روز سرکارِ دو عالم ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے، حضور ﷺ نے انگوٹھی اٹھا کر پھینکی تو صحابہ نے اپنے آقا کی اقتدا کی۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے چاندی کی انگشتری بنوائی اور حکم دیا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ کر دیا جائے۔

حضور ﷺ نے آخری دن تک یہی انگوٹھی پہنی۔ پھر صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آخر دم تک یہی انگوٹھی پہنی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آخری دم تک یہی انگوٹھی پہنی۔ پھر حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے وہی انگوٹھی پہنی۔ چھ سال تک آپ پہنتے رہے، جب خط و کاتب کا سلسلہ دراز ہوا اور ہر خط پر مہر لگانا خلیفہ وقت حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے لئے مشکل ہو گیا تو آپ نے انگوٹھی ایک انصاری کے سپرد کی اور اسے حکم دیا کہ جتنے خطوط بھیجے جائیں ان پر تم مہر لگا دیا کرو۔

ایک روز وہ انصاری ایک کنوئیں پر گئے جو حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی ملکیت تھا اور سوئے قسمت وہ انگوٹھی اس انصاری سے اس کنوئیں میں گر گئی۔ اس کا نام بُراریس تھا، بڑی تلاش کی گئی، سارا پانی نکلوایا گیا، ساری مٹی نکلوائی گئی، لیکن رحمتِ عالم ﷺ کی انگوٹھی دستیاب نہ ہوئی۔ حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس جیسی ایک انگوٹھی اور بنانے کا حکم دیا پھر فرمایا اس پر بھی محمد رسول اللہ کے کلمات کندہ کئے جائیں۔

اگرچہ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ پہلے حضور ﷺ نے انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی اور پھر بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی۔ لیکن اکابر صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے آخر دم تک انگشتری کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنے رکھا اور وہ نگینہ جس پر محمد رسول اللہ

لکھا ہوا تھا وہ ہتھیلی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اور وہ بھی چاندی کا تھا۔

حضور ﷺ جب قضائے حاجت کے لئے بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو انگشتری اتار کر رکھ دیتے۔ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کو چاندی کی انگوٹھی بنوانے کی اجازت تو دے دی لیکن اس بات پر منع کیا کہ کسی کی انگوٹھی کے نگینہ پر محمد رسول اللہ کندہ کیا جائے۔ ”ولا ينقش احد نقشه.“

ابن ماجہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کیا ہے: ”سرکارِ دو عالم ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی لیکن اس کا نگینہ ایسے پتھر کا تھا جو حبشہ میں پایا جاتا ہے۔“

بعض علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ نبی مکرم ﷺ کی اسی مبارک انگشتری میں ایک سرالہی تھا جس طرح حضرت سلیمان عَلِيْهِ السَّلَام کی انگوٹھی میں سرالہی تھا۔ جب حضرت سلیمان عَلِيْهِ السَّلَام کی انگوٹھی گم ہو گئی تو آپ کی ساری سلطنت ختم ہو گئی اور جب تک سرکارِ دو عالم ﷺ کی بابرکت انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور عثمانی خلافت کے چھ سالوں میں یہ انگوٹھی رہی مملکتِ اسلامیہ کے تمام اکناف و اطراف میں امن و سکون رہا۔ کسی فتنہ و فساد کی وہاں چنگاری بھی نہیں چٹنی، لیکن عثمانی خلافت کے چھٹے سال جب یہ مبارک انگوٹھی بُراریس میں گری اور تلاش بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہوئی تو اس وقت سے ہی فتنہ و فساد کا آغاز ہو گیا اور ابھی تک ان فتنوں کی آگ سلگ رہی ہے اور کبھی کبھی بھڑک اٹھتی ہے اور ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

علمائے کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر انگوٹھی چاندی کی بنی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ وزن ایک مثقال ہو اگر اس انگوٹھی کا وزن ایک مثقال سے زائد ہوگا تو اس کا پہننا جائز نہ ہوگا۔

غیبی تحریر ابن عساکر نے حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو بلایا اور فرمایا میری اس انگشتی پر ”محمد بن عبد اللہ“ کندہ کرو اور وہ انگشتی خالص چاندی کی تھی۔ تو وہ نقاش کے پاس لائے اور کہا کہ یہ نقش اس پر کندہ کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اسے کندہ کر دوں گا اور اس پر اجرت طے کی تو اللہ عزوجل نے نقاش کے ہاتھ کو اس طرح بدل دیا کہ اس نے ”محمد رسول اللہ“ کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے تو تمہیں ”محمد بن عبد اللہ“ کندہ کرنے کا حکم دیا تھا۔

نقاش نے کہا بلاشبہ اللہ عزوجل نے میرے ہاتھ کو پھیر دیا۔ خدا کی قسم! میں یہی کندہ کرنا چاہتا تھا مگر بے شعوری میں یہ کندہ ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس انگشتی کو نبی کریم ﷺ کے پاس لائے اور آپ ﷺ سے حال بیان کیا تو آپ ﷺ مسکرا دیئے اور فرمایا یقیناً میں اللہ عزوجل کا رسول ہوں۔

**مہر نبوی** صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے اطراف و جوانب کے شہنشاہوں، بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمانا چاہے تو حضرت سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کیا کہ یہ سلاطین خط پر مہر نہ ہو تو اسے معتبر نہیں سمجھتے بلکہ پڑھتے تک نہیں۔ آپ ﷺ نے سونے کی انگشتی میں مہر بنانے کا حکم دیا۔ انگوٹھی بن کر آئی تو اسے انگشت مبارک میں پہنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل عَلَيهِ السَّلَام نے اللہ کا حکم سنایا کہ آپ کی امت کے مردوں پر سونا پہننا حرام قرار دیا گیا ہے۔

اس پر حضور اکرم ﷺ نے چاندی کی انگشتی تیار کروائی۔ اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا جس میں ”محمد رسول اللہ“ تین سطروں میں کندہ تھا۔ اس طرح کہ ”اللہ“ کا لفظ سب سے اوپر، درمیان میں ”رسول“ اور آخر میں ”محمد“ تھا۔ آپ اسے کبھی بائیں اور کبھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے۔ اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب ہوتا، یہ انگوٹھی حبشی صنعت کا نمونہ تھی۔ کبھی کبھی اس پر دھاگہ باندھ لیتے کہ جو یادداشت کے لئے ہوتا تھا۔ چاندی کی انگوٹھی پہننے سے لوگوں کو منع نہیں فرمایا، مگر ارشاد ہوا کہ کوئی شخص اس میں ایسا نقش کندہ نہ کروائے۔

عہد رسالت میں یہ مہر تمام مراسلات، پیغامات، تحریروں، حکم ناموں پر لگائی جاتی رہی۔ عہد صدیقی و فاروقی میں بھی اسی کا استعمال جاری رہا۔ حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خلافت کے چھ سال بعد ایک بار جبکہ وہ اریس کے کنوئیں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ انگوٹھی انگلی سے نکل کر اس میں گر گئی۔ بہت تلاش کے بعد بھی نہ ملی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی سے عہد عثمانی میں فتنہ کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے۔

شیخ ابن حجر مکی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی مہر نبوت میں لکھا ہوا تھا ”وحدہ لا شریک له توہہ حیث کنت فانک منصور“۔

تَرْجَمًا: (اللہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، آپ جس حال میں بھی ہیں توجہ فرمائیے بلاشبہ آپ ہی فتح یاب ہیں۔)

بعض روایات میں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد مہر نبوت غائب ہو گئی تھی۔ اسی علامت سے آپ ﷺ کے وصال کی تصدیق ہوئی مگر یہ بات درست نہیں کہ بعد از وصال مہر نبوت باقی نہ رہی۔ حضور

برکت سے بخشا جاؤں۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام حضور ﷺ کے ملبوسات اور استعمال شدہ اشیاء کو تبرک جانتے تھے اور ان سے شفا اور برکت کی امید رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی استعمال شدہ اشیاء کو تبرک سمجھنا، ان سے برکت کی امید رکھنا جائز ہے۔ بدعت یا شرک نہیں ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضور ﷺ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو بعد از غسل آپ نے اپنا تہبند مبارک دیا اور فرمایا: ”اشعر نہا ایاہ۔“

ترجمہ: ان کے کفن کے ساتھ میرا تہبند بھی ملا دو۔

علامہ نووی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى شارح مسلم فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنا تہبند مبارک کیوں عطا فرمایا:

”والحكمة في اشعارها به تبريكها.“

اشعار میں حکمت یہ تھی تاکہ ان کے کفن میں برکت ہو جائے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خود حضور ﷺ بھی اپنی استعمال شدہ اشیاء کو برکت و رحمت تصور فرماتے تھے۔

چادر مبارک کی عجیب برکت حضرت مولانا روم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مثنوی میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے عرض کی: یا رسول اللہ آج بہت تیز بارش آئی۔ آپ قبرستان میں تشریف فرما تھے، مگر آپ کے کپڑے نہیں بھیکے۔ فرمایا: عائشہ تم نے کیا اوڑھا ہوا ہے۔ عرض کی آپ کی تہبند شریف۔ فرمایا:

گفت بہر آں نمود اے پاک حبیب  
نیست این باران این ابر شمار  
چشم پاک را خدا باران غیب

سید عالم ﷺ جیسے اس وقت خاتم النبیین تھے آج بھی اسی طرح ہیں۔ قیامت تک کا زمانہ آپ ہی کا زمانہ ہے، قیامت کے لئے آپ ہی رسول و نبی ہیں۔

حضور ﷺ کے دندان مبارک دارمی و ترمذی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے شامل میں اور بیہقی و طبرانی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے اوسط میں اور ابن عساکر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے۔ دوران کلام ان کے درمیان سے نور نکلتا محسوس ہوتا۔

طبرانی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ابی قرصافہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اور میری ماں اور خالہ نے حضور ﷺ سے بیعت کی۔ جب ہم لوٹ رہے تھے تو میری ماں اور خالہ نے کہا: ”اے بیٹے! ہم نے حضور ﷺ سے بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا، آپ نظافت جسم، لطافت لباس، شیریں گفتار ہیں۔ باتیں کرتے وقت دہن مبارک سے گویا نور نکلتا ہے۔“

چادر نبوی ﷺ امام بخاری اہل بن سعد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سے راوی ہیں ایک دفعہ ایک عورت نے خدمت اقدس میں چادر بطور ہدیہ پیش کی۔ ایک صحابی جو اس وقت موجود تھے کہنے لگے کیا اچھی چادر ہے۔ حضور ﷺ نے اپنی چادر انہیں عطا کر دی۔ لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ تم جانتے ہو حضور ﷺ کو چادر کی ضرورت تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ سرکار ﷺ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے تم نے سوال کیوں کیا۔

”رجوت ببرکتها حين يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلی اکفن.“

میں نے یہ چادر اس لئے لی ہے تاکہ اس میں کفن دیا جاؤں اور

ہست باران دیگر و دیگر شمار  
یعنی: اے عائشہ! میرے تہبند شریف کی برکت سے تمہیں یہ نظر آ گیا  
یہ پانی نہ تھا۔ یہ تو انوار و برکات الہیہ کی بارش تھی، جو مجھ پر برس رہی  
تھی۔ اے عائشہ اس بارش کا بادل اور آسمان ہی دوسرا ہے۔  
یعنی یہ بارش تمہیں اس لئے نظر آ گئی کہ تمہارے سر پر  
میرا تہبند مبارک ہے۔ اسی کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے حجاب  
اٹھ گئے، اور تم نے انوار الہی کا مشاہدہ کر لیا۔ ورنہ یہ کسی کو نظر نہیں  
آتے۔ سبحان اللہ الغرض وہ پیرا ہن یوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ہے اور یہ حضور  
سرور عالم **ﷺ** کے ملبوسات اور آپ کے استعمال شدہ اشیاء کے  
برکات و حسنات ہیں۔ بغور پڑھئے، ایمان تازہ کیجئے اور سوچئے کہ  
اللہ کے برگزیدہ بندے کیسی کیسی نعمتوں کے مالک ہیں۔

**آپ ﷺ کا پرچم مبارک** حضرت عبداللہ بن بریدہ  
**رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** اپنے والد گرامی حضرت بریدہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** سے  
روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم **ﷺ** کا پرچم (علم) سیاہ رنگ کا تھا  
اور آپ کا لواء یعنی چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔

حضرت یونس بن عبید مولیٰ محمد بن القاسم **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ**  
سے منقول ہے کہ مجھے محمد بن قاسم **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** نے حضرت براء بن  
عازب **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** کی طرف بھیجا تا کہ آنحضرت **ﷺ** کے علم  
مبارک کے متعلق ان سے دریافت کروں کہ وہ کیسا تھا۔ تو انہوں نے  
فرمایا کہ وہ سیاہ رنگ کا تھا اور سیاہ کمر سے تیار کیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** سے مروی ہے  
کہ رسول خدا **ﷺ** کا علم مبارک سیاہ تھا اور آپ کا پرچم سفید رنگت  
والا تھا جس پر ”**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**“ لکھا ہوا تھا۔

حضرت حسن بصری **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** سے مروی ہے کہ  
سرکارِ دو عالم **ﷺ** کا علم مبارک عقاب کہلاتا تھا اور اسے اس لقب

سے پکارا جاتا تھا۔

**نبی کریم ﷺ کا کنگھی، سرمہ اور آئینہ کا استعمال**

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** سے  
مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم **ﷺ** سفر و حضر میں ان پانچ چیزوں کو نظر  
انداز نہیں فرمایا کرتے تھے: آئینہ، سرمہ دانی، کنگھی، تیل اور  
مسواک۔

حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور **ﷺ** سفر کا  
ارادہ فرمایا کرتے تھے تو میں یہ چیزیں تیار کر کے حضور **ﷺ** کے  
سامان میں رکھواتی: خوشبودار تیل، کنگھی، آئینہ، قینچی، سرمہ دانی اور  
مسواک۔

حضرت انس **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  
**ﷺ** جب رات کے وقت بستر پر استراحت فرماتے تو اس سے پہلے  
مسواک کرتے، وضو فرماتے اور بالوں میں کنگھی کرتے۔ حضور  
**ﷺ** کی کنگھی ہاتھی دانت کی تھی جس سے حضور **ﷺ** بالوں کو  
درست کیا کرتے تھے۔

**حضور ﷺ کی کنگھی مبارک** حضرت سہل بن سعد

**رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم **ﷺ**  
کے حجرے میں جھانک کر دیکھا، حضور **ﷺ** کے دست مبارک میں  
کنگھی تھی جس سے آپ **ﷺ** اپنے سر مبارک کو کھجلا رہے تھے۔  
حضور **ﷺ** نے فرمایا اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں اس  
کنگھی سے تیری آنکھوں کو ضرب لگاتا، تم نہیں جانتے کہ شریعت  
میں کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اذن طلب کرنے کا حکم اس  
لئے دیا گیا ہے کہ تم اہل خانہ کو اپنی آمد سے خبردار کرنے سے پہلے نہ  
دیکھو۔

**حضور ﷺ کا سرمہ مبارک** حضرت انس **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ**

ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ ملک شام کے بعض مشائخ نے مجھے بتایا کہ اب وہ طوس کے علاقہ میں ہے۔

امام شاطبی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ مصحف پہلی کتابت کے مطابق لکھنا چاہئے جو لوگوں نے نئی کتابت ایجاد کی ہے اس کے مطابق نہیں لکھنا چاہئے۔ نیز اس نے کہا ہے کہ مصحف عثمان تو غائب ہے اس کی کسی کو خبر نہیں۔“

حضرت ابو عبید قاسم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنی کتاب میں قرآن کے متعلق لکھا ہے کہ: ”میں نے ایک مصحف دیکھا جسے امام مصحف عثمان کہتے تھے، یہ بعض امراء کے خزانے سے برآمد ہوا تھا۔ یہ وہی مصحف ہے جو شہادت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے موقع پر ان کی گود میں تھا۔ اور میں نے ان کے خون کے آثار اس میں کئی جگہوں پر دیکھے۔ لیکن ابو جعفر نحاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کلام کو رد کر دیا ہے اور حوالہ میں امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کلام جو اوپر بیان ہو چکی ہے ذکر کی ہے۔“

امام شاطبی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ منصف مزاج لوگوں نے امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بات کو ٹھکرادیا ہے، کیونکہ امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کلام میں غائب ہونے کا لفظ ہے جو اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ مصحف کلیۃً معدوم ہے اور اس کا پایا جانا ناممکن ہے۔ کیونکہ غائب چیز کے متعلق یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ کسی وقت ظاہر ہوگا۔

**ختم بخاری شریف کی برکات** اور میں نے مغرب میں حافظ الصالح ابی عبداللہ محمد بن سعد التسمانی الانصاری کی تصنیف ”رو من النسرين في مناقب الاربعة المتأخرين.“ دیکھی۔ حافظ الغرب ابو القاسم العبدوسی الفاسی تونس شریف لائے

سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس کالا سرمہ تھا۔ آپ اپنے بستر پر آرام فرماتے تو دونوں آنکھوں میں تین تین بار سلایاں ڈالتے۔

### حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قرآن مبارک

موجودہ مصحف کی نسبت حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی طرف سوائے مطری کے کسی نے نہیں کی اور مطری کے بعد جنہوں نے مسجد کے درمیانی گنبد کا آتشزدگی کے موقع پر محفوظ رہنا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس مصحف کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں البتہ ابن جبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے سفرنامہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقام النبی کے سامنے ایک بڑا صندوق ہے اور مقام النبی اور حجرہ کے درمیان ایک بڑی رحل ہے جس پر ایک بڑا مصحف ایک غلاف میں بند ہے اور اس پر قفل لگا ہوا ہے۔ یہ ان چاروں مصاحف میں سے ہے جو حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مختلف شہروں کی طرف بھیجے تھے۔

یہ مصحف جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے اس مصحف کے مطابق ہے جو ابن نجار نے ذکر کیا ہے جو مصر سے بھیجا گیا تھا اور ابن جبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کی نسبت حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی طرف نہیں کی۔ حالانکہ ابن جبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ان مصاحف میں سے ہے جو حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے دیگر ممالک میں ارسال کئے تھے۔ ہاں یہ نہیں کہا کہ یہ وہی مصحف ہے جو حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہادت کے موقع پر ان کی گود میں تھا۔

ابن قتیبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بیان کیا ہے کہ وہ مصحف جو شہادت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے موقع پر ان کی گود میں تھا وہ ان کے بیٹے خالد کے پاس تھا۔ پھر اس کی اولاد کے پاس رہا، پھر نسل بعد نسل

اور یہاں تشریف لانے کے بعد استقاء کے دن انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھ دی۔ صبح سے شروع کی اور ظہر یا عصر کے بعد ختم کر دی۔ (ظہر یا عصر۔ اس میں مجھے شک ہے کیونکہ پڑھے ہوئے کو مدت ہوگئی ہے) اور فارس کے لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ تکالیف و مہمات کے وقت وہ بخاری شریف کا ختم کرواتے ہیں اور یہ دفع شر و مصائب کے لئے مجرب ہے۔

اور یہ تمام اشیاء جو ہم نے اس کتاب میں نقل کرنے کے لئے قائم کی تھیں لیکن ایک گونہ مناسبت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بھی ہم نے بیان کر دیں اور یہ اس واحد القہار کا فضل و کرم ہے جس کو چاہتا ہے اس کے لئے مختص فرمالتا ہے۔ اور وہ بڑے فضل و کرم والا ہے، پس پاکی ہے اس قادر مطلق کے لئے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور وہ اپنی قدرت سے عاجز نہیں آتا وہ بقا کو ممکن بنانے والا ہے اور ہمیشہ کا حاکم ہے، مخلوق کو فنا کرنے پر قادر ہے۔ پس کتنے ہی حفاظ حدیث، بزرگ، نقاد اس زمین کے نیچے چلے گئے کہ اب ان کا زمانے پر اثر ہے اور ان کی خبریں صرف کتابوں میں رہ گئیں ہیں، مٹی کی طرف لوٹ گئی جیسا کہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔

**حضور ﷺ کا رومال مبارک** اگر خلیل اللہ کے جسم اقدس کے لئے آگ سرد ہوگئی، تو سید الانبیاء ﷺ کے رومال مبارک کے لئے متعدد بار آگ گل و گلزار ہوگئی۔ خلیل کا جسم سلامت رہا اور محبوب کا رومال بھی آگ نے نہ جلایا۔

امام ابو نعیم عباد بن عبد الصمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چند آدمی حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاں گئے، حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کینز کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ کینز جو رومال لائی وہ میلا تھا۔ حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا:

**سجری التنور فاوقدته فامرنا بالمندیل فطرح فيه فخرج ابيض كانه اللبن.**

تنور جلا اس میں رومال ڈال دے۔ کینز نے رومال تنور میں ڈال دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد دودھ کی طرح سفید رومال تنور سے نکالا۔

حاضرین نے بڑے تعجب سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ آگ نے رومال کو نہ جلایا بلکہ صاف و شفاف کر دیا۔ حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”هذا مندیل كان رسول الله ﷺ بمسح وجهه فاذا اتسخ صنعنا به هكذا.“

یہ وہ رومال ہے جس سے حبیب خدا اپنا چہرہ اقدس صاف فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسی طرح تنور میں ڈال کر اجلا کر لیتے ہیں۔

اللہ اکبر! یہ رومال متعدد بار آگ میں ڈالا جاتا ہے مگر نہیں جلتا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ اس رومال سے اپنا چہرہ مبارک صاف فرمایا کرتے تھے۔ ثابت ہوا کہ خلیل اللہ کے جسم مبارک کو آگ نے نہ جلایا اور حبیب خدا کے جسم مبارک سے جو چیز مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔

**محبوب کے اشارہ پر بتوں کے ٹکڑے ہو گئے** سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے غضب اللہ اپنی قوم کے بتوں کو مسمار کر دیا۔ مگر حضور اکرم ﷺ نے ایک ممتاز شان سے بتوں کو توڑا۔ یعنی خلیل کے مقدس ہاتھوں نے بت توڑے اور محبوب علیہ السلام کے صرف اشارے سے بت گر گئے اور حضور ﷺ کو اپنا دست اقدس بھی بتوں کو نہ لگانا پڑا۔

امام بخاری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حضرت جابر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں کہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے۔ جب حضور ﷺ کا مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا۔



”جعل یثیر بقضب فی یدہ ولا یمسہا مما اشار الیٰ  
وحد صنم ان وقع لوجهہ.“

تو آپ ﷺ شاخ خرما سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل گر جاتا تھا۔

بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی آمد سے روئے زمین کے بت اوندھے منہ گر گئے۔ امام ابو نعیم عمر بن قتیبہ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات حضور غَلِيْبًا ﷺ نے صحنِ عالم میں قدم رکھا۔ ”فکست اصنام کلہا۔“ تو روئے زمین کے بت اوندھے منہ گر گئے۔

دیکھئے خلیل اللہ اپنے مقدس ہاتھوں سے بت مسار فرماتے ہیں اور حضور غَلِيْبًا ﷺ کی صرف آمد سے روئے زمین کے بت خود بخود اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا  
تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا  
مسجد اقصیٰ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ بقول مقدسی کے  
مسجد اقصیٰ کے حرم شریف کے وسط میں چبوترہ اٹھا ہوا ہے جس کے چاروں طرف کافی چوڑی سیڑھیاں ہیں۔ چبوترے پر چار گنبد بنے ہوئے ہیں ان میں قبة السلسلہ، قبة المعراج اور قبة النبی کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں جو سنگ مرمر کے ستونوں پر بغیر دیواروں کے قائم ہیں۔ بقول ابن فقیہ قبة الصخرہ کے مشرقی جانب قبة السلسلہ بیس ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس کے سامنے مشرق ہی کی طرف حضرت خضر غَلِيْبًا ﷺ کا مقام عبادت ہے۔ اس کے شمالی رخ پر قبة النبی اور مقام جبرائیل غَلِيْبًا ﷺ ہیں اور چٹان کے برابر قبة المعراج ہے۔

یہ قبة زیادہ پائیدار اور مستحکم نہ تھا اس لئے بار بار زلزلوں سے متاثر ہوتا رہا اور تعمیر ہوتا رہا اس چبوترے کے دوسرے قبوں یعنی

قبة النبی، قبة المعراج اور قبة جبرائیل کے بارے میں امام ابن عبد ربہ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى نے لکھا ہے: یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور ﷺ

آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس مقام کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں حضور ﷺ نے انبیائے سابقین کے ہمراہ نماز ادا فرمائی۔

بیت المقدس میں قبة الصخرہ کے پیچھے جنوبی سمت گیارہ سیڑھیاں اتر کر ایک غار میں داخل ہوتے ہیں جسے مغارة الارواح کہتے ہیں۔ اس غار میں مختلف انبیاء کی جائے عبادت کو محرابوں سے مخصوص کیا گیا ہے (یہاں محراب بمعنی چبوترہ ہے) اس کے شمالی حصے میں مقام خضر غَلِيْبًا ﷺ اور جنوبی کونے میں مقام داؤد غَلِيْبًا ﷺ ہے یہاں ایک مقام کے بارے میں جسے مقام النبی کہا جاتا ہے۔

روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے یہاں نوافل ادا کئے تھے۔ اسی غار میں موئے مبارک اور نقش پائے مبارک بھی جو اس غار کے جنوب مغربی کونے میں ایک الماری میں محفوظ ہیں اس الماری کے سامنے ایک صندوق میں حضور ﷺ اور حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کے علم بھی محفوظ کر لئے گئے ہیں اس غار میں پچاس ساٹھ آدمی سما سکتے ہیں۔ (بشکریہ اسلامی انسائیکلو پیڈیا)

نبی اکرم ﷺ کی نعلین مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کا یہ معمول تھا کہ جب حضور اکرم ﷺ مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے تو حضرت عبداللہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ حضور ﷺ کے دونوں مبارک قدموں سے نعلین شریفین کو اتار لیتے اور انہیں اپنی قمیض کی آستین میں رکھ لیتے۔ جب حضور ﷺ اٹھ کر جانے لگتے تو حضرت عبداللہ خود حضور ﷺ کو یہ پہناتے اور عصا لے کر حضور ﷺ کے آگے آگے چلتے یہاں تک کہ نبی مکرم ﷺ اپنے حجرہ شریف میں نزول اجلال فرماتے۔

# باب نمبر 1

## مکہ مکرمہ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ

### مکہ مکرمہ


﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى

لِلْعَالَمِينَ﴾ "اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔" (آل عمران: 96/3)

**مکہ مکرمہ کے نام:** مکہ، بکۃ، ام القری، البیت الحرام، البیت العتیق، البلد الامین، بیت اللہ الحرام

**یہ نام بھی ہیں:** الفساسة، ام رحم، معاد، الحاطمة، الرأس، صلاح، العرش، القادس، المقدسه، الناس، الناس، کوٹنی (معجم البلدان: 1815)


پیمانہ: 1 سنی میٹر = 3,335 میٹر



### مکہ مکرمہ

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں  
(شیخ محمد سعید فارس کی کاوش سے ماخوذ نقشہ)

# حضور ﷺ کی آمد پر سرزمین اسلام سے تہوں کا صفایا





شیخ أسامہ اور طالبان امریکہ کے راستے میں آفری رکاوٹ ہیں


# حرمین شریفین پر تسلط کا خوفناک امریکی منصوبہ



## مسجد حرام کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور رنگوں کے آئینے میں)

مسجد حرام کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور رنگوں کے آئینے میں)

(کوہ صفا سے کوہ مروہ تک سعی کی جگہ جو ملک سعودی نے "توسیع کے وقت مسجد حرام میں شامل کر دی گئے)




یہ تعمیر آپ ﷺ کے سامنے کی حیات مبارکہ میں آپ ہی کے سامنے ہوئی۔

- تعمیر تریش مکہ 604ء
- توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 639ء
- توسیع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 648ء
- توسیع عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 685ء
- ولید بن عبدالملک اموی 709/91ء
- توسیع ابو جعفر منصور عباسی 754/137ء
- توسیع محمد مہدی عباسی 777/160ء
- توسیع معتضد باللہ عباسی 897/284ء
- توسیع مقتدر باللہ عباسی 918/306ء
- توسیع ملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود 1375/1955ء (گزشتہ تمام توسیعات سے 6 گنا زیادہ)
- توسیع خادم الحرمین الشریفین فہد بن عبدالعزیز 1409/1988ء

(سعودی عہد کی مجموعی توسیع سے گزشتہ تمام توسیعات کی نسبت رقبہ 9 گنا ہو گیا ہے جبکہ مقتدر باللہ کی توسیع کے بعد 1069 برس تک کوئی توسیع نہیں ہوئی تھی)

# حج کا نقشہ

مکہ، مکہ مکرمہ



- 4 ذی الحجہ زوال کے بعد ہی پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیان شیطان، پھر بڑا شیطان، طواف زیارت کیں نہیں کیا تو آج کر لیں، رات منی میں قیام۔
- 5 ذی الحجہ زوال کے بعد ہی کل والی ترتیب سے طواف زیارت کیں نہیں کیا تو آج مغرب سے پہلے کر لیں، رات منی میں قیام کا اختیار ہے۔
- 6 ذی الحجہ اگر بارہ ریح کا غروب آتا ہے منی میں ہو گیا اور تیرہ ریح کی گنج سادق تک ٹھہرے تو تری واجب، جو گنج سادق کے بعد کرکتے ہیں۔ کل والی ترتیب سے۔
- 7 طواف دوای: کلن واجب سے پہلے

منی

عرافات

- 1 ذی الحجہ منی روانگی منی میں پانچ نمازیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نویں تاریخ کی فجر۔
- 2 ذی الحجہ فجر کے بعد عرافات روانگی، زوال تا غروب آفتاب، توقف، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانگی، مغرب، عشاء، مزدلفہ میں رات مزدلفہ میں قیام۔
- 3 ذی الحجہ مزدلفہ میں فجر کے بعد توقف، منی روانگی، بڑے شیطان کی روٹی، پھر ترابی، پھر بال منڈوانا یا کتر وانا، حرام کھول کر طواف زیارت کے لیے مکہ جانا کل یا برسوں بھی جا سکتے ہیں، رات منی میں قیام۔

منی و عرفات کے سب سے اہم مقامات ہیں

## (حضور ﷺ کے ہاتھوں حجر اسود کی تنصیب)

### حجر اسود: جنت کا پتھر

حجر اسود جنت کا پاک اور محترم پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے اس کونے میں پیوست ہے جو کعبۃ اللہ کے سنہری دروازے سے متصل ہے۔ اس مقام سے ہی طواف کعبہ کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چکر اس مقام پر ختم ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ جنت کا پتھر ہے۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا، طوفان نوح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت کے طور پر جبل ابوقبیس کے حوالہ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو جبل ابوقبیس سے لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اس کونہ میں نصب کر دیا تاکہ طواف کرنے والے اس کونے سے طواف کا آغاز کریں اور اپنے سات چکروں کو شمار کر سکیں۔

یمن سے آئے ہوئے بنو جرہم، سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہوئے تھے۔ اس قبیلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فوت ہوئے تو انہیں حطیم اور چاہ زمزم کے درمیان دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خانہ کعبہ کی متولی تھی لیکن بنو جرہم نے ان سے یہ منصب چھین لیا اور پوری بستی پر قابض ہو گئے۔

بنو اسماعیل ان کے ظلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر پہاڑوں اور ٹیلوں پر آباد ہو گئے۔ بنو جرہم کافق و فجور اور آبادی پر ظلم زیادہ ہوا تو قبائل عرب نے ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں یہ یہاں سے یمن کی طرف بھاگ گئے لیکن جاتے ہوئے بیت اللہ کا بابرکت سامان اور حجر اسود اکھاڑ کر زمزم کے کنوئیں میں پھینک گئے اور کنوئیں کا نشان تک بند کر گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے کنوئیں کی کھدائی کے دوران حجر اسود برآمد کیا اور اسے پھر اسی جگہ نصب کر دیا۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ کعبہ اقدس کی دیواریں پھٹ گئیں۔ مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو پھر سے بنائیں، اور خوب اونچی اور مضبوط بنائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس مقدس عمارت کو از سر نو بنایا، اور جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو۔ اس وقت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ


آپ ﷺ کا کارنامہ: قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت تمام قبیلوں میں اس سعادت کے حصول کے لئے (دیواروں کی تقسیم کی) لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اور اعزاز اسے حاصل ہو۔ اس اختلاف میں نوبت لڑائی اور خونریزی تک پہنچ گئی۔ تلواریں نکل آئیں لیکن پھر مشورہ پر طے پایا کہ جو شخص صبح سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اس کو فیصلے کا اختیار دیا جائے۔

بیت اللہ کی تعمیر میں رسول اللہ ﷺ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ شامل تھے آپ ﷺ کی عمر اس وقت ۳۵ سال تھی۔ حسن اتفاق کہ صبح سے پہلے آپ ﷺ ہی مسجد حرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے داخل ہوئے۔ سب نے آپ ﷺ پر اتفاق کیا کہ: ”جاء محمد جاء الامین“ محمد ﷺ آگئے یعنی امین آگئے۔

آپ ﷺ نے چادر بچھائی اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں اور معززین کو چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھانے کا حکم دیا جب یہ لوگ حجر اسود کو اٹھائے ہوئے بیت اللہ کے اس کونے کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے خود اٹھا کر حجر اسود اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔

**حجر اسود اور چاندی کا طوق:** حجر اسود کے ارد گرد جو چاندی کا کڑا ہے یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا، اس کے بعد سے خلفاء وقت حسب ضرورت اسے بنواتے رہے۔

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حجر اسود کے گرد چاندی کا حلقہ نصب کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے عہد خلافت میں بتاریخ ۳/ربیع الاول ۶۳ء کعبے میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور جل کر تین ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جس کو سنبھالنے کے لئے ابن زبیر نے چاندی کا حلقہ لگایا اور کعبہ از سر نو تعمیر کر کے حجر اسود کو اس میں نصب کیا۔







زیر نظر تصویر میں حجر اسود چمڑہ کے خول میں رکھا ہوا ہے جس پتھر پر یہ رکھا ہوا ہے وہ کئی سو سال پرانا ہے۔

(وہ مبارک پتھر جس کا حضور ﷺ اکثر بوسہ لیا کرتے تھے)

## حضور ﷺ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح

حضور ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے تجارت کرتے تھے آپ ﷺ کی ایمانداری کو دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور ﷺ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت شریف گھرانے کی تھیں۔ ان کا نسب حضور ﷺ کے نسب سے ملتا ہے۔ ان کے باپ کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ تھا، یہ جہاں بہت مالدار تھیں وہاں سمجھ دار اور عقلمند بھی بہت تھیں، مکہ کا ہر عالی نسب ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، مگر چونکہ ان کو حضور ﷺ سے سچی محبت و عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اس لئے انہوں نے سب پر حضور ﷺ ہی کو ترجیح دی، سب کے پیغام رد کر دیئے اور حضور ﷺ کو خود پیغام دیا اور آپ نے بھی اس پیغام کو خوشی سے منظور فرمایا۔ حالانکہ حضور ﷺ کی عمر شریف پچیس سال کی تھی اور وہ چالیس سال کی تھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بڑے سادے طریقہ پر نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ ابوطالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے معزز لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر گئے، ابوطالب نے خطبہ پڑھایا اور مہر پانچ سو درہم مقرر ہوا۔



جنت المعلىٰ میں موجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار (اب یہ مزار گرا دیا گیا ہے)

### حضور ﷺ کا ۳ سال تک شعب ابی طالب میں قید رہنا


جبل ابوقبیس مکہ کا نہایت حیرت انگیز پہاڑ ہے اور روایت ہے کہ یہ دنیا میں پیدا کیا جانے والا اولین پہاڑ ہے اس کے دامن میں بہت سی گھائیاں ہیں۔ ان میں سے ایک گھاٹی شعب ابی طالب ہے۔ عربی میں شعب گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی حرم پاک سے بہت نزدیک ہے۔ جبل مروہ پر واقع مسجد الحرام کے باب المروہ سے اگر باہر نکلا جائے تو سوق اللیل نامی بازار کے ساتھ ہی یہ گھاٹی موجود ہے۔ ایک بات واضح رہے کہ جبل مروہ کی جانب سوق اللیل اور شعب عامر کا علاقہ دراصل وہ مقام ہے جو رسول اللہ ﷺ کا اصل محلہ تھا۔

لہذا رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی کے زیادہ تر مقامات زیارات مسجد الحرام کے اسی جانب ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے مولد النبی ﷺ ہو یا شعب ابی طالب، بی بی خدیجہ الکبریٰؓ کا مکان ہو یا مکہ کا مقدس قبرستان، جنت المعلیٰ، جبل ابوقبیس ہو یا دیگر تاریخی گھائیاں۔ ان سب مقامات کی زیارت کے لئے مسجد الحرام کے باب المروہ سے باہر نکلیں تو ان سب مقامات کی ایک ساتھ زیارت ہو سکتی ہے۔

سرزمین مکہ مکرمہ کے اہم واقعات سے واقعہ شعب ابی طالب بھی ہے۔ سیدنا حضرت حمزہ اور سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کے قبول اسلام کے بعد کفر کا زور ٹوٹا گیا اور آئے دن اسلام کی قوت بڑھتی گئی۔ اسلامی قوت کو دبانے کے لئے قریشوں نے بنی ہاشم سے سوشل بائیکاٹ کا حربہ استعمال کیا۔ ایک معاہدہ لکھا کہ کوئی بھی بنو ہاشم سے میل جول تعلقات نہیں رکھے گا۔ اس ظالم معاہدہ کو منصور بن عکرمہ نے لکھا اسی وقت قدرت نے اسے سزا دی، انگلیاں مثل ہو گئیں اور ہاتھ ہمیشہ کے بے کار ہو گیا۔ اس صورت حال سے پریشان ہو کر جناب ابوطالب نے شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش کی طرف سے یہ بائیکاٹ مسلسل تین سال تک رہا۔ بنو ہاشم کے لئے یہ دن بڑے کٹھن تھے۔ بھوک پیاس سے بچوں کے بلبلانے کی آواز آتی تو سنگدل خوش ہوتے۔

اس قید و بند میں زندگی دو بھر ہوتی چلی گئی، سیدنا سعد بن وقاص فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہیں اونٹ کی کھال کا سوکھا چڑا ملا جو دھو کر جلایا اور کوٹ کر سفوف کی شکل میں استعمال کیا۔ تین سال بعد سب سے پہلے ہشام بن عمر کو خیال آیا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں خود مزے سے رہ رہے ہیں اور بنو ہاشم مصائب میں، رات کی تاریکی میں غلہ پہنچا دیا کرتے۔ ایک دن زبیر سے بات ہوئی پھر مطعم بن عدی سے تبصرہ ہوا پھر ابوالختری اور زمعہ بن اسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔ انہوں نے معاہدہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ زمعہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ معاہدہ پھاڑ دیا جائے گا کہ یہ ظلم ہے۔ ابو جہل مجلس کا عنوان بھانپ گیا اور مزاحم نہ ہوا۔

اسی دوران حضور ﷺ نے ابوطالب کو اطلاع دی کہ معاہدہ کو دیکھنے کے لئے کہا گیا ہے اور صرف ”باسم اللہم“ کے الفاظ بچے ہیں۔ ابوطالب نے یہ واقعہ قریش کو سنایا اور کہا میرے بھتیجے کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ چنانچہ دیکھا گیا تو یہی صورت حال تھی، تمام قریش شرمسار ہوئے اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ اختتام کو پہنچا۔



بنی ہاشم کے محلے میں پرانے طرز کے مکانات یہ وہی ہاشمی خاندان ہے جس کا کفار نے ۳ سال تک بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ جگہ شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔

## غار حرا: جہاں پہلی وحی نازل ہوئی


کوہ حرا: اس کے اندر وہ غار ہے جہاں نبی کریم ﷺ بعثت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے۔ یہیں پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل حرا دامن میں کچھ پھیلاؤ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کواٹھتا چلا گیا ہے، تاہم اس کی چوٹی نو کیلی نہیں۔ سارا پہاڑ چٹیل یعنی پتھر ہی پتھر ہے۔ اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ جبل نور مکہ مکرمہ کے مشرق میں تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر دور ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 639 میٹر ہے۔ یہ مکہ سے طائف جانے والی سڑک سے قریب 200 میٹر ہٹ کر ہے۔ پہاڑ کے دامن میں نصف کلومیٹر تک راستہ ہموار ہے اور آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ مشرقی سمت سے ہے اور چکر کھاتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ جبل حرا اور جبل ثبیر ایک دوسرے کے بالمقابل واقع ہیں، تاہم کوہ حرا نسبتاً زیادہ بلند ہے۔ کوہ حرا کی چوٹی پر ایک سیاہ رنگ کی جھنڈی نصب ہے۔

**غار حرا:** یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے ساٹھ، ستر میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا ہے۔ غار سے چند قدم پہلے یا چٹانی تختوں نے راستہ تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 درجے کا زاویہ بناتا ہے اور دبلا پتلا آدمی بھی گھسے بغیر آگے غار میں نہیں جاسکتا۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں قریباً خمیے کی شکل میں اور ذرا باہر کھڑا ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے، پونے دو میٹر تک چوڑے اور تین چار میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح نکلے ہوئے ہیں کہ تساوی الساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے۔ جس کا ہر ضلع اڑھائی میٹر لمبا اور قاعدہ قریباً ایک میٹر ہے۔ غار کی لمبائی دو سو دو میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو تدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا، چنانچہ دہانے سے اندر کو تاریکی ہے جس کے حجاب کو چیر کر آنکھ آگے نہیں دیکھ سکتی۔


**غار حرا میں پہلی وحی:** جب حضور ﷺ چالیس سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر کوہ حرا پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبریل امین نمودار ہوئے اور نبی ﷺ پر سب سے پہلی وحی نازل کی جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزمان مبعوث کیا۔ پہلی دفعہ جب نبی ﷺ نے جبریل کو آسمان کے مشرقی کنارے (بالائی افق) پر معلق دیکھا تو ان کے چہ سو بازو تھے اور ہر بازو اتنا بڑا تھا کہ افق پر چھایا ہوا تھا، پھر جبریل قریب آئے تھے حتیٰ کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تب انہوں نے آپ کے جسم کو بھینچ کر کہا: ”پڑھیے۔“ آپ نے کہا: ”میں پڑھا ہوا نہیں۔“ فرشتے نے آپ کو دوبارہ بھینچا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبریل نے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تیسری بار بھینچ کر کہا: ”پڑھیے۔“ تو آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ابتدائی وحی سورہ علق کی پہلی پانچ آیات پر مشتمل تھی۔

نبی ﷺ حرا سے کانپتے لرزتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ سے کہہ اور رضائی اوڑھانے کو کہا، پھر سارا واقعہ سنا کر فرمایا: ”مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔“ خدیجہ سے اپنے عم زاد ورقہ بن نوفل کو بلا لائیں جو مسیحی ہونے کے باعث توراہ اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ نے آپ کی بات سن کر کہا: ”یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) تھا جو موسیٰ ﷺ پر نازل ہوا تھا۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔“ آپ نے حیرت سے پوچھا: ”کیا اس کلام کی وجہ سے میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟“ ورقہ نے کہا: ”ہاں! آپ جیسا کلام جو بھی لایا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔“

غار حرا: جہاں پہلی بار حضور ﷺ پر وحی نازل ہوئی



مسجد حرام سے کھینچی گئی غار حرا کی تصویر



1- یہ گول دائرہ شعب ابوطالب نامی اس جگہ کا ہے جہاں حضور ﷺ کو تبلیغ کی محنت کرنے کی وجہ سے 3 سال تک محصور (قید) کر کے رکھا گیا۔

2- یہ دو نمبر دائرہ جس جگہ پر لگایا گیا ہے یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور ﷺ کی ولادت ہوئی۔

## ابوطالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات

مسلمانوں کو شعب ابی طالب گھائی سے نکلے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے پیارے چچا ابوطالب نے وفات پائی۔ 3، ابھی اس غم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ آپ کی نغمسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ یہ زمانہ آپ پر بہت سخت گزارا آپ کے یہی دو مونس اور نغمسار تھے، دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے چل بے۔  
حوالہ السیرۃ النبویۃ لابن اسحق: 271/1، وسبل الہدی والرشاد لمحمد بن یوسف الصالحی: 434/2، والطبقات الکبریٰ لابن سعد: 125/1.


**جنت المعلیٰ:** مکہ مکرمہ کا مشہور اور تاریخی قبرستان ”جنت المعلیٰ“ کہلاتا ہے یہ اب مکہ کی آبادی میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں بنی کریم ﷺ کے خاندانی اجداد حضرت خدیجہ الکبریٰ اور صاحبزادہ قاسم، طاہر اور طیب کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہیں آسودہ خواب ہیں جن میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی مدفون ہیں۔ قبرستان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے درمیان سے سڑک نکالی گئی ہے، یہی سڑک آگے کی طرف منیٰ کو چلی جاتی ہے۔




حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان جہاں حضور ﷺ کی شادی کے بعد ہجرت تک مقیم رہے اس مکان سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔



زیر نظر تصویر میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر دکھائی دے رہی ہے۔ پہلو میں صاحبزادوں کے مزار ہیں۔



حضرت خدیجۃ الكبرىؓ کے مکان مبارک  
جو مولد سیدۃ فاطمۃ الزہراءؓ سے مشہور ہوا،  
کا تقریبی خاکہ




حضور ﷺ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر جو محلہ بنو نحر کے محلے میں تھی اب یہ گھر مسجد نبوی کی جدید توسیع میں شامل ہو گیا ہے۔




## محبوب کے اشارہ پر چاند کے دو ٹکڑے

زیر نظر تصویر مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کہ حرم پاک سے متصل پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضور ﷺ نے کفار کی فرمائش پر چاند کو اشارہ کیا تو وہ حکم الہی پر دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مسجد ہلال ہے۔ یہاں سے چاند دیکھا جاتا تھا۔ اس پہاڑ کو جبل ابوقبیس کہتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب زمین سے پانی ہٹنا شروع ہو تو سب سے پہلے کرہ ارض پر یہی پہاڑ نمودار ہوا۔ طوفان نوح کی موقع پر حجر اسود اسی پہاڑ پر رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد محترم کے صحن سے نظر آتی ہے۔ آسانی سے اس بلندی تک پہنچا جاسکتا ہے۔

ہجرت مدینہ سے تقریباً ۵ سال پہلے کا واقعہ ہے چاند کی چودھویں رات تھی۔ چاند ابھی اٹھتا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک لمحہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا: 'دیکھو اور گواہ رہو۔' کفار نے کہا محمد (ﷺ) ہم پر جادو کر سکتے تھے تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دوان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔



ابوقبیس پہاڑ پر مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ایک قدیم یادگار تصویر)



- ۱۔ جبل ابوقبیس نامی پہاڑ کا منظر (یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے)
- ۲۔ یہ تصویر مسجد بلال کی ہے اس جگہ حضور نے چاند کو اشارہ کیا تو حکم الہی سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

## معراجِ حَبِيبِ ﷺ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا۔

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونہ دکھلائیں۔




حضور ﷺ کی عمر شریف 51 برس اور کچھ مہینے کی تھی کہ نبوت کے گیارہویں سال، رجب کی ستائیس تاریخ، رات کے وقت آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر آپ کو جگایا اور معراج کی خوش خبری سنائی، پھر ایک تیز رفتار سواری پر جس کا نام براق تھا، آپ کو سوار کر کے اول بیت المقدس لے گئے۔ جہاں پر آپ نے تمام نبیوں سے ملاقات فرمائی، پھر وہاں سے تمام آسمانوں کو طے کرتے ہوئے اور دوزخ و جنت کے عجائبات دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربارِ عالی میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسی شب آپ کی امت پر نماز فرض ہوئی، پھر اسی سواری پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے اور یہ سب پلک جھپکتے ہو گیا۔

جب آپ ﷺ نے صبح کو معراج کا حال سنایا تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا خوب پھبتیاں گسیں کہ محمد (ﷺ) کو دیکھو یہ آسمان پر گئے تھے، انہوں نے دوزخ جنت کو دیکھا، بیت المقدس کی سیر کی، واہ خوب یہ ایک منٹ میں سب کچھ کر آئے، بیت المقدس کی سیر کی، واہ خوب یہ ایک منٹ میں سب کچھ کر کے آئے، لیکن بعض سمجھ دار آدمیوں نے واقعہ کی تصدیق کے لئے بیت المقدس اور اس کے راستے کے متعلق سوالات کئے، جس کا جواب حضور ﷺ نے بالکل ٹھیک ٹھیک دے دیا، تب وہ لاجواب ہوئے، لیکن اس پر بھی جن کے دل میں کجی تھی، انہوں نے جادوگری بتلائی اور بعض خاموش ہو گئے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے معراج کے تمام واقعات سن کر اماناً و صدقاً کہا، اور ہر بات کے صحیح ہونے کا دل

سے اقرار کیا، اس پر آپ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔




مسجد حرام سے معراج کی طرف حضور ﷺ کا سفر

## سیدہ ام ہانیؓ کا مکان:

سیدہ ام ہانیؓ سروردو عالم ﷺ کی چچا زاد بہن ہیں۔ آپ ﷺ اکثر ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق معراج کی شب بھی آپ ﷺ انہی کے گھر میں آرام فرماتے اور یہیں سے معراج کے لئے تشریف لے گئے تھے۔

ان کا مکان موجودہ باب الوداع کے قریب تھا۔ زمانہ قدیم میں مورخین نے اس کا محل وقوع سوق حناطین حزرہ والے مینار کے قریب بیان کیا ہے۔ قصی بن کلاب نے العجل نامی کنواں اسی جگہ کھودا تھا۔ جہاں سیدہ ام ہانیؓ کا گھر تھا۔ ۲۶ھ میں جب خلیفہ مہدی عباسی نے حرم شریف کی توسیع کی تو یہ جگہ حرم میں آگئی تھی۔ رکن یمانی سے باب الوداع کی طرف ۱۲۰ میٹر کے فاصلہ پر یہ مقدس مکان تھا۔

وہ مقام جہاں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فتح کا جھنڈا لگایا تھا۔



مسجد رایہ



مسجد خالد بن ولید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

عربی میں ”رایہ“ جھنڈے کو کہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں وہ مقام جہاں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا وہاں یہ مسجد قائم ہے۔ ۱۰ رمضان ۸ ہجری کو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر پڑاؤ ڈالا اور غسل فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہاں علم یعنی جھنڈا نصب کیا اور حکم فرمایا کہ مکہ کے جن لوگوں نے ابوسفیان کے گھر میں پناہ لی انہیں ہر طرح کی معافی ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا انتہائی تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ جس پر آج کی دنیا بھی محو حیرت ہے کہ ایسا شخص جو ہمیشہ دشمن اسلام رہا لیکن جب وہ مغلوب ہوئے تو رسول ﷺ نے انتقام لینے کے بجائے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی بخش دیا۔ عفو و درگزر کی یہ اعلیٰ مثالی تاریخ انسانیت میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ”مسجد الرایہ“ مکہ کے محلہ شعب عامر میں مسجد الحرام کے پانچ مرکزی دروازوں میں سے ایک ”باب الفتح“ سے نہایت قریب ہے ”باب الفتح“ کی وجہ تسمیہ بھی یہی مسجد اور فتح مکہ کا واقعہ ہے۔



### حضور ﷺ کے ہاتھوں غسل کعبہ

فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے زم زم کے کنویں سے پانی مکنوایا پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کو خوب دھویا اسی سنت کو زندہ کرنے کے لئے ہر سال کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔



بیت اللہ کے اندرونی حصے کا روح پرور  
منظر۔ میز پر رکھے گئے برتنوں میں عود  
سلگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو  
اپنے گھر سے سچا تعلق اور اس تعلق کا  
حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بیت اللہ کے اندرونی حصے کا روح پرور منظر۔  
میز پر رکھے گئے برتنوں میں عود سلگایا جاتا ہے۔  
اللہ مسلمانوں کو اپنے گھر سے سچا تعلق اور اس  
تعلق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے



یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ ﷺ  
کثرت سے عبادت کرتے تھے۔




کعبہ شریف کی دیواروں کی مرمت کے دوران لی گئی تصویر


## کعبۃ اللہ کا اندرونی منظر:

کعبہ شریف میں لکڑی کے تین ستون ہیں جن پر چھت ہے، ان کا قطر ۴۴ سینٹی میٹر ہے ہر دو ستون کا درمیانی فاصلہ ۲،۳۵ میٹر ہے دروازہ کے سامنے ہی ایک محراب ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ یہ محراب عین اس جگہ پر بنا ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازہ سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً تین ہاتھ (ڈیڑھ میٹر) رہ جاتی تو وہ دروازہ کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تاکہ اس جگہ پر نماز پڑھیں جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تھا لیکن بیت اللہ شریف کے اندر کسی بھی جگہ نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ (حوالہ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث ۱۵۹۹)

## باب التوبہ

دروازہ کی داہنی طرف ایک زینہ ہے جو چھت کی طرف چڑھتا ہے، اس کا ایک دروازہ ہے جو ”باب التوبہ“ (توبہ کا دروازہ) سے معروف ہے اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے کعبہ کی دیواروں کی اندرونی جانب مضبوط اور خوبصورت رنگین سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں





بچپن میں حضور ﷺ بیت اللہ کی دیوار کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے دیکھنے والوں نے حیران کن منظر دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار آپ ﷺ کا بوسہ لینے کیلئے جھکی ہوئی تھی

فتح مکہ کے دن آپ ﷺ کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی۔


کعبہ شریف کی چھت سرخ رنگ کے 3 ستونوں پر کھڑی ہے جبکہ فرش سنگ زخام کا ہے ۱۳۷۷ھ میں چھت کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے شاہ فیصل نے اس کو کنکریٹ سے بنوایا ہے۔



## خانہ کعبہ کی انمول چابی

کعبہ کے دروازہ کی چابی سب سے پہلے حضرت اسمعیل عليه السلام کے پاس رہی پھر آپ کے بیٹے ثابت اور ان کی اولاد کے قبضہ میں رہی، اس کے بعد حضرت اسمعیل عليه السلام کے سرالی رشتہ دار قبیلہ جرہم کے پاس منتقل ہو گئی، پھر قبیلہ خزاعہ سے ہوتے ہوئے یہ عظیم شرف قصی بن کلاب کو نصیب ہوا جو آپ عليه السلام کے چوتھے دادا تھے، پھر ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ عليه السلام نے عثمان بن طلحہ رضي الله تعالى عنه سے چابی لے کر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے پھر باہر آ کر عثمان بن طلحہ رضي الله تعالى عنه کو کلید کعبہ عنایت کی اور فرمایا: ”اے چابی لو اور اے طلحہ کی اولاد! اب یہ تمہاری نسل میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس کو تم سے کوئی نہ لے سکے گا سوائے کسی ظالم کے، میرے بھائیو! آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کنجی کعبہ اسی خاندان کے پاس ہے، آجکل اس چابی کی لمبائی چالیس سینٹی میٹر ہے، جو ایک ریشم کے تھیلے میں محفوظ ہے، جس پر خالص سونے کا کام کیا ہوا ہے اور یہ تھیلا ہر سال بدلا جاتا ہے جس کی تیاری مکہ مکرمہ میں قائم اسی کارخانہ میں ہوتی ہے۔ جہاں غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے، اس تھیلے کی ایک جانب آیت مذکورہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ...﴾ تحریر ہے جبکہ دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی ہے ”أمر بصنعه خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله“ یہ تھیلا خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے فرمان پر تیار کیا گیا ہے۔ مصنع كسوة الكعبة ۲۸ بحوالہ تاریخ مکہ





۱۔ وہ مبارک مقام  
جہاں پر معراج کی  
رات جبریل نے  
آپ ﷺ کے  
پاؤں کو بوسہ دیا  
جس کی ٹھنڈک سے  
آپ کی آنکھ کھل گئی  
پھر وہاں سے آپ  
ﷺ بیت المقدس  
روانہ ہوئے وہاں  
سے ساتوں آسمانوں  
پر تشریف لے گئے  
واپسی میں ۵ نمازوں  
کا تحفہ لائے۔


وہ مبارک جگہ جہاں حضور ﷺ نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبہ کے سایہ میں آرام فرمایا کرتے تھے۔

حضور ﷺ نے فرمایا حطیم کے دروازہ پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے جس نے حطیم کعبہ میں دو نفل پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔  
(تاریخ مکہ ص ۲۳۳)

### (قبر مبارک اماں حاجرہ علیہا السلام و اسماعیل علیہ السلام)

کعبہ اللہ کے سامنے گولائی کی شکل کی چھوٹی سے دیوار ہے اسے حطیم کہتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجر (حطیم) بیت اللہ کا حصہ ہے۔  
حجر وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم ؑ نے اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ علیہا السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل ؑ کو مکہ میں چھوڑتے وقت کہا تھا کہ یہاں ایک  
چھپر سا بنا لے۔ بہت سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اسماعیل ؑ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس مدفون ہیں۔  
سیدہ عائشہ صدیقہ ؓ فرماتی ہیں کہ میں نے گزارش کی: اللہ کے رسول! میں بھی حطیم کو کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا  
: "ادخلی الحجر فانہ من البیت۔" (حجر حطیم) میں داخل ہو جاؤ حطیم بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ (تیری قوم نے تعمیر کے وقت اسے باہر چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری  
قوم قریب الکفر نہ ہوتی تو یقیناً میں ایسا کر گزرتا۔  
آپ ﷺ کے اسی کرب اور آرزو کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے صحابہ کے مشورہ سے ۶۳ھ میں جب کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا تو کعبہ بنی کے اندر  
حطیم کو رکھا۔ اور آنے والے دس سال تک حج و عمرے کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا۔  
حجاج بن یوسف کی جہالت: ۵۷ھ میں عبداللہ بن زبیر ؓ سے خصوصیت کی بنیاد پر کعبہ شرفہ کی اسلامی تعمیر کو پھر عہد جاہلیت کی تعمیر پر لوٹا دیا گیا اور یہ کارنامہ  
حجاج بن یوسف کی جہالت نے سرانجام دیا۔۔۔  
حطیم وہی مقام ہے جہاں سرکار دو عالم ﷺ معراج کی رات آرام فرما رہے تھے۔ اور حضرت جبرائیل ؑ آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کے تلووں  
مبارک کو بوسہ دیا جس کی ٹھنڈک سے آپ کی آنکھیں مبارک بیدار ہوئیں اور پھر آپ معراج شریف کے پہلے سفر پر، جو مسجد اقصیٰ تک کا تھا، اسی مقام سے روانہ  
ہوئے حضور اکرم ﷺ نے یہ سفر "براق" پر کیا تھا اور اسی سفر کو "اسراء" کہتے ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں آپ نے بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) سے آسمانوں تک کا  
سفر کیا ہے جسے معراج کہتے ہیں۔

وہ مبارک جگہ جہاں سے حضور ﷺ بیت اللہ میں عبادت کے لئے داخل ہوتے تھے۔



باب کعبہ میں خالص سونے کی تختیاں لگی ہوئی ہیں جس کی لاگت 1399ھ کے حساب سے ایک کروڑ چونتیس لاکھ بیس ہزار ریال تھی جبکہ 280 کلو سونا اس کے علاوہ ہے۔


**کعبہ شریف کا دروازہ:** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اللہ کی تعمیر فرمائی تو کعبہ کے دو دروازے زمین کے برابر بنائے تھے لوگ مشرقی دروازہ سے داخل ہوتے اور مغربی دروازہ سے باہر آجاتے، واضح رہے کہ دونوں دروازوں پر کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ان کو بند کیا جاسکے تا آنکہ یمن کے ایک بادشاہ اسعد بن جثالہ نے ایک فٹ کا دروازہ لگوا دیا جو بوقت ضرورت کھولا اور بند کر دیا، اور مشرقی دروازہ کو زمین سے بلند کر کے دو فٹ کا دروازہ لگا دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: تمہاری قوم کے لوگوں نے ایسا کیا تاکہ جس کو چاہیں داخلہ کی اجازت دیں اور جس کو چاہیں روک دیں، اگر تمہاری قوم جاہلیت کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی، اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل کسی تبدیلی کو قبول نہ کریں گے تو میں حطیم کو بیت اللہ کی تعمیر میں شامل کر دیتا۔ اور دروازہ بھی زمین کے برابر بناتا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر ۱۵۸۳ ۲۔ صحیح بخاری، کتاب الحج

① زیر نظر تصویر میں بڑا گول دائرہ بیت اللہ کی چھت پر داخلہ کی جگہ کا ہے ② نمبر دائرہ - باب رحمت کا ہے یہ 6 فٹ لمبا ہے۔ یہ وہ مبارک چھت ہے جس پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر حضور ﷺ کے حکم پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی تھی۔



خانہ کعبہ کی چھت: زمانہ دراز تک کعبہ شریف کی عمارت بغیر چھت کے تھی، قریش نے اپنی تعمیر میں سب سے پہلے چھت بنائی، اور اب یہ دو چھتیں ہیں ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے کعبۃ اللہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ چھت میں ایک سوراخ ہے جس کا طول و عرض ۱،۲۷ x ۱،۲۷ میٹر ہے اس پر شیشہ کا ایک مضبوط ڈھکنا ہے، جہاں سے کعبہ کے اندر طبعی روشنی آتی ہے، جب کعبہ کع غسل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور اس سوراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ سنہ ۱۳۹۷ھ میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کے بجائے مضبوط المونیم کی گول سیڑھیاں بنادی گئیں جن کی تعداد پچاس ہے۔ (حوالہ تاریخ کعبہ)




خانہ کعبہ کی چھت پر داخلہ ہونے کا راستہ

وہ مبارک جگہ جہاں حضور ﷺ طواف کے ”بعد“  
مقام ابراہیم کے سامنے دو رکعت نفل ادا کرتے تھے۔

زیر نظر بکس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات  
مخصوص ہیں جو کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت اس پتھر پر حکم الہی سے  
محفوظ ہو گئے تھے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے دو رکعت پڑھنے  
کا حکم ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور پاک ﷺ کے حج کے سلسلہ میں فرماتے ہیں  
کہ ”ہم آپ ﷺ کے ہمراہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ  
نے حجر پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بیت اللہ  
شریف کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ نے حجر اسود کا بوسہ لیا تین چکروں میں  
رمل کیا اور چار چکروں میں عام چال چلے، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے  
پاس تشریف لائے اور آیت (واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ)  
تلاوت فرمائی، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ  
آپ کے سامنے تھے۔ (حوالہ صحیح مسلم حدیث ۱۲۱۸)



### تاریخ مقام ابراہیم علیہ السلام


سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئیں اور ردہ اٹھانے میں دقت ہونے  
لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل سے فرمایا کہ کوئی پتھر تلاش کر کے لاؤ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری رکھ سکوں۔ حضرت  
اسماعیل علیہ السلام تلاش کے بعد یہ پتھر اٹھا کر لے آئے اور آپ کے والد بزرگوار نے اسے پہاڑ کے طور پر استعمال کر کے دیوار پر پتھر رکھنے کا کام  
جاری رکھا۔

اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے یہ پتھر خود بخود اتنا اونچا ہوتا جاتا تھا جتنی اونچائی کی آپ کو ضرورت ہوتی جاتی تھی۔ اور خود بخود نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ یہ  
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ آپ کے قدم مبارک ٹخنوں تک اس پتھر میں گڑ گئے یعنی آپ کے پاؤں  
کے نشان اس پتھر نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جب آپ کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ پتھر کعبہ شریف کے سامنے باب کعبہ  
سے حجر اسود کی جانب رکھ دیا۔ یہ پتھر آج تک محفوظ ہے اور اسی مقام کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔

تفسیر مظہری میں جناب قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر کی چٹان پر قدموں کے نشانات پڑ جانا اور چٹان کے اندر پاؤں کا ٹخنوں تک سما جانا، پھر پتھر  
میں اتنا بڑا گڑھا بن جانا اور آثار انبیاء میں سے ہے اس اثر کا اتنے زمانے تک باقی رہنا اور دشمنوں کی کثرت (یہود و نصاریٰ) کے باوجود ہزاروں  
برس تک اس کا محفوظ رہنا کعبہ شریف کے قبلہ ہونے کا ایک کھلا ثبوت ہے۔

(حوالہ: بیت اللہ کا تصویری ایلمنٹ)

مطاف در حقیقت حرم شریف کا وہ گن ہے جس پر 1400 سال پہلے آپ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قدم مبارک مس ہوئے ہیں۔ وہ جگہ ہے جو ہزاروں انبیاء کے قدم مبارک چوم چکی ہے۔



۱۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب بندہ طواف کرتا ہے تو رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے ہر قدم پر 50 نیکیاں ملی ہیں۔ (الحدیث)

۲۔ طواف کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ (الحدیث)

۱۔ آپ ﷺ نے فرمایا طواف اعمال میں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے (الحدیث)

۲۔ فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اللہ اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور گناہ مٹاتا ہے۔ (الحدیث)



- یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور ﷺ کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے جب بھی ملتزم کے پاس دعا کی وہ قبول ہوئی آپ ﷺ اس سے اس طرح لپٹ جاتے جیسے بچہ ماں سے لپٹتا ہے۔

۲- آپ ﷺ نے فرمایا مجھے جبرائیل ﷺ اکثر ملتزم کے پاس نظر آئے۔

۳- یہی وہ در ہے جہاں بے طلب بھی ملتا ہے۔ (الحديث)

### تاریخ ملتزم

حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازہ کے درمیان پانچ چھٹ کا حصہ ”ملتزم“ کہلاتا ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ جگہ جس کے ساتھ چمٹا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہاں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنا سینہ مبارک چمٹایا اور آنسو بہا کر اپنے رب سے دعائیں مانگی ہیں اور پھر آپ ﷺ کے اس طرز عمل کی اتباع میں ان چودہ صدیوں کے دوران صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، آئمہ مجتہدینؒ، علماء کرام، مشائخ عظام اور ہر مسلمان اپنا سینہ یہاں لگا رہا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس آدمی نے ملتزم کے پاس گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔


## میزابِ رحمت

یہ ایک پرنالہ ہے جو کعبہ کی چھت میں لگا ہوا ہے اس کے ذریعہ بارش کا پانی یا چھت کی دھلائی کا پانی حطیم کی سمت گرتا ہے قریش نے سب سے پہلے بیت اللہ پر چھت بنائی تو اس میں پرنالہ نصب کیا، ورنہ اس سے قبل نہ چھت تھی نہ پرنالہ، بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اس کے نیچے دعاء قبول ہوتی ہے:

نگاہیں شوق کی پڑنے لگیں میزابِ رحمت پر بدوشِ برق اٹھا ابر کرم تابیدہ تابیدہ

۱۳۱ھ میں جب کعبہ کی تجدید ہوئی تو اس پرنالہ (میزابِ رحمت) کو از سر نو تیار ”کیا“ گیا اور اس کا طول و عرض سابقہ پرنالہ کے مطابق ہی رکھا گیا جس کو سلطان عبدالمجید خان عثمانی نے ۱۲۷۳ھ میں بیت اللہ کی چھت پر نصب کرایا تھا۔ اس کے آگے کے حصہ میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ“ تحریر ہے، اور اس کی بائیں جانب یہ عبارت لکھی گئی ہے ”جدد هذا المیزاب خادم الحرمین الشریفین الملک فہد بن عبد العزیز آل سعود ملک المملكة العربیة السعودیة“ (اس پرنالہ کی اصلاح و تجدید سعودی فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود نے کرائی)۔

اس پرنالہ کی دونوں جانب منڈیر پر نو کداریں میخیں گاڑ دی گئیں ہیں، تاکہ پرندے اس پر نہ بیٹھ سکیں نیز پرنالہ پر سونے کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔  
(حوالہ: تاریخ بیت اللہ)






## تاریخ رکن یمانی

(جہاں ستر انبیاء مدفون ہیں)

کعبۃ اللہ شریف کے چار کونوں میں سے ایک کونے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرت اسود والا کونہ خانہ کعبہ کا پہلا کونہ کہلاتا ہے۔ دوسرا کونہ رکن شامی کہلاتا ہے جو حطیم کی ابتدائی دیوار سے متصل ہے۔ تیسرا کونہ رکن عراقی حطیم کی اختتامی دیوار کی جانب ہے اور آخری یعنی چوتھا کونہ رکن یمانی ہے حجر اسود والے کونے کے بعد کعبۃ اللہ کے اس کونے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایک روایت کے مطابق رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ستر انبیاء کرام مدفون ہیں۔ تاہم وہاں کسی کی قبر کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی حجاج اور زائرین کو اس کی جستجو کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہر دم یہاں اللہ ہی سے لگاؤ برقرار رکھنا چاہیے۔



تصویر میں جو پٹی نظر آ رہی ہے یہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کی جگہ کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے تو پاؤں کے نیچے اس پٹی کو دیکھ کر حجر اسود کی صحیح جگہ کا اندازہ کر لیجئے۔


## رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے

جیسا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ”رکن یمانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے“۔ ۲۔ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ طواف کرتے وقت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا مانگتے: (ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار) ترجمہ: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔ (آل عمران: ۲۰۱)

لب پہ میرے ہے بس ربنا آتنا خوبیاں مانگنا ہی میرا کام ہے


سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنے سے اللہ کریم گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عطاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ آپ ﷺ بڑی کثرت سے رکن یمانی کا استلام کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جب بھی اس کے پاس پہنچا تو جبرئیل کو موجود پایا جو استلام کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ نبی غلیظ اللہ نے فرمایا کہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود جنت کے دو دروازے ہیں۔

دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا  
ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا



ایک موقع پر آپ ﷺ کے دادا عبدالمطلب بیت اللہ کے سایہ میں سرداروں کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے۔ اس وقت عبدالمطلب کے رعب کی وجہ سے کوئی بھی عبدالمطلب والی جگہ کے آس پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ محمد ﷺ عبدالمطلب کی چادر پر آگئے سردار ہٹانے لگے تو عبدالمطلب نے فرمایا محمد ﷺ کو چھوڑ دو اس کی بڑ شان ہے مجھے اس کو یہاں سے ہٹانے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔

- ۱۔ دنیا کے خالق و مالک کا آستانہ، وہ چوکھٹ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس جگہ پر پہنچ کر ندامت کے چند آنسو بہا لینا خوش نصیبی کی معراج ہے۔
- ۲۔ غلاف کعبہ کے بدلنے کے لیے عشاق کعبہ کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں
- ۳۔ باب بنی شب اس دروازے سے حضور ﷺ مسجد حرام میں داخل ہوتے تھے۔
- ۴۔ مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ ”ابو قیس“ میں نکالی گئی سرنگوں کا خوبصورت منظر



ابی قیس (کوہ صفا) کا ایک منظر جسے مکہ مکرمہ کی توسیعی آبادی نے آلیا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم کے مطابق قریش مکہ کو بلا کر کھلی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آپ ﷺ ایک صبح جبل ابی قیس پر چلے گئے اور بلند آواز میں پکارا! ”یا صباہا“ (ہائے صبح) یہ پکار سن کر قریش کے متعدد قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ ﷺ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے کہا۔ اے جماعت قریش! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد ﷺ کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی (گرفت) سے (بچانے) کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا الخ..... یہ وہ بانگ تھی جسے سن کر قریش مکہ ہکا بکا رہ گئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا۔ ”آپ ﷺ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔“

## صفا مروہ کی پہاڑیاں (اماں ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں صفا اور مروہ دو پہاڑ تھے جو اب برائے نام رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی مٹی اور پتھر مختلف اوقات میں مسجد الحرام میں استعمال ہوتی رہی ہے اب ان کے نشانات باقی ہیں ان کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے پانی کی تلاش میں سات چکر لگائے تھے۔  
☆ ”صفا“ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سارہ کو چھوڑا اور تنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھے۔  
☆ ”مروہ“ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی چاہی تھی۔  
☆ ”صفا“ اور ”مروہ“ کا درمیانی فاصلہ تقریباً پانچ سو گز ہے ان کے درمیان دو سبز ستون ہیں جہاں سے دوڑ (سعی) شروع کی جاتی ہے۔ اس میں سات چکر ہوتے ہیں جو واجب ہیں۔

## کوہ صفا کی تاریخی حیثیت

۱۔ ام بخاری نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”صفا“ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے قریش کے لوگو! اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے۔ سب نے کہا ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اسی پس منظر میں سورہ ابولہب نازل ہوئی کیونکہ ابولہب نے کہا تھا تو جھوٹا ہے۔

۲۔ ایک موقع پر قریش کے لوگوں نے کہا: ہمارے لیے دعا کرو کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے۔ آپ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کو سونے کا بنا دیتا ہوں مگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا۔ (مسند احمد)

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس تشریف فرما تھے کہ ابو جہل یہاں سے گزرا اور اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لہولہاں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ ابو جہل کے پاس گئے جو اس وقت کعبہ شریف کے پاس قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا، اس سے کہا: تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدسلوکی کی ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ پھر کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کی اس کا سر پھٹ گیا۔

۴۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس حضرات انصار بھی جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا: جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔

۵۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

”واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بايتنا لا يوقنون“


ترجمہ: اور جب ان کے بارے میں (عذاب کا) وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں جو ان سے بیان کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اور دجال کا ظہور ہو اور بولنے والا جانور نکل آئے۔ یہ جانور کہاں ظاہر ہوگا اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ صفا سے نکلے گا۔ (طبرانی)


**جبل صفاء:** صفاء کی پہاڑی وہ مقام ہے جہاں سے حاجی سعی کی ابتداء کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی اب مسجد الحرام کی توسیع کے بعد مسجد کی عالیشان عمارت کے اندر آگئی ہے۔ مسجد کی جدید تعمیر کے بعد اب پہاڑی تو تقریباً ختم ہو چکی ہے البتہ نشانی کے طور پر ایک پہاڑی نما ٹیلہ ضرور موجود ہے جس کے سنگلاخ پتھر حجاج اور زائرین کے مسلسل چلنے کی وجہ سے چلنے اور ہموار ہو گئے ہیں۔ یہ وہی تاریخی مقام ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے کفار مکہ کے سامنے دین اسلام کی ابتدائی دعوت دی۔

اور اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ ﷺ نے جب کفار مکہ سے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوجیں موجود ہیں تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ کفار جو رسول اللہ ﷺ کی صداقت کے معترف تھے بولے یقیناً کیونکہ آپ ﷺ تو صادق ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ نے دین اسلام کی ابتدائی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور کفار مکہ کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ صفاء ہی وہ تبرک پہاڑی ہے جہاں سے بی بی حاجرہ نے اپنے شیر خوار بچے کو مکے کی گرم ریگستانی زمین پر لٹا کر پانی کی تلاش کی کوشش شروع کی تھی۔

اس پہاڑی سے آج بھی کعبۃ اللہ صاف نظر آتا ہے جہاں اس وقت شیر خوار سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے سخت بے چین تھے۔ زائرین عمرہ اور حجاج اسی پہاڑی سے سعی کی ابتداء کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم تبرک پہاڑی ہے۔ مسجد الحرام میں اگر باب صفاء، جو مسجد الحرام کے پانچ مرکزی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، داخل ہوں تو داہنے ہاتھ پر مسجد شریف کی بالائی منزل پر جانے کے لیے لفٹیں لگی ہوئی ہیں اور وہیں معذوروں اور بوڑھے لوگوں کے لیے وہیل چیئرز کھڑی نظر آتی ہیں جو گراہیہ پر لی جاتی ہیں اور صفا اور مروہ کی سعی کے لیے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ عموماً پاسپورٹ رکھوانا پڑتا ہے (بس اسی مقام سے اگر داہنے ہاتھ پر دیکھیں تو گیلری نما جگہ (جہاں سعی ہوتی ہے) میں صفا کی پہاڑی کا ٹیلہ نظر آتا ہے۔



۱۔ باب الفتح  
۲۔ باب عمرہ  
۳۔ باب عبد العزیز



جبل رحمت کی پہلی کا پڑ سے لی گئی تصویر

صفا

بیت اللہ کا ایک ایک پتھر آپ ﷺ کے تبرکات سے بھرا ہوا ہے۔


لطف سر رکھ کر رکھنے میں کیا  
سر رکھ کر مرجانے میں کیا

وہ مبارک جگہ جہاں آپ ﷺ اور ہزاروں انبیاء کے قدموں کے انوارات اس زمین پر پھیلے ہوئے ہیں  
نئی توسیع کے بعد صفا و مروہ کا منظر



### موجودہ صفا کی چٹان کا محفوظ حصہ جس پر قبلہ رو ہو کر حجاج دعا مانگتے ہیں

صفا و پہاڑی ہے جہاں بعثت کے بعد رسول ﷺ نے بنی قریش کو پہلی دعوت حق دی تھی۔ قدیم زمانے میں بھی اہل مکہ کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تو اسی پہاڑی پر کیا جاتا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ پہاڑی کافی بلند تھی اب برائے نام ایک ٹیلے کی طرح ہو کر رہ گئی ہے۔ کچھ تو اسے حرم سے قریب مکانات بنانے کے لیے کاٹا گیا ہے۔



(وہ مبارک پانی جس میں حضور ﷺ کا لعاب مبارک موجود ہے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کچھ پانی اور کھجور کا ٹوٹا ان کو دیکر واپس چلے گئے، جب یہ تو شتم ہوا اور ماں بیٹا پیاس سے بیٹاب ہو گئے، تو حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پر اس غرض سے چڑھیں کہ شاید کوئی آدم زاد نظر آجائے اور ہمیں پانی فراہم کر سکے، جب کوئی نظر نہ آیا تو مروہ پہاڑی کی جانب گئیں اس پر چڑھ کر نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی نظر آجائے مگر کوئی نظر نہ آیا سی پریشانی کے عالم میں صفا، مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں، ساتویں بار مروہ پر تھیں کہ ایک آواز سنائی دی کہ دیکھا تو ایک فرشتہ نے اپنے بر زمین پر مارے جس کی وجہ سے پانی نکل آیا۔

۱۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور پھر پی پیاس بجھائی۔ حوالہ تاریخ تصویر

## ماء زمزم




## فضائل آب زم زم

- ۱۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے۔
- ۲۔ یہ جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ پوری فرماتا ہے۔
- ۳۔ اسی پانی سے فرشتوں نے آپ ﷺ کا دل دھویا تھا۔


## آب زم زم کے قدیم کنویں کی نایاب تصویر

اس پانی کی خصوصیت ہے کہ 100 سال بھی برتن میں پڑے رہے یہ خراب نہیں ہوتا  
محدثین نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے رونے پر یہ پانی ابل پڑا تو ماں حاجرہ نے کہا  
زم زم رک جاؤ تو یہ رک گیا ورنہ سارا جہاں پانی سے بھر جاتا۔

آب زم زم پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی جو ۸۸ مربع میٹر محیط تھی جو ۱۳۸۸ھ میں گرا دی گئی تاکہ اس جگہ مطاف کی توسیع ہو جائے  
زم زم پینے کا انتظام تہہ خانہ میں کر دیا گیا ہے۔ جو کہ ایئر کنڈیشنڈ ہے اس تہہ خانے میں اترنے کیلئے ۲۳ سیڑھیاں ہیں۔




زم زم کے کنویں پر حاجی دعا کر رہے ہیں



مسجد حرام کے دروازے

مسجد الحرام کے کم و بیش تمام داخلی دروازے کسی نہ کسی نام سے موسوم ہیں اور ان دروازوں پر جلی حروف میں ان کے نام اور نمبر درج ہیں۔ ان ۹۵ دروازوں میں سے ۵ دروازے مرکزی گیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنی کشادگی کے اعتبار سے دیگر دروازوں سے بڑے اور وسیع ہیں۔ انہی مرکزی دروازوں کے اوپر بلند اور پرشکوہ مینار تعمیر کیے گئے ہیں جو دور سے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ ”باب مسجد الحرام کے پانچوں مرکزی دروازوں کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔



**باب فتح:** حرم شریف کے اس دروازے کا نام باب فتح اس لیے رکھا گیا کہ اس دروازے کے باہر انتہائی نزدیک وہ مقام یا جگہ موجود ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا اور عربی میں راہ جھنڈے کو کہتے ہیں۔

## جمرات: وہ جگہ جہاں شیطان نے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی

جمرات دراصل میدان منیٰ میں وہ تین مقامات ہیں جہاں انسان کے اذلی دشمن ”ابلیس“ یعنی شیطان ملعون نے اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سب سے محبوب بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی عشق باری تعالیٰ میں جھوم اٹھے اور بولے: ابا جان! آپ اپنا خواب سچا کر دکھائیے۔ مجھے آپ انشاء اللہ ثابت قدم پائیں گے۔

باپ بیٹے میں جب عہد و پیمان ہو گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر میدان منیٰ میں آئے۔ راستہ میں تین مقامات پر شیطان نے آپ دونوں کو ورغلانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی۔ مگر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے مینڈھے کو ذبح کروادیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا پسند آگئی اور آپ نے نہ صرف منیٰ میں موجود حجاج پر یہ قربانی واجب کر دی بلکہ دس ذوالحجہ کو کرہ ارض پر ہر جگہ ہر صاحب استطاعت پر بھی یہ قربانی لازم قرار دے دی۔

پتھر کے ستون: تینوں جمرات پر گول دائروں میں پتھر کے ستون بنے ہوئے جنہیں عام طور پر لوگ شیطان کہتے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ کی تعیین کے لئے علامتی نشان پلر کی شکل میں ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری تھیں۔ البتہ ان ستونوں کے ارد گرد جو حوض نمادارے ہیں یہ ۱۲۹۲ھ کے بعد بنائے گئے ہیں، جن کی تعمیر کا مقصد بڑھے ہوئے اژدھام کے پیش نظر رمی کی جگہ کو وسیع کرنا تھا۔ نیز یہ کنکریاں ایک جگہ جمع ہوتی رہیں، اور پھیل کر لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔

## عرفات: ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل سے ملاقات کی جگہ:

یہی وہ مقدس میدان ہے جہاں دنیا بھر کے حجاج کرام کا قوف کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الحج عرفہ“ حج عرفہ میں قیام ہے۔ باقی احکام حج رہ جانے سے تلافی ہو سکتی ہے مگر قوف عرفہ رہ جائے تو کوئی بدل نہیں اسی میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ ایک لاکھ ۲۵ ہزار کا عظیم اجتماع تھا اور آواز مبارک ہر ایک کو سنی جا رہی تھی۔

عرفہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام حضرت حوا کا یہاں تعارف ہوا کہ آدم ہندوستان سے اور حضرت حوا جدہ سے یہاں ملے یا اس لئے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو مناسک حج سے متعارف کرایا۔ یا اس لئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام سے واپسی میں ۹ ذی الحجہ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملے۔

عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً ۱۶ کلومیٹر کے فاصلے پر میدان پر ہے۔ عرفات کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہے: ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔“

ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو منتخب کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفات والے دن (۹ ذی الحجہ) کو آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں۔ یہ لوگ پرانہ حال آئے ہیں اور میری رضا کے متلاشی ہیں۔ اے عرفات والو! میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔

## کوبری الجمرات

وہ مبارک جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو نکر یاں ماریں اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور ﷺ نے بھی اسی جگہ شیطان کو نکر یاں ماریں۔  
میدان عرفان میں: جبل رحمت اور جاج اکرام

آپ ﷺ سواری پر سوار تھے جس کی لگام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی لاکھوں صحابہ اہرام باندھے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے آپ کے ارشادات کن رہے تھے عین اس جگہ آپ ﷺ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے۔



میدان عرفات میں جبل رحمت جو سطح زمین سے ۵۶ میٹر اونچا ہے۔ چھوٹی تصویر میں اس پہاڑ کے دامن میں مسجد الصخرات دکھائی گئی ہے یہاں آپ ﷺ تشریف فرماتے کہ آیت کریمہ ”الیوم اکملت لکم.....“ نازل ہوئی تھی اور آپ ﷺ نے عصر سے مغرب تک وقوف فرمایا تھا۔  
**گول دائرہ جبل رحمت کی نشاندہی کے لیے لگایا گیا ہے۔**

## جبل رحمت


جبل رحمت میدان عرفان میں مشہور تاریخی پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ پر جناب رسول اللہ ﷺ نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ امت کے والی نگہبان اپنے رخصت ہونے سے پہلے الوداعی خطبہ دے رہے ہیں اور آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بار بار اشارہ فرمایا بھی:

”خذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه“

کہ تم مجھ سے مناسک (حج) سیکھ لو مجھے معلوم نہیں شاید اس حج کے بعد کوئی اور حج نہ کر سکوں۔

آپ ﷺ نے ہی خطبہ ۹ھ، ذی الحجہ کو بعد از زوال آفتاب قبل از جمعہ صلوٰتین عرفات میں جبل رحمت پر ایک لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا۔ جبل عرفات پر چڑھنے کے لیے اب سیڑھیاں بنادی ہیں اور آپ ﷺ نے جس جگہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا وہاں یادگار کے طور پر مینار سا بنا دیا ہے۔

جان کرام کا "شیطان" پر نگرہ پھینکنے کا منظر




وہ مبارک جگہ جہاں حضور ﷺ نے شیطان کو نگرہیاں مار دی

## مکہ مکرمہ کے چند مقدس مقامات

یوں تو حرم مکہ کا ذرہ ذرہ ہی رشک طور پر ہے۔ کوئی پہاڑ ہو یا کوئی وادی، مکان ہو یا صحرا، ارض سنگلاخہ ہو یا گلستان سب ہی نور علی نور ہیں۔ تاہم ان مقامات میں چند ایسے اہم مقامات بھی ہیں جن کا ذکر نہ کیا جائے تو سر زمین مکہ مکرمہ کی تاریخی واقعات کو مکمل نہیں کیا جاسکتا۔



.....۹	مقام طائف	.....۱	ولادت نبوی ﷺ
.....۱۰	مسجد بلال	.....۲	خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان
.....۱۱	حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر	.....۳	قبہ وحی
.....۱۲	ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان (معراج)	.....۴	حدیبیہ
.....۱۳	جنت المعلى	.....۵	بیعت رضوان
.....۱۴	وادی محشر	.....۶	مقام شق صدر
.....۱۵	مقام حج الوداع	.....۷	دار ارقم
.....۱۶	دار الندوہ	.....۸	شعب ابی طالب



### ۱۔ باب کعبہ

جہاں آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شعب ابی طالب نامی گھائی میں محصور کرنے کا معاہدہ لگایا گیا تھا جسے اللہ کے حکم سے 3 سال بعد دیکھنے کا لیا۔

## مکہ مکرمہ کے چند مشہور تاریخی مقامات





## - ولادت گاہ مصطفیٰ ﷺ


مسجد الحرام سے چند قدموں کے فاصلے پر وہ مکان مبارک موجود ہے جہاں کائنات کی سب سے معزز ہستی سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ طبری وابن خلدون کے مطابق آپ ﷺ ۱۲ ربیع الاول شریف صبح صادق ۴ بج کر ۲۰ منٹ پر ابوطالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ جبل ابوقبیس کے دامن میں محلہ تشاشیہ میں ایک سوق اللیل نامی گلی ہے اس گلی میں یہ مکان واقع ہے، جہاں پر رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب وہ مکان تو نہیں ایک بہترین کتب خانہ اور مدرسہ بنایا گیا ہے، حرم سے باب الصفا سے نکلیں سیدھے ہاتھ پر پہاڑی کے نیچے مکانات کے ساتھ چلیں تقریباً دو فرلانگ کے فاصلے پر سیدھے ہاتھ کو یہ کتب خانہ ہے۔

ولادت گاہ نبی اکرم ﷺ ”مولد شعب بنی ہاشم“ کو شعب ابوطالب بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر آپ کے والد عبد اللہ بن عبد المطلب کا مکان تھا۔ آپ ﷺ کی ولادت اسی مکان میں ہوئی تھی، یہ مکان آج کل مسجد الحرام کے باب ملک عبدالعزیز کے بالکل مقابل ہے۔ درمیان میں ایک کشادہ سڑک ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسری سڑک ہے۔ اس سڑک پر مسفلہ جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف ایک بڑی نئی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک بورڈ آؤیزاں ہے جس پر ”مکتبۃ الحرام الشریف“ کندہ ہے اور اس کے سامنے ایک بڑی لائبریری کی عمارت ہے۔



محلہ سوق اللیل جس کی گلی میں  
حضرت عبد اللہ رہتے تھے

محلہ سوق اللیل جس کی گلی میں حضرت عبد اللہ رہتے تھے۔




رسول اکرم ﷺ کے آباؤ اجداد کا محلہ



مکہ المکرمہ میں حضور نبی کریم ﷺ کی جائے پیدائش کی مقامی افراد زیارت کر رہے ہیں جہاں اب سعودی وزارت حج و اوقاف کی زیر نگرانی ایک بڑی لائبریری قائم ہے۔

روایت ہے کہ چند سال پہلے تک اس لائبریری میں تمام لوگ مطالعہ کرتے تھے۔ مگر اب (خصوصاً ایام حج میں) یہ بند کر دی جاتی ہے۔ سفر نامہ محمد ابن جبیر اندلسی میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے اس جگہ ایک خوشنما مسجد بنی ہوئی تھی۔ نبی اکرم ﷺ کی پیدائش کا مقام حوض کی طرح تین بالشت چوڑا ہے۔ اس کے بیچ میں ایک سبز پتھر دو ٹکٹ بالشت کی قدر چاندی کے حلقے میں جڑا ہے۔ اور اس کی وسعت معہ چاندی کے حلقے کے ایک بالشت ہے۔ مگر آج کل یہ سب آثار معدوم ہیں۔



حضور ﷺ کی جائے ولادت

مکہ مکرمہ کی اہم جگہوں میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان بھی ہے۔ حرم شریف کے مروہ کی سمت سے بائیں جانب جائیں تو اس مکان کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آج کل چھتہ بازار کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے۔ حضور ﷺ کی اولاد اطہار میں سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سب ہی یہاں پیدا ہوئے، پرورش پائی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا وصال بھی اسی مکان میں ہوا۔ ان دنوں اس میں درس قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مکان میں جبرائیل غَلِيْبًا عَلَيْهِ السَّلَام کی حاضری ہوا کرتی۔ ہجرت کے موقع پر یہ مکان بھی عقیل ابن ابی طالب نے لے لیا۔ اس مکان میں 2 مشہور مقامات بتائے گئے ہیں۔

۱..... مولد الفاطمہ، ۲..... قبۃ الوحی، ۳.....


محب طبری فرماتے ہیں: مسجد حرام کے بعد تمام مکانات سے اعلیٰ خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان ہے۔ وہ مکان جس میں فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پیدا ہوئیں

ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان ”درب الحجر“ میں واقع تھا، جہاں اب زیورات کی بہ کثرت دکانیں پائی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کی ساری اولاد انہی کے لطن اطہر سے اسی گھر میں پیدا ہوئیں۔ صرف حضرت ابراہیم سیدہ ماریہ قبٹیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اسی میں سیدہ فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے بھی پرورش پائی تھی اور سیدہ خدیجہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا وصال بھی اسی مکان میں ہوا تھا۔ سڑک سے مکان نشیب میں ہے۔ چند میٹر ہیاں اتر کر ایک تنگ راستہ جاتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ جو ۱۰ ذراع (۱۵ فٹ) لمبا اور ۶ ذراع (۸ فٹ) چوڑا ہے۔ اس میں بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے دائیں جانب دو میٹر ہیاں چڑھ کر ایک دروازہ ہے۔ اس دروازہ سے آگے چھوٹا سا راستہ ہے جس میں تین دروازے ہیں۔ بائیں طرف والا کمرہ صرف ساڑھے چار فٹ لمبا ہے جہاں نبی کریم ﷺ عبادت فرمایا کرتے تھے۔



ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان

## حضور ﷺ کی تبلیغ کا مرکزی مقام: دار ارقم



حضور ﷺ کی تبلیغ کا مرکزی مقام: دار ارقم  
 دار ارقم: یہ مشہور مقام صفا کے قریب واقع ہے۔ شروع اسلام میں حضور سید عالم ﷺ اسی میں رہا کرتے تھے، مشورے ہوتے تبلیغی نظام کو پروان چڑھانے کے منصوبے بنتے، فاروق اعظم اسی میں حاضر ہو کر ایمان لائے، سید خدیجہ الکبریٰؓ کی حویلی کے بعد اسے شرف حاصل ہے کہ حضور ﷺ دیر تک اس میں رہے اور سب سے بڑی وجہ شرف حضور ﷺ کی نسبت ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کروائی، بعد ازاں امین الملک مصلح، وزیر الجواد، المستنصر عباسی، جمال الدین، شرف الاسنام، ابو جعفر، سلطان مراد خان، ابراہیم کلب نے اپنے دور میں اس کی مرمت و تزئین میں حصہ لیا۔ (شفا ۳۶ جلد ۱ تاریخ مکہ ۳۶۰ جلد ۱)۔ حرم شریف کی توسیع کے پروگرام میں یہ جگہ شامل کر لی گئی اب دار ارقم کا نشان نہیں ملتا۔

## دار ارقم

اسلام کے شروع دور میں آپ ﷺ اس جگہ صحابہ میں وعظ فرماتے تھے۔ سیدہ خدیجہؓ کے گھر کے بعد اس مکان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ﷺ نے اس میں زیادہ وقت گزارا۔ اس مقام کو تاریخی اعتبار سے جو اہمیت اور اولیت حاصل ہے اس کے لیے دعوت اسلامی کی پوری تاریخ شاہد ہے اور کسی دوسری جگہ یا مقام کو یہ فوقیت و اولیت حاصل نہیں ہے۔ پچھلے اوراق میں باب ارقم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو صفا کی پہاڑی کے قریب واقع تھا اور اس مقام پر ہجرت سے پہلے نبی اکرم ﷺ صحابہ کرامؓ کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے چھپ چھپا کر جمع ہوتے تھے اور اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ صحابہ کرامؓ کو صبر کی تلقین فرماتے تھے اور اگر قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورۃ نازل ہوتی تھی تو اسے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اسلام کی ابتدائی دور میں اسلام کی یہ سب سے پہلی دینی درس گاہ تھی۔ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اسی جگہ پیش آیا تھا۔ اور عمرؓ نے اسلام قبول کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا آپ کے مسلمان ہونے کے بعد کفار قریش میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ اب اس مقام پر بھی سڑکیں اور دکانیں تعمیر ہو چکی ہیں اور اس کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں۔

یہ گھر جس کا تاریخی پس منظر اتنا بلند اور با عظمت ہے کہ اسے ہر حال میں آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ رکھنا حکومت موقتہ کے فرائض میں سے تھا مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ یہ امر اہل اسلام کے انتہائی روحانی اذیت و تکلیف کا باعث ہے۔ یوں بھی یہ مقام اسلام کی سب سے پہلی دینی درس گاہ اور تبادلہ خیالات کا سب سے پہلا اسلامی مرکز تھا۔ جسے آثار قدیمہ کے طور پر زندہ جاوید رہنے کا حق حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ میں جتنے دوسرے آثار، گھر، مساجد اور جبل وغیرہ ہیں ان کی نسبت تاریخی اعتبار سے بہر حال اپنی جگہ مسلم ہے لیکن دار ارقم کی نسبت تاریخی اعتبار سے یقینی اور قطعی تھی اس کی آخری عمارت ۱۹۳۹ء تک قائم تھی۔

وہ غالباً نوں صدی ہجری کی بنی ہوئی تھی۔ اور اس کے دروازے پر دار ارقم کئندہ تھا۔ اب اس عمارت کے آثار مفقود ہیں۔ تاریخی اعتبار سے حکومت سعودی عرب کا تغافل ایک ایسا سانحہ ہے جو عرب کی سیاحت کرنے والے ہر مسلمان سیاح کو میری طرح کھٹکتا ہے۔ مشرکانہ افعال کو روکنا اسلامی حکومت کا حق اور فرض ہے۔ مگر اسلام کے قیمتی آثار قدیمہ کی حفاظت نہ کرنا بھی تغافل ہے۔

مزدور صفاء و مردہ کے سامنے بازار کی طرف بجلی کے آلات سے مکانوں کی چھتیں گر رہے ہیں۔ یہ حرم پاک کی توسیع کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، مکان کے نشانات ہر پتھر گرنے سے داستان ماضی ترتیب دے رہے ہیں، جب یہ مکان زمین بوس ہو جائے گا اس مکان کا دھندلا سا خاکہ بھی ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے دار ارقم پر شکست و ریخت کے کتنے ادوار گزرے، اس کی صورت نے کتنی تبدیلیاں دیکھیں۔ زمانہ نئے نقوش پیدا کرتا جاتا ہے اور پرانے نقوش پیوند زمین ہوتے جاتے ہیں مگر اس قطعہ زمین کی تقدیس اہل ایمان کے قلوب میں محفوظ ہے۔ یہاں رسالت مآب ﷺ اپنی مختصری جماعت کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے تھے۔ تاریخ اس کی عظمت کو ماننا نہیں سکتی۔ اس زمین پر دین کا پہلا مدرسہ قائم ہوا۔ اسی زمین پر خدائے واحد کا نام بلند ہوا۔ اب بھی یہ جگہ دار ارقم ہی سے موسوم ہے۔

### حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مکان

آپ کا نام ”عبدالکعبہ“ تھا۔ آنحضور ﷺ نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ لقب صدیق اور عتیق تھا۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ چھٹی پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ ﷺ سے جا ملتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ راشدہ ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے جب پہلے پہل اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے چون و چرا قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی تبلیغ میں آنحضرت ﷺ کے دست و بازو بن گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی کوششوں سے مشرف بہ اسلام ہوئے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مالی قربانی اور جان نثاری میں کوئی آپ پر سبقت نہ لے جا سکا۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر اللہ کی راہ میں گھر کا سارا سامان پیش کر دیا رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا: گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا: بس اللہ اور رسول کافی ہیں۔

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول ﷺ بس

کوئی غزوہ آپ سے چھوٹا نہیں، ۱۳ھ میں تریسٹھ سال کی عمر پا کر انتقال کیا اور ساری عمر جن کی رفاقت میں گزاری تھی وفات کے بعد بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہ کیا، انہیں کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔

مسجد نبوی کے پڑوس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مکان تھے۔ ایک مغربی جانب، دوسرا مشرقی جانب، مشرقی جانب مکان بقیع جانے والی گلی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے مکان کے سامنے واقع تھا۔ مغربی سمت سے ریطہ بنت ابوالعباس کا مکان ملا ہوا تھا اور مشرقی سمت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے مکان کی جو حد تھی اسی کے بالمقابل صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا کچھ حصہ اپنے مکان میں داخل کر لیا۔ اور یہ سارے مکانات ماضی قریب تک باقی رہے، حکومت سعودیہ کی پہلی توسیع کے دوران منہدم کیے گئے اور اب دوسری توسیع کے بعد یہ جگہ مسجد نبوی کے باہر مشرقی صحن میں شامل ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مشرقی مکان میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو اس مکان میں تشریف فرما تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دار صغریٰ کے سامنے ہے، رسول اللہ ﷺ نے یہ مکان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا (دوسرے مغربی مکان کا تذکرہ اپنے موقع پر آئے گا)۔

یہ مکان بھی مکہ مکرمہ کے متبرک مکانات سے ایک ہے اس کے دروازہ پتھر کنندہ ہے: ”هذا الدار الرفیق رسول اللہ ﷺ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار۔“

یہ مکان رسول اللہ ﷺ کے یار غار اور سفر کے ساتھی صدیق اکبر کا ہے۔

اس مکان کے سامنے کی دیوار پر پتھر تھا جسے لوگ احترام سے دیکھتے تھے، اسے ہاتھ لگا کر برکت حاصل کرتے تھے۔ مشہور ہے جب حضور ﷺ یہاں سے گزرے تو یہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتا۔ ہو سکتا ہے یہی پتھر ہو جس کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

”انی لا عرف حجراً بمکة کان یسلم علی“

میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔

**بیعت رضوان (موت پر بیعت):** اسی حدیبیہ کے مقام پر ۶ھ میں بیعت رضوان کا اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بیعت کا سبب یہ ہوا کہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کے ہمراہ بقصد عمرہ عازم سفر ہوئے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آپ ﷺ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ ﷺ نے ان سے مفاہمت کیلئے حضرت عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو بھیجا ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس اطلاع پر آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے بیعت لی کہ قریش سے لڑتے لڑتے جان کی بازی لگا دیں گے، یہ گویا موت پر بیعت تھی۔

اسی بیعت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے: **”ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله۔“**


تَرْجَمَةً: بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقع میں اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

”لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرة۔“

تَرْجَمَةً: بلاشبہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ان مسلمانوں سے خوش ہو جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔

چونکہ اس بیعت میں اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے ان مومن بندوں سے اپنی رضا خوشنودی کا اعلان فرمایا جنہوں نے موت پر بیعت کی اس لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔

باعث حیرت و تعجب ہے کہ جن ہستیوں سے اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى راضی و خوش ہیں بعض لوگ ان سے خوش نہیں ہیں بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔



### وہ مقام جہاں بیعت رضوان ہوئی


ذی قعدہ ۶ھ میں حضور ﷺ چودہ سو صحابہ کرامؓ کے ساتھ ”حدیبیہ پہنچے تو صحابہ کے کمپ میں افواہ پھیل گئی کہ حضور ﷺ کے سفیر حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے اس پر صحابہ کرام نے ایک درخت کے نیچے حضور ﷺ کے ہاتھ پر جاں نثاری کی بیعت کی اسی مقام پر یہ یادگار مسجد تعمیر کی گئی ہے، اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے ان صحابہ کرام اور ان کی بیعت پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

## بچپن میں نبی کریم ﷺ کا شق صدر

چار سال کی عمر میں آپ ﷺ اپنے رضاعی بھائی اور بہن کے ساتھ بستی کے قریب ہی اپنے جانوروں کے پاس کھینے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول آپ ﷺ وہیں جانوروں کے پاس تھے کہ بھائی نے دیکھا آپ پر بے ہوشی طاری ہے۔ وہ آپ ﷺ سے بات کرتا مگر آپ ﷺ جواب نہ دیتے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا والدہ کے پاس گیا اور چیخ کر بولا میرے قریشی بھائی کی خبر لو! حلیمہ اور بچے کا باپ دوڑتے ہوئے آئے دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے۔

اماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگا دو سفید پرندے میرے اوپر اڑ رہے تھے پھر ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا ہاں۔ دونوں پرندے (فرشتے) اتر آئے اور آپ کو پکڑ کر پشت کے بل لٹا دیا آپ کا پیٹ چاک کیا، پیٹ میں جو کچھ تھا وہ باہر نکالا پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا برف والا پانی لاؤ، وہ پانی لایا۔ آپ کا پیٹ دھویا گیا، پھر اس نے کہا گلاب کا پانی لاؤ، وہ لایا تو اس سے پھر آپ کا پیٹ دھویا گیا، اور بعد ازاں اسے ملا دیا گیا۔

یہ سن کر حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا میرا خیال ہے اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں کہیں کوئی اس سے بڑا حادثہ نہ ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ اس پر جنوں کا اثر ہے۔ بچے کے باپ نے کہا بخدا اسے کوئی جنون نہیں۔ اس سے بابرکت بچہ تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ البتہ فلاں قبیلے نے حسد سے اس پر کچھ کیا ہوگا کیونکہ اس بچے کی آمد سے ہم پر برکتوں کی بارش ہوئی جو انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہ ظہور پر نور پوری کائنات کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔



یہ وہ جگہ ہے جہاں شق صدر ﷺ کا واقعہ پیش آیا۔

## مقام طائف (جہاں آپ ﷺ کے پاؤں خون سے رنگین ہو گئے):

مکہ معظمہ سے تیس چالیس میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے جو بہت ہی سرسبز و شاداب ہے۔ یوں سمجھئے کہ عرب کا کشمیر ہے، اس شہر کو طائف کہتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا اور آپ ﷺ کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی ۱۰ھ نبوی میں آخر ماہ شوال (مئی جون ۶۱۹ء) میں زید بن حارثہ کو ساتھ لیکر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ اور ایک ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی۔ بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگدل بدنصیب اس سرور کائنات ﷺ کے درپے ہو گئے کہ شانِ رحمت اللعالمین مانع نہ ہو تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بد مستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جاسکتا تھا۔

ان بد بخت لوگوں نے آپ ﷺ پر پتھر برسائے شروع کیے جن سے سرور عالم ﷺ کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارثہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آنحضرت ﷺ کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم ایک ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے۔ مگر زبان حرف بد دعا اس وقت بھی نہ لائے۔

ہوئے خاک آلودہ پتھر سے ہائے مگر باز اس پر بھی کافر نہ آئے

پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ جہاں آپ ﷺ دور کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تھے تو وہ شریفر اور ہاتھ پکڑ کر اٹھادیتے تھے اور پتھر پر پتھر مارتے، گالیاں دیتے تھے، آخر کار آپ ﷺ نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی۔ چونکہ حضور ﷺ کو اپنی امت کی فلاح و بہبود دل سے مرغوب تھی، اس لیے ایسے دکھ درد میں بھی آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے ”اے اللہ! یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے تو ان کو ہدایت عطا فرما۔“

### طائف کا سفر کرنے والے شیخ آصف نے لکھا ہے کہ

یہاں دو باغوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد علی، دوسری مسجد الحسبشی، ان دونوں مسجدوں میں سے ایک بہر حال اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں زخمی ہونے کے بعد نبی کریم ﷺ نے آرام فرمایا تھا اور عتبہ و شیبہ کے نصرانی غلام سیدنا عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں انگور لاکر پیش کیے تھے۔ لیکن یہ مسجد کون سی ہے، اس کے متعلق قطعی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہیکل نے اپنی کتاب میں جس مسجد عداس کا ذکر کیا ہے وہ مسجد علی ہے۔“

طائف سے نکل کر نبی کریم ﷺ نے عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی، انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھ کر اپنے عیسائی غلام عداس سے کہا کہ انگور کا ایک گچھا اس شخص کو دے آؤ۔ واپسی پر ابھی آپ ﷺ قرن منازل پہنچے تھے کہ جبرائیل حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے کہا کہ حکم دیں تو اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالا جائے۔ مگر نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پشت پر ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔“

واپسی پر مکہ کے قریب پہنچ کر آپ ﷺ نے اخنس بن شریق، سہل بن عمرو اور معطم بن عدی کو پناہ دینے کے لیے پیغام بھیجا، مگر صرف معطم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور ہتھیار باندھ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ اعلان کیا: ”قریش کے لوگو! میں نے محمد ﷺ کو پناہ دی ہے، اب انہیں کوئی نہ چھیڑے۔“ نبی کریم ﷺ نے حرم شریف میں آ کر حجر اسود کو چوما، دو رکعت نفل ادا کیے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ نے معطم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا۔





طائف کی طرف انتہائی اذیت دہ سفر

طائف کے راستے میں مسجد ادراس  
اس جگہ آپ ﷺ نے 1400 سال پہلے طائف  
والوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر آرام فرمایا تھا۔




طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منسوب مسجد کا مینار



یہ اس باغ کا ایک منظر جہاں محبوب خدا ﷺ نے طائف سے واپسی پر ذرا دیر کو آرام فرمایا۔ دین متین کی اشاعت و تبلیغ کیلئے آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں ان کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس نعمت کو مضبوطی سے تمام لیں اور اسے ان انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس سے محروم رہ کر جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ سامنے انگور کی بیلیں اور بائیں ہاتھ بیٹھے پانی کا کنواں نظر آ رہا ہے۔

طائف کا وہ باغ جہاں حضور ﷺ طائف والوں کی بدسلوکی کے بعد تھوڑی دیر ستانے کے لیے رکے تھے۔ اس باغ کے خادم حضرت عدا اس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آپ کو انگور اور ٹھنڈا پانی پیش کیا تھا اور آپ کی باتیں سن کر آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اس باغ میں مسجد عدا اس آج بھی قائم ہے۔



مسجد الرسول ﷺ پہاڑ کے دامن میں یہ مسجد اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جہاں روایات کے مطابق حضور ﷺ طائف والوں کی ایذا رسانی کے بعد کچھ دیر ستانے کیلئے ٹھہرے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ﷺ کی یہ تکالیف یاد کر کے آپ کے امتیوں کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ وہ گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے اور آئندہ ساری زندگی دین کے غلبے کی محبت سے جڑے رہیں گے۔ دوسری تصویر میں مسجد کا اندرونی منظر نظر آ رہا ہے۔ اس مقام پر درحقیقت دو مساجد ہیں ایک پہاڑ کے دامن میں اور دوسری چوٹی پر دائرے میں دوسری مسجد کی نشاندہی کی گئی ہے۔

## وہ وادی جہاں سے حضور ﷺ کا گزر رہا (وادی محشر)

منیٰ اور مزدلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کیا تھا جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے، یہاں پر حاجیوں کیلئے مسنون یہ ہے کہ تیزی سے چلیں جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ وادی محشر سے گزرے تو آپ ﷺ نے رفتار تیز کر دی۔ ۲ ابن قیم اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے جہاں عذاب الہی نازل ہوا ہو تو تیزی کے ساتھ گزر جاتے، اسی وادی محشر میں بھی ہاتھیوں والے لشکر پر عذاب نازل ہوا تھا، ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے قبائل یہاں جمع ہوتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے، لہذا ان کی مخالفت کے طور پر شریعت اسلامیہ میں یہ مستحب قرار پایا کہ یہاں سے جلدی گزر جائے۔ ۳

حوالہ: ۱۔ ..... مرآة الحریمین الشریفین ۱، ۳۲۸، التاريخ القويم، ۵، ۲۹۴، ۲۔ ..... صحیح مسلم، کتاب الحج حدیث نمبر ۱۲۱۸۔

۳۔ ..... زاد المعاد ۱، ۲۷۲۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے جو وادی محشر سے گزرتے ہوئے کہا۔

الیک نعدو قلقاً و ضیئہا مخالفاً دین النصارى دینہا

وادی محشر کی حدود کی تعیین کیلئے منیٰ اور مزدلفہ کے درمیان بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں یہ جگہ حد و حرم میں شامل ہے البتہ مشعر نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔

### ہاتھیوں والا لشکر


شاہ جسہ کی طرف سے ابرہہ (عیسائی) یمن کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ حج کیلئے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یمن کے دار الحکومت صنعاء میں ایک گرجا بنایا تاکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو حج کیلئے کعبہ مشرفہ کی بجائے اس گرجے میں آنے پر مجبور کیا جائے، ابرہہ کو اس عمل کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی اور ملے گی کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقابل لانے کی کوشش کی لیکن بنو کنانہ کے ایک عرب نے کہا کہ ابرہہ کے اس گرجے کی حیثیت بیت الخلاء سے زائد کچھ نہیں لہذا اس نے پانچ خانہ سے اس کو آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا، اور اس نے غیظ میں آ کر ایک اور غلط فیصلہ کر لیا کہ ایک بڑا لشکر لیکر کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے نکلا، اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، یہ لشکر جب وادی محشر پہنچا تو ابرہہ کا بڑا ہاتھی بیٹھ گیا، اس کو کعبہ اللہ کی طرف ہانکا جاتا تو پیچھے ہٹتا اور اگر کسی دوسری سمت موڑا جاتا تو تیزی سے دوڑتا، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ بھیجا جن کی چونچ میں کنکریاں تھیں یہ پرندے ان کنکریوں کو اس لشکر کے اوپر گراتے جس پر بھی کنکری آ کر گرتی اس کے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ وہیں گر کر مر جاتا، بچے کھچے لوگ مدہوشی کے عالم میں گرتے پڑتے واپس بھاگے اور ان کے لیڈر ابرہہ کا یہ عبرتناک انجام ہوا کہ اس کا گوشت گل سڑ کر گرنے لگا، صنعاء پہنچا تو اس کی انگلیاں گر چکی تھیں اور اس کا جسم ہڈیوں کا بچہ تھا، وہاں اس کا سینہ پھٹا اور ہلاک ہو گیا۔

یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے کچھ پہلے ۵۷۱ء میں رونما ہوا، اسی کا ذکر سورہ ”فیل“ میں ہے:

(الم تر کیف فعل ربک باصحب الفیل ۵ الم يجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیراً ابابیل ۵ تر میہم بحجارة من سجيل ۵ فجعلہم کعصف ما کول ۵)

ترجمہ: اے پیغمبر ﷺ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیا اس نے اصحاب فیل کی تمام چالیں بے کار اور ضائع نہیں کر دیں اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان ہاتھی والوں پر کنکریاں پھینکتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔

# بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کے لشکر کا خوفناک انجام




پراسرار پرندوں اور طاقتور ہاتھی فوج کے درمیان خوفناک جنگ کا بھیانک منظر

بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کے لشکر کا خوفناک انجام




پراسرار پرندوں اور طاقتور ہاتھی فوج کے درمیان خوفناک جنگ کا بھیانک منظر



یمن کے شہر صنعاء میں سفید چبوترہ کا مقام ہے جہاں ابرہہ اشرم نے خانہ کعبہ کے جواب میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا تھا تا کہ اس جیسی عظمت اسے حاصل ہو جب یہ مقصد پورا نہ ہوا تو ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے مکہ آیا تھا۔ تصویر بشکریہ شاہ مصباح الدین ٹکیل۔



شعب ابی طالب نامی وہ کھائی جہاں کفار مکہ نے نبی کریم ﷺ کو تبلیغ کی محنت کرنے پر 3 سال قید رکھا تھا۔




مکہ مدینہ کے متفرق مضافات

### سقیفہ بنی ساعدی (جہاں حضور ﷺ کے قدم مبارک لگے)

مدینہ الرسول ﷺ کے اہم مقامات میں سے یہ بھی ایک مقام ہے۔ اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ اس سے وابستہ ہے۔ حضور ﷺ اس میں تشریف لائے ہیں یہ جگہ بنو ساعدہ کی ملکیت تھی۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ یہ جگہ اندرون مدینہ منورہ بنی حسین کے محلات کے جنوب میں واقع ہے۔ بعض لے سے بیربضاعتہ کے قریب بتاتے ہیں۔ مشہور مؤرخ مطری نے اسے ہی ترجیح دی ہے۔ (آثار المدینہ صفحہ ۸۰) شامی دروازہ کے باہر مشہور شاہراہ الحکی پر واقع ہے۔ (آثار المدینہ صفحہ ۸۰) پاکستانی شفاخانہ اور سفارتخانہ یہیں واقع ہیں۔ اس جگہ پر اب باغیچہ ہے۔ حضور ﷺ کے وصال کے بعد یہ خبر ملی کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور حضور سید عالم ﷺ کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ مہاجرین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں چنانچہ آپ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ سقیفہ میں تشریف لے گئے۔

مہاجرین و انصار کے اس نمائندہ اجتماع نے بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ و جانشین تسلیم کر لیا کہ مہاجرین و انصار کے اس اجتماع کو اچھی طرح علم تھا کہ حضور علیہ السلام نے مرض الوفا میں صدیق اکبر کو امام مقرر فرمایا تھا۔

یہ واقعہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس حدیث کو عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن زمعه، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں اسے واضح کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی امامت پر فرمایا کہ وہ رقیق القلب ہیں، حضور سید عالم ﷺ کے مصلیٰ پر محبت کے باعث نماز نہ پڑھا سکیں گے مگر حضور سید عالم ﷺ نے بار بار فرمایا ”ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو حکم دو“ وہ نماز پڑھائیں۔



سقیفہ بنو ساعدہ کا محل وقوع



## میدان عرفات میں مسجد نمبرہ اور حجاج کرام

نبی کریم ﷺ نے ۹ھ بمطابق 7 مارچ 632ء کو حجۃ الوداع کے موقع پر مسجد نمبرہ کی جگہ پر خیمے میں آرام فرمایا تھا۔



آپ ﷺ نے حج کے موقع پر ظہر اور عصر کی نمازیں اس مسجد میں پڑھی تھیں آپ ﷺ کے زمانہ میں یہاں میدان تھا بعد میں مسجد بنا دی گئی۔

### مسجد نمبرہ: وہ مبارک جگہ جہاں آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور خطبہ دیا

یہ مسجد میدان عرفات میں واقع ہے، مسجد کی مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام نمبرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کو بھی مسجد نمبرہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن حضور اکرم ﷺ نے یہیں پر ایک خیمہ میں قیام فرمایا تھا، زوال کے بعد آپ ﷺ نے قریب ہی وادی عرنہ میں خطبہ دیا اور نماز کی امامت فرمائی۔ پھر جبل رحمت کے قریب چٹانوں کے پاس تشریف لائے، یہاں سورج غروب ہونے تک قبلہ رو ہو کر دعائیں کیں، غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے مزدلفہ کیلئے روانہ ہوئے۔

جس جگہ کھڑے ہو کر آپ ﷺ نے خطبہ دیا اور نماز ادا فرمائی وہاں دوسری صدی ہجری میں یہ مسجد بنا دی گئی۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ نے وادی عرنہ میں حج کا خطبہ دیا تھا، یہ وادی عرفات سے باہر ہے۔ نتیجتاً اس جگہ جو مسجد نمبرہ بنی وہ بھی عرفات سے باہر تھی، بعد میں اس مسجد کی توسیع ہوتی رہی، یہی وجہ ہے کہ مسجد نمبرہ دو حصوں میں منقسم ہے، اگلا حصہ عرفات سے باہر ہے اور یہ مسجد کا قدیمی حصہ ہے اور پچھا حصہ عرفات کے اندر ہے اور یہ بعد کی توسیعات ہیں۔


## مسجد خیف (۷۵ انبیاء کے نماز پڑھنے کی جگہ)

یہ مسجد مقدس میدان منیٰ کی عظیم مسجد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اگر میرا قیام مکہ معظمہ میں ہو تو میں ہفتہ کے دن مسجد خیف کی زیارت کو جاتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مسجد خیف شریف میں ۷۵ انبیاء علیہم السلام کا قیام ہوا ہے اور انہوں نے نماز پڑھی۔


اس مسجد کے جنوبی سمت میں ”جبل صفاح“ کے دامن میں ایک چھوٹا سا غار ہے۔ آپ ﷺ نے اس پہاڑ کے سائے میں آرام فرمایا تھا۔ آپ ﷺ اس غار میں تشریف لے گئے تو پارہ ۲۹ کی سورہ مرسلات نازل ہوئی تھی اس لیے اس غار کو ”غار مرسلات“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مسجد خیف اور غار مرسلات بابرکت سمجھے جاتے ہیں۔ اور بکثرت حجاج اس مقام کی زیارت کو جاتے ہیں۔

”خیف“ کہتے ہیں پہاڑ کے دامن یا حصہ کو، یہ مسجد پہاڑ کے دامن میں ہے، اس لیے اس کو مسجد خیف کہتے ہیں یہ منیٰ کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں ستر انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس میں ستر انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، بعض روایتوں کے مطابق ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہیں۔


اس کے صحن میں پہلے ایک گنبد تھا، جہاں حضور ﷺ نے اپنا خیمہ لگایا تھا اور نماز بھی پڑھی تھی۔ اب سعودی حکومت نے پرانی مسجد توڑ کر نئی اور بڑی شاندار ایئر کنڈیشنڈ مسجد بنا دی ہے، اس لیے اب گنبد بھی ختم ہو گیا ہے۔



منیٰ کی مسجد خیف اور صحن میں وہ مقام جہاں رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں پانچ نمازیں ادا فرمائیں؟؟



مسجد خیف کا دروازہ



### منیٰ میں مسجد خیف

- ۱۔ یہ وہ مبارک جگہ جہاں آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور خیمہ میں آرام کیا۔
- ۲۔ اس جگہ ۱۷۵ انبیاء مدفون ہیں۔
- ۳۔ جدید توسیع کے بعد اس میں ۲۵۰۰۰ افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔
- ۴۔ اس کی توسیع کا خرچہ ۹۰ کروڑ ریال ہے۔

منیٰ میں واقع مسجد خیف جہاں لاکھوں حجاج کرام پانچ نمازیں ۸ ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ۹ ذی الحجہ کی فجر ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور جبین نیاز نیک کرگناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سیدنا ابراہیم ؑ اپنے جلیل القدر فرزند سیدنا اسماعیل ؑ کو لیکر حاضر ہوئے اور حکم الہی کے مطابق انہیں قربان کے لیے پیش کیا۔ اس موقع پر شیطان لعین نے جواز ل سے انسان کا دشمن ہے، سیدنا ابراہیم ؑ کو حکم الہی سے سرتابی کے لیے درغلا یا اور لیکن وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سیدنا اسماعیل ؑ کے بدلے میں ایک مینڈھا بھی دیا اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دے کر قیامت تک کے لیے اس سنت ابراہیم کو جاری فرما دیا۔




منیٰ میں واقع مسجد خیف جہاں لاکھوں حجاج کرام پانچ نمازیں ۸ ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ۹ ذی الحجہ کی فجر ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور جبین نیاز نیک کرگناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سیدنا ابراہیم ؑ اپنے جلیل القدر فرزند سیدنا اسماعیل ؑ کو لیکر حاضر ہوئے اور حکم الہی کے مطابق انہیں قربان کے لیے پیش کیا۔ اس موقع پر شیطان لعین نے جواز ل سے انسان کا دشمن ہے، سیدنا ابراہیم ؑ کو حکم الہی سے سرتابی کے لیے درغلا یا اور لیکن وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سیدنا اسماعیل ؑ کے بدلے میں ایک مینڈھا بھی دیا اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دے کر قیامت تک کے لیے اس سنت ابراہیم کو جاری فرما دیا۔



### حضور ﷺ نے یہاں عید کی نماز پڑھی

منیٰ میں ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کو ”مسجد نحر“ بھی کہتے ہیں (”نحر اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے برچھے سے اس کے دل میں سواراخ کرنے کو کہتے ہیں) نبی کریم ﷺ نے اس جگہ عید کی نماز پڑھی اور قربانی کے جانور ذبح کیے یہ پہلے شیطان اور درمیان شیطان کے درمیان عرفات کیلئے جانے والی سڑک کے دائیں طرف واقع ہے۔

سعودی توسیع کے بعد اس میں 8 ہزار افراد نماز پڑھ سکے ہیں  
اس کی توسیع میں 5.000.000 ریال لگے ہیں۔



### وہ جگہ جہاں آپ ﷺ نے ساری رات عبادت میں گزاری

اس مسجد کو مسجد ”مشعر الحرام“ بھی کہتے ہیں یہ مزدلفہ میں ہے۔ نبی کریم ﷺ آخری حج کے موقع پر اس جگہ جہاں اب یہاں مسجد مشعر الحرام ہے حضور حج کے موقع پر مزدلفہ میں پوری رات ذکر و فکر اور عبادت میں مصروف رہے کیونکہ مزدلفہ کی رات بڑی عظمت اور فضیلت والی رات ہوتی ہے اور پھر وہ مقام جو نبی کریم ﷺ سے مناسبت بھی رکھتا ہو، عبادت کا مزہ دوچند ہو جاتا ہے۔

## باب نمبر

### حضور ﷺ کی مکہ سے مدینہ ہجرت

حضور ﷺ کی محنت سے مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے چنانچہ مدینہ میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیس چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب یثرب کو ہجرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود رسول اللہ ﷺ نے بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی، انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد ﷺ کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے اس مشورے کی خبر دی۔

والہ:

دلائل النبوة للبيهقي: ۲/۲۶۸، السيرة النبوية لابن هشام: ۲/۳۸۰، ۳۸۲، المصنف لعبد الرزاق: ۵/۳۹۰، حدیث: ۹۷۳، تاریخ الطبری: ۲/۹۸، ۹۹، البداية والنهاية: ۳/۱۷۳، ۱۷۴.

جب کفار مکہ نے دارالنددہ کے اجلاس میں حضور ﷺ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تاکید کی کہ ”میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے یثرب چلے آنا۔“ پھر اسی رات آپ ﷺ دروازے پر کفار کے مقرر کردہ قاتلوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے اور انہیں ساتھ لے کر شہر سے جنوب کو ہوئے۔



یہ وہ جگہ ہے جہاں سرداران قریش نے جمع ہو کر حضور ﷺ کے خلاف قتل کی سازش کی تھی۔

## حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور کی طرف سفر

رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی ثور نامی ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ ﷺ کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا کر بولے، اے اللہ کے رسول ﷺ! دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ فرما:

(ما ظنک یا ابا بکر باثنین، اللہ ثالثہما؟)


”اے ابو بکر! ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟“

رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن تک اس غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکے والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے آتا۔ آپ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔

حوالہ:

۲: ..... صحیح البخاری، فضائل اصحاب النبی ﷺ، حدیث: ۳۶۵۳، صحیح مسلم، حدیث: ۲۳۸۱.

مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نبوی ﷺ کا راستہ




## سراقہ کی حضور ﷺ سے ملاقات

چوتھے دن رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے۔ ایک رات دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر اس سے دودھ لے کر آپ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے پی لیا اور پھر آگے بڑھے۔ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد ﷺ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو سواونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جہشم نے جو مکے کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، یہ سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا، جب رسول اللہ ﷺ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ ﷺ کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائے لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی۔ جواب ”نہیں“ ہی آیا مگر وہ نہ مانا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا۔ اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! امن بخشا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔<sup>۱</sup>

۱۔ صحیح البخاری، المناقب، باب کلامات النبوة فی الاسلام، حدیث: ۳۶۱۵، وصحیح مسلم، الزهد، باب فی حدیث الهجرة.....

۲۔ صحیح البخاری، ..... حدیث: ۳۹۰۶.




ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں 3 دن قیام فرمایا تھا۔

## غار ثور سے قبا میں حضور ﷺ کی آمد

یکم ربیع الاول کو غار ثور سے روانہ ہو کر یہ مقدس قافلہ مسلسل آٹھ دن مصروف سفر رہا۔ پھر پیر ۸ ربیع الاول (20 ستمبر 622ء) کو بالآخر صحیح و سالم قبا پہنچ گیا۔

مدینہ سے 3 میل باہر ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو قباء کہتے ہیں۔ (معجم البلدان للحموی: ۴/۳۰۱) حضور ﷺ کی آمد کی اہل قبا کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ آنحضرت ﷺ مکہ سے رخصت ہو چکے ہیں اور کسی روز مدینہ جاتے ہوئے قبا سے گزریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ہر روز شدت انتظار سے گھروں سے نکل آتے اور آپ ﷺ کی راہ تگنے لگتے۔ جب دھوپ تیز اور سائے ختم ہو جاتے تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ آخر مسرتوں کی وہ مبارک گھڑی آ پہنچی اور آنحضرت ﷺ سر زمین قبا میں داخل ہوئے۔ پہلا شخص جس نے آپ کو قبا میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا ایک یہودی تھا، وہ چلا اٹھا اے بنی قیلہ! وہ ذی شان ہستی آگئی ہے، جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔




مدینہ میں مسجد قباء کے برابر میں موجود سعید بن جیشمہ (قدیم تصویر) کا مکان جہاں حضور ﷺ نے قیام فرمایا اب یہ مکان مسجد قباء کی تعمیر میں شامل ہو گیا ہے۔





اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قبا، وہ مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے با وضو ہو کر مسجد قبا میں پڑھے گا اسے عمرہ کا ثواب ملے گا اس مسجد میں جدید تعمیر کے بعد ۲۰ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہو گئی ہے۔



مسجد قبا سے مدینہ منورہ تک نبی ﷺ کے سفر کا نقشہ

## قبا میں مسجد قباء کی تعمیر

قبا میں تشریف لاتے ہی پہلا کام جو آپ ﷺ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھا۔ یہ تاریخی مسجد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس زمین پر تعمیر ہوئی جہاں کھجوریں سکھانے کا کام ہوتا تھا۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اسی مسجد کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اشارہ ہے: ”وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے وہی دن پر ہیزگاری پر رکھی گئی۔“

اس تاریخی مسجد کی تعمیر میں آنحضرت ﷺ نے بھی باقی لوگوں کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا۔ مزدوروں کی جماعت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے، وہ اچھے خاصے شاعر تھے، تمھکن کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ کام کے ساتھ ساتھ سے یہ شعر خوش الحانی سے پڑھتے جاتے تھے۔

الفح من بعالج المساجد وہ شخص کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے۔

وبقر القرآن قائما وقاعدا اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے۔

ولا یسیت اللیل عنہ راقدا اور رات کو جاگتا رہتا ہے


قبا میں چند روز قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور ناقہ پر سوار ہوئے۔ راستہ میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا وہاں پہنچ کر جمعہ کو وقت آ گیا وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، یہ اسلام میں آپ ﷺ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔



اسلام کی پہلی مسجد  
مسجد قبا  
کا خوبصورت منظر




حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ مسجد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی تو ہم اس کی زیارت کیلئے مشقت اٹھاتے۔ خادم حرمین شریفین کی توسیع کے بعد اب اس مسجد میں 20 ہزار نمازیوں کی گنجائش ہو گئی ہے اور اس کا رقبہ 13500 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ مسجد کے دائیں طرف کلثوم بن الہدم اور سعد بن خیشمہ کا مکان تھا اب ان مکانات کو گرا کر مسجد کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔




تعمیر مسجد قباء کے موقع پر حضور ﷺ نے اس جگہ قیام فرمایا تھا


تصویر: حضرت سعد بن خیشمہ اور حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر جہاں قباء میں آمد پر پہلی بار رسول اللہ ﷺ ٹھہرے اور آپ کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ٹھہرے۔



☆ کلثوم بن ہدم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا گھر جو تعمیر جدید اور مدرسہ قباء بننے سے پہلے کی ہے۔  
☆ اوپر والی تصویر میں اسی گھر کی چھت مسجد قباء کے جوار میں نظر آ رہی ہے۔




قبائیں آپ ﷺ کی قیام گاہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے راستے میں ”مقام قبا“ یہ کلثوم ابن ہدم کا گھر تھا آپ ﷺ نے وہاں قیام فرمایا تھا اب اس جگہ یہ مسجد بن گئی ہے۔



موقع دار سعد بن خيشمة  
بجانب مسجد قباء قبل التوسعة السعودية الثانية

موقع دار كلثوم  
ابن الهدم

موقع داری سعد بن خیشمہ و کلثوم بن الہدم  
مسجد قباء اور دوسری توسیع سے قبل حضرت سعد بن  
خیشمہ و کلثوم کے مکانات کا محل وقوع



سعد بن خیشمہ اور کلثوم بن ہدم کے  
مکان تعمیر جدید کے بعد بچوں کے  
اسکول کے لیے کچھ دن استعمال  
ہوئے۔




مسجد قبا کا فضائی منظر




مسجد قباء اور مبارک گھر کے درمیان تنگ  
گلی جو دونوں کو الگ کرتی ہے۔



مسجد قباء کا قدیم گنبد





حضور ﷺ کو مسجد قبا سے باڑی محبت تھی، اور ہر ہفتہ مدینہ منورہ سے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، جس جگہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ حضرت کلثوم بن ہدم کی کھجوریں خشک کرنے کا احاطہ تھا، انہوں نے یہ احاطہ تعمیر مسجد کے لئے خد مسجد نبوی ﷺ میں پیش کیا تھا، مسجد کے صحن میں پہلے ایک قبہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں آ کر آپ ﷺ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اس کی پیٹھ سے اتر کر آپ ﷺ نے کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا تھا، نئی تعمیر کے بعد اب اس قبہ کا نام و نشان بھی ہیں رہاں۔

## وہ مسجد جس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا۔

چودہ دن کے بعد آپ ﷺ نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، حوالہ تاریخ طبری ۱۱۴/۲۔ آپ ﷺ اپنی اونٹنی قصواء پر دن کے اول وقت میں سوار ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھایا، تقریباً پانچ سو مسخ انصار کی دو صفیں دائیں بائیں ہو گئیں۔ راستے میں آپ ﷺ کی زیارت کرنے والے مردوں کا ہجوم تھا۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں پر سے آپ ﷺ کی زیارت کر رہی تھیں ایک میلے کا سماں تھا، بچے اور لڑکے جوش مسرت سے نعرے لگاتے پھر رہے تھے:

”اللہ اکبر، جاء محمد“ اللہ بڑا ہے، محمد ﷺ آ گئے۔


”اللہ اکبر، جاء محمد“ اللہ بڑا ہے، محمد ﷺ آ گئے۔

ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی:

”جاء نبی اللہ“ اللہ کے نبی آ گئے۔ قبیلہ بنو سالم کے محلے تک پہنچے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ﷺ نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ حضور ﷺ کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز جمعہ تھا۔

مسجد جمعہ کا ذکر مختلف احادیث میں آیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ قبا سے اندرون مدینہ تشریف لاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے اس مسجد میں لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائی تھی۔ ابتدا یہ مسجد انصاریوں کے قبیلہ بنو سالم کے مکانات میں گھری ہوئی تھی یہاں بنو سالم کا قبیلہ آباد تھا لیکن اب یہ خالی اور ہموار زمین کے قسط میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

## مقام مسجد جمعہ



ہجرت مدینہ کے سفر میں قبا میں 14 دن قیام کے بعد جمعہ کے روز آپ ﷺ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں نماز کا وقت ہوا تو آپ ﷺ نے یہاں سب سے پہلے نماز جمعہ ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔



## حضور ﷺ کا مدینہ میں داخلہ

جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ مدینہ کی طرف کو آگے بڑھے۔ آپ ﷺ کے نہالی رشتے دار بنو نجار ہتھیار لگا کر آپ کو لینے آئے۔ قباء سے شہر مدینے تک ہر قبیلے کے معزز لوگ دورویہ کھڑے تھے۔ آپ جس قبیلے کے آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ ﷺ شکر یہ ادا کرتے اور دعائے خری دیتے۔ شہر قریب آیا تو مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی بچیاں چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں:

طلع البدر علینا      من ثنایات الوداع  
وجب الشکر علینا      مادعا اللہ وداع

”چودھویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک دعائے مانگنے والے دعائے مانگیں۔“  
بنو نجار کی چھوٹی لڑکیاں بھی جن کو رسول اللہ ﷺ کے نہالی رشتے دار ہونے کا شرف حاصل تھا، خوشی میں دف بجا بجا کر یہ شعر گاتی تھیں:


نحن جوار من بنی النجار      یا حبذا محمد من جار

”ہم نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ کیا خوب! محمد ﷺ ہمارے پڑوسی ہوں گے۔“  
جہاں اب مسجد نبوی ہے یہاں ابو ایوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے تھے۔ آپ ﷺ اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ ﷺ کے مہمان بنانے کی عزت حاصل ہو اور اس لیے وہ اونٹنی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:  
”اس کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں یہ جا کر ٹھہرے گی۔“

وہ جب حضرت ایوب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گھر کے پاس پہنچی تو بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خوشی کا کیا کہنا، نہال ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا اور ہر طرح کے آرام و آسائش کا سامان بہم پہنچایا۔ نبی کریم ﷺ سات مہینے تک انہی کے گھر رہے۔  
حوالہ: ا۔: البداء والتاریخ لمطهر بن طاهر المقدسی: ۱/۸۷، والبداية والنهاية: ۳/۲۰۰.







محلہ بنی نجاریہ وہ جگہ ہے جہاں کے قبیلے کی بچیوں نے مدینہ میں حضور ﷺ کی آمد پر استقبال کیا تھا۔


مسجد قبا: منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ زیارت کے لیے شہر سے آتے ہوئے راستے میں ”ثنیۃ الوداع“ کی وہ تاریخی پہاڑیاں آتی ہیں جہاں اہل یثرب نے حضور اکرم ﷺ کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے یہاں تک آتے تھے، اسی باعث اسے ”ثنیۃ الوداع“ کہا جاتا ہے۔

یہیں یثرب کی بچیوں نے نبی اکرم ﷺ کی آمد پر وہ تاریخی اور بڑے پیارے اشعار پڑھے تھے جو ”طلع البدر علینا“ کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے ہمارے لیے چودھویں رات کا چاند (بدر منیر) طلوع ہوا ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا شکر ادا کریں کہ ختم المرسلین ﷺ، بخیر و عافیت ہمارے ہاں تشریف لے آئے ہیں۔




شمالی ثنیۃ الوداع اور مسجد کا منظر

مکہ سے مدینہ پہنچنے پر حضور ﷺ کی اونٹنی ابوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی تو سیدنا ابویوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کجاوہ اٹھالیا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ انصار میں زبردست کشمکش تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کریں مگر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آدمی وہاں ہی قیام پزیر ہوتا ہے جہاں اس کا کجاوہ ہوتا ہے۔ یہ صدیوں پہلے شاہ تہج کا تعمیر کردہ محل تھا جو آج ابویوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے زیر تصرف تھا اس طرح شاہ تہج کا وہ مبارک خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا جس کی اس کے دل میں بے پناہ تڑپ تھی



مکہ سے مدینہ منورہ (ابویوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مکان) پہنچنے پر حضور ﷺ نے اس جگہ قیام فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے یہاں حضرت انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مکان تھا آج آپ کی اونٹنی اللہ کے حکم پر حضرت ابوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گھر کے پاس رکی تو حکم الہی پر آپ ﷺ نے یہاں قیام فرمایا تھا۔



حضرت ابویوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مکان  
مدینہ منورہ میں میزبان حضور ﷺ


## دور نبوی ﷺ میں مسجد نبوی کی تعمیر

حضور سید عالم ﷺ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد پہلا کام جو فرمایا وہ اس مقدس مسجد، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے، زمین کا یہ قطعہ جہاں اب یہ مسجد شریف موجود ہے۔ یہ دو یتیم بچوں اہل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور سہیل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی ملکیت تھا۔ یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، زمین ناہموار تھیں، یہ دونوں بچے سیدنا سعد بن زرارہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی زیر کفالت تھے۔ اس قطعہ میں کھجوریں خشک کی جایا کرتی تھیں۔

**تعمیر اول:** حضور ﷺ نے بچوں سے فرمایا یہ قطعہ اراضی ہمیں فروخت کر دو، تاکہ یہاں مسجد تعمیر کی جاسکے۔ بچوں نے بصد ادب و نیاز عرض کی آقا یہ اراضی ہماری طرف سے بطور نذرانہ قبول فرمائیے تو حضور ﷺ نے ان کی اس پیش کش کو شرف قبولیت سے نہ نوازا۔ بالآخر قیمت ادا کر کے یہ قطعہ خرید لیا گیا۔ دس ہزار دینار سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ادا کیے اور ربیع الاول ۱ھ مطابق اکتوبر ۶۲۲ھ میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

**کھجور کے درختوں کے ستون:** بعد ازاں اس زمین پر کھجور کے درخت تھے آپ نے ان کے کٹوانے اور قبوں شرکین کے ہموار کر دینے کا حکم دیا اور اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے اور انصار و مہاجرین بھی آپ کے شریک تھے۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی اور قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ (جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔)

(600 سال پہلے کی مسجد نبوی ﷺ)




## آپ ﷺ کے دست مبارک سے تعمیر

روئے زمین کی اس مقدس ترین مسجد کی تعمیر میں رسول ﷺ بنفس نفیس شریک ہوئے اور اپنے دست مبارک سے اینٹیں اٹھا کر دیوار چننے لگے۔ ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے کہ جب اینٹیں اور چنائی کا سامان (یعنی گارا) نبی کریم ﷺ کے قریب لایا گیا تو آپ ﷺ نے اپنی ردا مبارک (چادر) اتاری اور اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھنی شروع کیں۔ تمام حضرات اپنی اپنی چادریں اتار کر تیار ہو گئے۔ کوئی اینٹ لا رہا ہے کوئی گارا تیار کر رہا ہے، کوئی اٹھا کر دے رہا ہے، اور کوئی چنائی کر رہا ہے۔


ایک شخص نے اسی حالت میں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ ایک اینٹ (یا کچھ اینٹیں) اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ تو وہ فوراً آگے بڑھ کر عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ مجھ کو دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں تو اور اینٹ اٹھالا، کیا تو اللہ کی رحمت اور اجر کا مجھ سے زیادہ محتاج ہے؟ مراد یہ تھی کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اس فضیلت کو میں بھی حاصل کروں نیز یہ کہ بظاہر وہ چوتھی اینٹ تھی۔ اور آپ ﷺ کے دست مبارک سے رکھی ہوئی یہ اینٹیں گویا خلافت راشدہ کے دور تھے۔ اور خلافت راشدہ کا دور طریق نبوت پر تھا۔ تو آپ نے بھی چاہا کہ خلافت راشدہ کی چوتھی اینٹ بھی آپ کے دست مبارک سے رکھی جائے تاکہ یہ دور بھی منہاج نبوت ہونے کا مستحق ہو۔

مسجد نبوی کی پہلی توسیع: جب نبی کریم ﷺ خیبر سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں پہلی دفعہ توسیع کی گئی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ آپ ﷺ نے چوڑائی میں چالیس ہاتھ اور لمبائی میں تیس ہاتھ اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کا مکمل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا، البتہ قبلہ کی طرف کی دیوار پہلی حد تک ہی رہی۔ کھجور کے تنوں سے بنائے ہوئے دور نبوی کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو خلیفہ اول ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان کو بدل دیا۔




# مدینہ منورہ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ

## باب نمبر 2




مدینہ منورہ و رمضان




پہاڑ	آبادی	۱	دردۃ دواع
بلند خطے	تبریں	۲	عکدہ بنی ساعدہ
حرفہ	شترک	۳	سلج
ساح خطے	راستہ	۴	مناخہ
تخلستان	خندق	۵	مسجد غمامہ
وادی	بازار	۶	بازار حردہ
باغات	بستیاں	۷	

## مسجد نبوی ﷺ کی توسیعی کی تاریخ



مسجد نبوی ﷺ کی توسیع الملک عبدالعزیز کے عہد میں	۱۲۵-۱۲۴ھ
مسجد نبوی ﷺ کی توسیع سلطان اسراف قانباتی کے عہد میں	۸۸۸ھ
مسجد نبوی ﷺ کی توسیع سلطان عبدالعزیز عثمانی کے عہد میں	۱۲۵۶-۱۲۷۲ھ
مسجد نبوی ﷺ کی توسیع الملک سعود کے عہد میں	۱۳۷۲ھ
مسجد نبوی ﷺ کی توسیع الملک فیہ بن عبدالعزیز کے عہد میں	۱۴۰۵-۱۴۲۱ھ

مسجد نبوی کی تعمیر اول جس کی بنیاد خود حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی جب آپ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔	۱۲۵ھ
مسجد نبوی کی توسیع تعمیر فتح خیبر کے بعد ۷ھ میں حضور ﷺ نے مسجد نبوی کی از سر نو تعمیر فرمائی۔	۱۲۵ھ
مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر رضی اللہ عنہما بن خطاب کے عہد میں	۲۹ھ
مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بن عفان کے عہد میں	۸۸ھ
مسجد نبوی کی توسیع الولید بن عبدالملک کے عہد میں	۸۸ھ




وہ جگہ جہاں 1400 سال پہلے حضور ﷺ اور اہل بیت المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مکانات تھے یہاں کے اس خطے میں قدم قدم پر آپ ﷺ کی خوشبودار نوادرات موجود ہیں۔

## حکومت سعودیہ کی پہلی توسیع مسجد نبوی ﷺ


۱۳۱۱ھ میں شاہ عبدالعزیز مسجد نبوی ﷺ کی زیارت کیلئے آیات ۱۳ میں آس پاس کے مکانات خرید کر زمین کو ہموار کیا گیا۔ اس طرح مسجد کا رقبہ ۱۶۳۲۶ مربع میٹر ہو گیا تو وسیع میں ۲۳۲ ستونوں پر عمارت کو کھڑا کیا گیا۔ اس توسیع میں صرف اطراف کی جگہیں خریدنے کیلئے ۵ کروڑ ریال معاوضہ دیا گیا جس میں مسجد نبوی ﷺ کا رقبہ 35 ہزار میٹر مزید بڑھ گیا۔ جدید چھت کا کل رقبہ 67 ہزار مربع میٹر ہے جس میں ۸۷۵۰ مربع میٹر میں گنبد ہیں بقیہ جگہ میں 90 ہزار ججاج نماز پڑھ سکتے ہیں۔






پہلی کا پیر سے کھینچی گئی مدینہ اور مسجد نبوی کی تصویر

مسجد نبوی ﷺ کا خوبصورت نظارہ



مسجد نبوی ﷺ کے اطراف میں صحابہ کے مکانات کا نقشہ




نقشہ مسجد نبوی ﷺ شریف کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات کا خاکہ، مسجد کی توسیع مہدی نے ۱۶۱۵ھ میں کرائی۔

### محراب نبوی ﷺ (جہاں حضور ﷺ امامت فرماتے تھے)

تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد متعدد ایام تک حضور ﷺ ستون عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے سامنے کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے پھر ستون حنانہ کی جگہ کو شرف قیام سے نوازا۔ یہ محراب مقدس اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے اس کی ابتدا ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں ہوئی جیسا کہ اوپر گزرا حضور ﷺ کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس طرح محفوظ فرمایا کہ آپ کے قدمین شریفین کی جگہ کے علاوہ باقی ساری جگہ دیوار میں دے دی تاکہ آپ کی سجدہ گاہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہ سکے اب اگر وہاں نماز پڑھنا نصیب ہو تو نمازی کا سر حضور ﷺ کے مقدس قدموں کی جگہ پر ہوگا۔

اس وقت اس محراب مقدس پر آب زر سے خوبصورت مینا کاری کی گئی ہے۔



پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے

پھر شکر خدا سا منے محراب نبی ہے


### محراب نبوی ﷺ: (جنت کا ٹکڑا دنیا میں)

یہ آپ ﷺ کے جائے نماز کی وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی ﷺ کا موجودہ محراب 888ھ میں سلطان قایت بائی کے دور کا بنا ہوا ہے۔ البتہ اس کی مرمت 1404 میں شاہ فہد کے حصہ میں آئی۔

ریاض الجنۃ

ریاض الجنۃ کی نشاندہی کے لیے سعودی حکومت نے اس جگہ سرخ قالین بچھا دیے ہیں۔

یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں 1400 سال پہلے حضور ﷺ نماز ادا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں وہ نماز فرماتے تھے۔




مسجد نبوی کی یہ جگہ آپ ﷺ کے گھر تک جنت کا حصہ ہے (سفید قالین جہاں تک بچھا ہوا ہوتا تھا وہ اس ریاض الجنۃ کی نشانی کے طور پر بچھایا جاتا تھا۔ مگر اب اس قالین کی جگہ ریاض الجنۃ کی نشاندہی کے لیے ستونوں کو سفید کر دیا گیا ہے۔

### جنت کا باغ

1- آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے درمیانی جگہ جنت کا حصہ ہے (وفا) 2- آپ ﷺ کا دوسرا ارشاد: میرے ریاض الجنۃ سے گزرو تو کچھ لے کر جاؤ۔ (الوفا ۲۱۱)

مسجد نبوی ﷺ کے اطراف کے مقامات مقدسہ کا نقشہ



آج سے 1400 سال پہلے اس جنگل کی لکڑی سے آپ ﷺ کا منبر بنایا گیا تھا۔




امام دارمی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ابوالجوزاء سے ایک روایت نقل کی ہے:

”قال قحط اهل المدينة قحطاً شديداً شكوا الى عائشة، فقالت انظر واقبر النبي ﷺ فاجعلوا منه كوى الى السماء حتى لا تكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطر مطراً حياً نبيت العشب وسمنت الابل حتى تفقت من الشحم فسمى عام الفتح.“

ترجمہ: ایک مرتبہ اہل مدینہ بہت شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی خدمت میں اس تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے گئے (تاکہ وہ دعا فرمائیں) تو حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتے لگیں۔ دیکھو آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کی طرف جاؤ اور روشن دان کھولو اس طرح کہ آپ ﷺ کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہ رہے۔

چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ خوب بارش برسی حتی کہ سبزہ اور شادابی خوب ہو گئی اور اونٹ بھی فریبہ ہو گئے۔ اس قدر کہ چربی اور موٹاپے کے باعث قریب تھا کہ ان کی کھالیں پھٹ پڑیں اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الفتح یعنی کھالوں کے پھٹ جانے کا سال رکھا گیا۔




## آپ ﷺ کی قبر مبارک کی مٹی کو داڑھی سے صاف کرنے والے بزرگ کا واقعہ

امیر قاسم ابن مہنی الحسینی کے زمانہ میں حجرہ مبارک سے اچانک ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی چیز کے گرنے اور منہدم ہونے کی آواز ہو۔ یہ آواز اصل حجرہ مبارک کی شرقی دیوار کے گرنے کی تھی۔ صورت حال معلوم ہونے پر یہ طے کیا گیا کہ کسی کو احاطہ مبارک میں اتارا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہتر سے بہتر ہستی متعین کرنے کے لیے غور و فکر کیا گیا۔

عارفین و صوفیاء کے شیخ المشائخ عمر نسائی کے سوا کسی پر نگاہ انتخاب تحقیق نہ جمی یہ شیخ اصل موصل کے تھے۔ لیکن عرصہ دراز سے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ چالیس سال کے عرصہ سے مسلسل قائم اللیل اور صائم النہار رہتے تھے۔ بول ورتح کا تقاضہ بھی ان کو جلد ہی پیش آتا تھا۔ لوگوں کے کہنے پر فرمایا اچھا میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔

کئی وقت کھانا پینا بند رکھا اور ذکر و تسبیح میں مصروف رہے۔ روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر دعا کی اور اندر اترنے کی حضور ﷺ سے اجازت طلب کی۔ اس کے بعد ہمت کر کے تیار ہوئے۔ لوگوں نے رسیوں کے ذریعہ ان کو قبور مبارک والے احاطہ میں اتارا جو حجرہ شریفہ کے چاروں طرف عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بنایا تھا۔ یہ شیخ اس احاطہ میں اترنے کے بعد اصل حجرہ مبارک کی جانب مڑے اور اس حصہ کی طرف پہنچے جہاں حضور ﷺ کے قدم مبارک ہیں دیکھا کہ مشرقی جانب والی دیوار کا ایک حصہ منہدم ہونے کے ساتھ چھت کا کچھ حصہ قبور مبارک پر گرا ہوا ہے کناروں کی مٹی صاف کی اور قبور مبارک پر پڑی ہوئی مٹی کو اپنی ریش مبارک سے صاف کیا۔ (سبحان اللہ کیسا اچھا نصیب پایا اور سعادت کا یہ مقام کہ اس پر یہ کائنات فخر کرے۔) قبر مبارک پر گرا ہوا مٹی کا ایک ایک ریزہ ریش مبارک سے دیر تک صاف کرتے رہے۔ اور شیخ کے ساتھ روشن شمع تھی اور اتنے طویل وقت میں شیخ کو جو بیماری اور عذر تھا اس کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔






## مقصورة النبوية کی تفصیل و انوارات

- آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد ۸ ربیع الاول ۱۲ نبوة ۲۳ ستمبر ۶۱۲ء بروز دوشنبہ بمقام قبازول اجلال فرمایا۔ ۱۲ یوم یہاں ٹھہر کر بروز جمعہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے ساتھ دو حجرات بھی بنائے گئے تھے جن میں سے ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ کا ہے۔ جس میں آپ ﷺ تشریف فرما ہیں اسی حجرہ کو قبۃ خضاء یا حجرہ عائشہ کہتے ہیں اور حجرہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔
- ☆ یہی وہ حجرہ مبارکہ ہے جسے ارض و سما کے ہر مقام پر درجہ علیا حاصل ہے۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ مبارکہ ہے جو مہبط جبرائیل اور منزل کلام رب جلیل ہے۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ عالیہ ہے جہاں سے روح انور نے جسم اطہر سے پرواز کی۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ مقدسہ ہے جہاں حضور ﷺ کو غسل و کفن دیا گیا۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ کریمہ ہے جہاں دس دس صحابہ نے اندر داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ امینہ ہے جہاں انتقال سے ۳۲ گھنٹے بعد جسم اطہر کو لحد انور میں لٹایا گیا۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ منورہ ہے جہاں روز و شب ملائکہ رحمت کا نزول جاری ہے۔
  - ☆ یہی وہ حجرہ عظیمہ ہے جو عند اللہ خیر البقاع ہے۔
- اب اس کا نام اپنی بیرونی عمارت کے ساتھ ”مقصورة النبوية الشريفة“ ہے۔

## حضور ﷺ کے روضہ مبارک کا اندرونی نقشہ



### حضور ﷺ کے روزہ مبارک پر موجود 3 نورانی سوراخ

محترم جناب محمد عبدالجید صدیقی ایڈووکیٹ لاہور صفحہ ۳۸۱ پر لکھتے ہیں: آرام گاہ (قبر اطہر) تک پہنچنے کے لیے تین سوراخ ہیں۔ پہلا سوراخ حجرہ مبارک کی چھت میں چہرہ انور ﷺ کے عین بالمقابل (اس سوراخ کے بنانے کی وجہ یہ ہوئی کہ وصال النبی ﷺ کے بعد ایک بار مدینہ منورہ میں بارش نہ ہونے سے لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اس وقت حیات تھیں عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں۔

تو آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ حضور اکرم ﷺ کے عین روئے انور کے بالمقابل اس حجرہ کی چھت میں ایک سوراخ کر دو۔ خدا کی قدرت یہ سوراخ بنانے کی دیر تھی کہ بے حد بارش ہوئی اور لوگ نہال ہو گئے اور پھر انہوں نے چاہا کہ اب سوراخ بند کر دیا جائے لیکن ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منع فرمایا چنانچہ اسی وقت سے یہ سوراخ اب تک موجود ہے۔

دوسرا سوراخ اسی سمت اور اس کے عین بالمقابل محس عمارت (یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنوائی ہوئی عمارت) کی چھت میں ہے۔

تیسرا سوراخ گنبد خضریٰ کے کلس کی جڑ میں اس کے بالمقابل ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک صرف تین خوش نصیب حضرات ان سوراخوں کے ذریعے اندر گئے ہیں۔

دنیا بھر میں کسی دوسرے پیغمبر کے مکان اور قبر مبارک کی حفاظت قدرت کی جانب سے ایسی نہ ہوئی۔ کاش دنیا والوں کو حضرت محبوب خدا ﷺ کا مختصر سادہ اور کچا حجرہ مبارک جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے دکھایا جاسکتا۔

آپ نے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے فوٹو دیکھے ہوں گے کہ گنبد خضریٰ کے نیچے رنگین ونیس چادروں میں ملبوس تین

نہایت خوبصورت قبریں ہیں۔ یہ آرٹسٹ کا محض تخیل اور اس کے دماغ کی پیداوار ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔


### آپ ﷺ کی قبر کے اطراف کے احاطہ کی کفیل

بعض تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ستر اسی برس تک زیارت عام کیلئے کھلی رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۸۸ھ میں مقدس قبروں کے گرد ایک پنج گوشہ احاطہ تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پانچ طرفین والی عمارت پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔

۵۵ھ میں سرتاج الانبیاء ﷺ کے جسد اطہر کو دو یہودیوں نے نقب لگا کر چوری کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعہ کے بعد نور الدین زنگی نے روضہ اقدس کے گرد چاروں طرف پانی کی سطح سے سیسہ بگھلا کر دیواریں کھڑی کر دیں۔

جس سے ایک اور حصار کھڑا ہو گیا۔ اب غلاف کے اندر کا نقشہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہمارے ملک کے جن سربراہان کے لیے روضہ اقدس کھولا جاتا ہے وہ بھی مقدس قبروں کی زیارت نہیں کر پاتے بلکہ غلاف کے گرد خالی جگہ مقصورہ تک محدود رہتے ہیں۔ جو باہر سے آسانی نظر آتا ہے۔

ظلمت کے اندھیروں کو دور کرنے والے دلوں کو روشن کرنے والے، ذہنوں کو منور کرنے والے، فکر و نظر کو جلا بخشنے والے عظیم پیغمبر ﷺ کا روضہ اندر سے تاریک رکھا گیا ہے جبکہ پوری مسجد نبوی بعقہ نور ہے۔ اس کی وجہ سمجھ سے باہر ہے۔ پرانے سفر ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ترکوں کے زمانے میں روضہ نبی ﷺ میں رات بھر روشنی کا انتظام رہتا تھا۔ بڑی بڑی کافوری بتیاں جلائی جاتی تھیں۔



مواجہ شریف



قبر مبارک ﷺ



مرقد مبارک خلیفہ دوم  
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

### روضہ مبارک کے سوراخ (روشدان)

سنہری جالی کے اندر جب آپ ان سوراخ سے جھانکیں گے تو چند گزر کے فاصلہ پر آپ ﷺ کی قبر مبارک ہے آپ ﷺ کا سر مبارک مشرق کی طرف ہے چہرہ انور قبلہ کی طرف ہے آپ ﷺ اور خلفاء کی قبر کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی تعمیر کردہ بیرونی دیوار ہے اس دیوار کے اندر سلطان نور الدین زنگی نے پگھلا ہوئے سیسے کی گہری خندق کھودی ہوئی ہے تاکہ کوئی آپ ﷺ کے جسم مبارک کو نقصان نہ پہنچا سکے۔



روضہ مقدسہ  
سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ

مرقد مبارک خلیفہ اول  
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ



### روضہ اقدس ﷺ سے دماغ کو معطر کرنے والی خوشبو کی برسات

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں عبداللہ بن محمد بن عقیل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ایک بزرگ تھے، ان کا معمول تھا تہجد کے وقت روزانہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے، اس کے بعد مسجد شریف میں حاضر ہو کر تہجد وغیرہ کے معمولات پورے فرماتے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔

ان بزرگ کا بیان ہے کہ ایک روز حسب معمول میں تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکلا۔ ابھی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے ایک عجیب محسوس کن خوشبو محسوس ہوئی، ایسی خوشبو زندگی میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس خوشبو کے نشہ میں میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا، اور حسب معمول روضہ اقدس پر حاضر ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران و ششدرہ گیا کہ حجرہ مبارک کی ایک دیوار منہدم ہو گئی ہے اس وقت میں سمجھا کہ یہ معطر کرنے والی خوشبو روضہ اقدس کی تھی۔

### حجرہ اقدس النبی ﷺ کا نظارہ


عبداللہ بن محمد بن عقیل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں حضرہ اقدس کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر چلا گیا اور خدمت نبوی ﷺ میں صلوة و سلام کا ہدیہ پیش کیا، کچھ دیروہاں ٹھہرا رہا، میرے کھڑے کھڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی وہاں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ دیوار گرنے کی خبر ان کو پہنچ گئی تھی، آپ نے آتے ہی ایک چادر سے پردہ کر دیا، اور نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے مشہور اور نیک معمار ورداں کو بلایا۔

جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کو اندر جانے کے لیے فرمایا۔ جب وہ اندر داخل ہو گیا تو اس نے اپنی مدد کے لیے ایک آدمی مانگا تو عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خود جانے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں، تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر موجود قریش کے بہت سے لوگ ورداں کی مدد کے لیے اندر جانے کی درخواست کرنے لگے۔


مگر عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سب کی درخواست یہ کہہ کر نا منظور کر دی کہ اتنے ہجوم میں حضور ﷺ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کے بعد فرمایا نہ میں خود اندر جاؤں گا نہ تم میں سے کسی کو اندر جانے دوں گا، اس کے بعد آپ نے مزاحم نامی غلام کو اندر جانے کا حکم دیا کہ وہ اندر جا کر گری ہوئی مٹی وغیرہ صاف کریں۔ مزاحم نے اندر پہنچ کر صفائی کی اور قبر مبارک پر دیوار گرنے سے جو شکاف پڑ گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے درست کیا۔




روضہ اقدس ﷺ کا نظارہ دیدار  
کرنے کے لئے حجرہ اقدس کے  
سورخ پر 500 سال پرانا سونے  
اور جواہرات سے بنا ہوا گول  
ستارہ حضرت نبوی کی دیوار کے  
سورخ پر لگا ہوا ہے۔



روضہ مقدس محمد ﷺ کے دیدار  
کے لیے اس سورخ سے زائرین  
اندر دیکھتے ہیں۔






مواجد شریف سے جب ہم سلام پڑھتے ہیں جہاں ہمیں جایاں اور گول سوراخ نظر آتے ہیں تو حضور اقدس ﷺ کے جسم مبارک اور ہمارے درمیان تین دیواریں حائل ہیں۔



### ان حضرات صحابہ کے اسماء گرامی جو آپ کی قبر مبارک میں اترے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے مزار اقدس میں آپ کی تدفین کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے۔ ابو میتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز جنازہ کے وقت حاضر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایک دروازہ سے داخل ہوتی اور درود و سلام پڑھ کر دوسرے دروازہ سے نکل جاتی۔ جب آپ کو لحد مبارک میں اتارا گیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں مبارک کی جانب لحد شریف پوری طرح درست نہیں کی گئی۔ دوسرے حضرات نے فرمایا تم قبر انور میں اترو اور اس حصہ کو درست کرو۔ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور اپنا ہاتھ لحد مبارک میں داخل کر کے قدم مبارک مس کئے (لحد کو درست کیا) اور فرمایا مٹی ڈالو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مٹی ڈالتے رہے، جب ان کی پنڈلیوں کے نصف تک مٹی جمع ہو گئی تو وہ باہر نکلے اور فرمایا کرتے تھے میں تمہاری بہ نسبت رسول اللہ ﷺ کی تازہ زیارت کرنے والا ہوں اور آپ کے جسد اطہر کو مس کرنے کی سعادت سے بہرہ ور ہونے والا ہوں۔



نقشہ حجرہ نبوی کا تفصیلی خاکہ نمبروں کے ذریعہ ہر ایک کی تفصیل نیچے درج ہے۔






- ۱۴۔ سیدہ فاطمہ زہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان۔
- ۱۵۔ سیدہ فاطمہ کے مکان کے اندر کا محراب جسے سلطان قایت بای نے بنایا۔
- ۱۶۔ محراب تہجد جس میں نبی پاک ﷺ تہجد ادا کرتے۔
- ۱۷۔ اہل صفہ کے ساتھ تہجد کی جگہ سیدہ فاطمہ کے مکان کے پیچھے۔
- ۱۸۔ موابہ شریف رسول ﷺ۔
- ۱۹۔ موابہ شریف حضرت ابوبکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔
- ۲۰۔ موابہ شریف حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔
- ۲۱۔ حجروں کی جگہ جنہیں ولید بن عبد الملک کی تعمیر میں منہدم کر دیا گیا۔
- ۲۲۔ ستون نسر۔
- ۲۳۔ ستون وفود۔
- ۲۴۔ ستون حرس۔
- ۲۵۔ باب توبہ (شریف)
- ۲۶۔ باب سیدہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (ریاض الجنۃ میں) سراقس کے مقابل میں کھڑکی۔
- ۲۷۔ قد میں مبارک۔
- ۲۸۔ مقصورہ کے دروازے۔
- ۲۹۔ قبر شریف پر چھوٹے گنبد کا دائرہ۔
- ۳۰۔ نیلے گنبد کا دائرہ۔
- ۳۱۔ سبز گنبد کا دائرہ۔
- ۳۲۔ مقصورہ کا باقی حصہ۔
- ۳۳۔ مقصورہ کی باہری دیوار۔
- ۳۴۔ سیدہ فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی محراب۔
- ۳۵۔ سیدہ فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان۔

- ۱۔ نبی پاک ﷺ کی قبر شریف۔
- ۲۔ آپ کے خلیفہ سیدنا ابوبکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قبر۔
- ۳۔ آپ کے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قبر۔
- ۴۔ سیدنا عیسیٰ عَلِيْهِ السَّلَام کی قبر ہوگی، ایک روایت کے مطابق ان کی قبر رسول اللہ ﷺ کی قبر کے برابر اور دوسری روایت کے مطابق عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قبر کے پیچھے ہوگی۔
- ۵۔ اس جگہ سیدہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا رہتی تھیں، جو حجرہ کے مشرقی جانب ہے اور دوسری روایت کے مطابق وہ شمالی جانب رہتی تھیں اور یہی زیادہ صحیح ہے۔
- ۶۔ حضرت جبریل عَلِيْهِ السَّلَام کے اترنے کی جگہ، اس جگہ سے آپ بارہا داخل ہوئے۔
- ۷۔ حجرہ عائشہ کی دیوار جسے رسول اللہ ﷺ نے بنوائی جو کچی اینٹوں کی ہے اور جو آج بھی موجود ہے۔
- ۸۔ محمس دیوار جسے عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کرائی، ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں۔
- ۹۔ عمر بن عبدالعزیز کی محمس دیوار کے باہر متعدد کونے والی دیوار چاروں طرف سے سلطان قایت بای نے بنوائی۔ (مگر اس کا ذکر دوسری روایتوں میں نہیں)۔
- ۱۰۔ سلطان قایت بای کی دور حکومت کے ستون جن پر حجرہ شریف کے گرد پردہ لٹکایا جاتا ہے۔
- ۱۱۔ مقصورہ کی پہلی کھڑکی مغربی حصہ میں۔ سلطان ظاہر بیبرس کے زمانہ میں وہ مقصورہ سے ملائی گئی۔
- ۱۲۔ ریاض الجنۃ۔
- ۱۳۔ مسجد نبوی شریف کا حصہ۔





### روضہ رسول ﷺ سے پاؤں ظاہر ہونے کا واقعہ

حضرت عروہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی روایت ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب حجرات شریفہ کو مسجد میں شامل کرنے کے لیے منہدم کیا گیا تو حجرہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی مشرقی دیوار کمزور ہونے کے باعث گر گئی۔ اسے تعمیر کرنے کے لیے بنیاد کھودنی شروع کی تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا سب گھبرا گئے اور خیال کیا کہ شاید یہ نبی اکرم ﷺ کا قدم مبارک ہے۔ صحیح صورت حال کوئی نہ بتلا سکا تو حضرت عروہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے دیکھ کر کہا بخدا یہ نبی اکرم ﷺ کا قدم مبارک نہیں یہ تو حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قدم مبارک ہے۔

## حجرات نبوی ﷺ کے متعلق خلاصہ کلام

رسول ﷺ کے روضہ مسجد کی زیارت سے مشرف ہونے والا شخص مندرجہ ذیل چیز ملاحظہ کرتا ہے۔

آج کل مولا جہ شریف میں کھڑا ہونے والا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی جگہ میں ہوتا ہے۔

تیل یا لوہے کا مقصورہ جسے سلطان قاہر نے ۸۸۸ھ میں بنوایا۔ سب سے پہلے ظاہر بھرس نے ۶۶۸ھ میں کنزلی کا مقصورہ بنوایا جس کی لسانی ساڑھے تین میٹر تھی

مخمس دیوار جس کو عمر بن عبدالعزیز والی مدینہ نے ۳۰ھ میں بنوایا جو تراشیدہ پتھر کی تھی۔ محقق بات ہے کہ اس میں کسی جانب کوئی دروازہ نہیں۔ اور اسی دیوار پر بزر غلاف پڑا ہوتا۔

اسی مخمس دیوار کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان بھی ہے۔ اس کو بھی عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کرایا۔ مشرقی دیوار پتھر کی تھی اس گھر میں بھی کوئی دروازہ نہ رکھا گیا۔ ۸۸۸ھ میں اشرف قاہر نے بائیں طرف کے در حکومت میں مشرقی دیوار شہید کر کے پھر سے نئے پتھر کی تعمیر کر کے سارے سوراخ بند کر دیے گئے۔


حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے اندر قبر رسول ﷺ اور قبر صدیق و عمر ہے۔ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بنوایا تھا۔ اس میں صرف ایک دروازہ تھا جس پر پردہ تھا۔

مولا جہ شریف میں زائر سے رسول ﷺ کا سر اقدس کوئی 2,25 میٹر کے فاصلہ پر ہوتا ہے۔ اور ریاض الجنتہ میں کھڑے زائر سے سر اقدس 1,60 میٹر کے فاصلہ پر ہوتا ہے۔


حجرہ نبوی ﷺ کی چھت کنزلی کے تختوں کی اس کے اوپر پانی سے بچاؤ کے لیے مومی کپڑا لگا زمین سے اس کی اونچائی کوئی چھ میٹر۔ قبر انور کے ٹھیک اوپر چھت میں ایک سوراخ جو قحط سالی میں نماز استسقاء کے وقت کھولا جاتا تھا۔

بزرگنہ اس وقت ازواج مطہرات کے پورے مکان کو محیط ہے۔ اس کو ۱۲۳۳ھ میں سلطان محمود بن عبدالحمید خان نے تعمیر کرایا۔ یہ اندر سے تراشیدہ پتھر کا ہے اور اوپر سے سیسہ کے تختے لگے ہیں۔ زمین سے اس کی اونچائی پچیس میٹر اور صرف کس (ہلال) تین میٹر کل ملا کر اٹھائیس میٹر اونچا ہے۔ اس گنبد میں چھتر طاق اور کھڑکیاں ہیں جو رنگین شیشوں سے بند ہیں۔ ان میں سے ایک جو قبلہ کی سمت ہے اس پر ڈھکن ہے جس کا کھولنا ممکن ہے۔

سلور (چاندی) رنگ کی بجائے بزرگ سے سب سے پہلے ۱۲۵۳ھ میں سلطان محمود خان نے رنگوایا۔ اسی لیے اس کا نام گنبد خضری (بزرگنہ) پڑا۔



یہ وہ جگہ ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے آپ کا گھر تھا




### ازواج النبی ﷺ کے کچی اینٹوں کے گھر

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے حجروں کو گرایا تو وہ کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور حجروں پر کھجور کی شاخوں کی چھت تھی جو مٹی سے لپائی کی ہوئی تھی۔ ان حجروں کی تعداد ۹ تھی۔ اور وہ کمرے حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے گھر سے اسماء بنت حسن کے گھر تک پھیلے ہوئے تھے۔

سیدنا حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ یہ تھی حجرات مقدسہ کی اونچائی یہ تمام حجرات مقدسہ شرقی جانب تھے۔ غربی جانب کوئی حجرہ نہ تھا، ان مقدس حجروں میں عموماً رات کو چراغ بھی نہیں جلتے تھے اور ضرورت بھی کیا تھی، بھلا جس گھر میں سراج منیر کی جلوہ گری ہو وہاں شمع کی کیا ضرورت؟ جس گھر میں آفتاب ہو تو وہاں چراغ کی کیا حیثیت؟ ابو امامہ سہل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ کاش وہ حجرے اسی طرح رہنے دیے جاتے تاکہ آنے والے لوگ دیکھتے کہ شاہ بحر و بر سید الانبیاء ﷺ کی زندگی کس قدر سادہ زندگی تھی جسے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ ان کی رہائش کیسے سادہ قسم کے چھپروں میں تھی۔ مقامات مقدسہ کی تعمیری ترتیب کچھ اس طرح تھی: سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ساتھ سیدہ سودہ اور سیدہ صفیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے حجرے تھے۔

## حجرہ نبوی کی دیواروں پر آیات قرآنی کے نقش و نگار



ولید بن عبد الملک کے دور خلافت اور ان کے گورنر مدینہ عمر بن عبد العزیز کے تعمیر مسجد نبوی شریف سے لے کر اب تک اس مقام مقدس میں بہت سے فنی مہارت کے کمالات دکھائے گئے۔ نقش و نگاری اور سونے و ہیرے کی تزئین کاری کے بے شمار اعلیٰ نمونے مسجد نبوی شریف کی چھت اور جنوب (قبلہ) کی دیواروں پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

اب ہم ذیل میں ان تحریروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق حجرہ نبوی ﷺ سے ہے۔

۱۔ باب وفود کے اوپر حجرہ نبوی کے مغربی جانب یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔

”اس مقصورہ کو سلطان اشرف ابوالنصر قایت بای نے ۸۸۵ھ میں بنوایا۔“

۲۔ حجرہ نبوی کے گردلوہے کے مقصورہ کے دروازے پر یہ عبارت مکتوب ہے:

”اس مقصورہ کو سلطان اشرف ابوالنصر قایت بای نے ۸۸۸ھ میں بنوایا۔“

۳۔ مشرقی جالی (کھڑکی) مواجہہ شریف میں کھڑے ہونے والے کے دائیں طرف اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔

”نبی عظیم خلقه الخلق الذی له عظم الرحمن فی سید الکتب“

وہ عظیم المرتبت نبی جن کا اخلاق عظیم، ان کو عظیم کیا رحمن نے اپنی کتاب عظیم میں۔


یہ شعر شیخ عبداللہ بن علوی حسنی متوفی ۱۱۳۲ھ کے اس قصیدہ کا ہے جو پورا حجرہ نبوی کے اندر منقوش ہے۔

۴۔ مقصورہ کے دروازہ پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا ہے۔






حضور ﷺ کے روضہ پر رکھے گئے غلاف کا حصہ جسے بادشاہ احمد اول نے تحفہً بھیجا تھا یہ آج بھی ٹاپ کاپی (ترکی) میں محفوظ ہے۔



حجرہ شریف کے باہر مولاجہ شریف میں دکھائی دے رہا پردہ جو ابھی ہٹا دیا گیا ہے۔



تصویر میں تیر کے نشان سے وضاحت کی جا رہی کہ حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی قبر اس مکان میں تھی۔ اب یہ جگہ مسجد نبوی میں شامل کر لی گئی ہے۔ یہ مکان بنونجار کے محلے میں تھا۔



مغربی جانب ریاض الجنۃ میں حجرہ نبوی کی جالیوں کی تصویر



حجرہ نبوی کے برابر شمال میں باب جبریل، باب نساء کے درمیان واقع گارڈ کا چبوترہ۔





روضہ رسول ﷺ کی باہر پیتل کی جالی

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ آج حجروں کا دروازہ کے طور پر مستعمل ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ کی کنڈی جس پر آیت قرآنی کندہ دیکھی جاسکتی ہے۔




مسجد نبوی میں جب آپ باب جبرائیل علیہ السلام سے داخل ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک حجرہ نظر آئے گا۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، جب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراً بعد بائیں ہاتھ پر مسجد نبوی کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنۃ ہے۔ یعنی منبر رسول ﷺ اور قبر شریف کے درمیان کا حصہ ریاض الجنۃ کہلاتا ہے۔ اس مقام کی نسبت حدیث میں آتا ہے ”جو جگہ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔“ (گھر سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے جس میں حضور پاک ﷺ کی قبر شریف ہے اور جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے پیچھے ہے۔)

یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی ریاض الجنۃ میں حضور سرور کونین ﷺ کا مصلیٰ بھی ہے جہاں آپ ﷺ کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ آج ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ولی کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو اس جگہ یہ محراب بھی بنوادی۔



حضور اکرم ﷺ کے وصال کے بعد مصلیٰ رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کی نماز پڑھنے کی جگہ سوائے قدم مبارک وہ جگہ چھوڑ کر باقی جگہ پر دیوار بنوادی تھی تاکہ آپ ﷺ کے سجدہ کی جگہ پر لوگوں کے قدم نہ پڑیں۔

اس دروازے سے آپ ﷺ مسجد نبوی میں آتے تھے اور جبریل علیہ السلام بھی وحی لے کر اس دروازے سے آپ ﷺ کے پاس تشریف لاتے تھے۔





(ستونوں کا نقشہ)



چبوترہ اصحاب صفہ: مورخین سیرت کے مطابق یہاں طلبہ کی تعداد 70 یا 80 کے درمیان رہتی۔ کبھی کبھی یہ تعداد بڑھ کر چار سو تک پہنچ جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نبوی مدرسہ کے سب سے زیادہ حاضر باش طالب علم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ سے مروی ہے۔ صفہ سے حضور ﷺ کی پاکیزہ تعلیمات کا آغاز ہوا تو چار دانگ عالم میں پھیل گیا۔ آج پوری دنیا میں صفہ سے نسبت رکھنے والے ہزاروں مدارس عربیہ موجود ہیں جو دین کی روشنی عام کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔

## مسجد نبوی کے ستون

### مسجد نبوی کے ۸ ستون

پوری مسجد نبوی میں خوبصورت میرون رنگ کے ستون بنائے گئے ہیں جبکہ ریاض الجبہ میں موجود ستونوں کا رنگ سفید اور اس کے درمیان سنہری پٹیاں لگی ہیں۔ اگر ریاض الجبہ کے ستونوں کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی دو قسم کے ستون ہیں سفید اور سنہری ستون اصل مسجد نبوی ﷺ کے اندرونی حصے کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ سادے سفید ستون اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ رسول ﷺ کے دور میں یہ حصہ مسجد کے صحن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔

ریاض الجبہ مسجد نبوی کا نہایت متبرک ٹکڑا ہے اور اس خطہ میں مصلیٰ رسول، منبر رسول، چبوترہ صفہ، محراب تہجد اور چھ انتہائی تاریخی ستون قائم ہیں جن کا ذکر آگے کے ابواب میں تفصیلاً آئے گا۔

### مسجد نبوی میں حضور سے منسوب 8 ستون

ریاض الجبہ کے قطعہ میں آٹھ ستون ایسے ہیں جنہیں ستون ہائے رحمت کہا جاتا ہے اور ان ہی ستونوں کے درمیان ریاض الجبہ کا احاطہ ہے۔ ان ستونوں پر سنگ مرمر چڑھا ہوا ہے اور طلائی کام بھی کیا ہوا ہے۔ اور امتیاز کے لیے ان پر نام بھی کندہ ہیں، مندرجہ ذیل ستونوں کو ستون ہائے رحمت کہا جاتا ہے۔

- ۱۔ اسطوانہ حنانہ۔
- ۲۔ اسطوانہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا۔
- ۳۔ اسطوانہ ابی لبابہؓ
- ۴۔ اسطوانہ سریر۔
- ۵۔ اسطوانہ محرس۔
- ۶۔ اسطوانہ وفود۔
- ۷۔ اسطوانہ تہجد۔
- ۸۔ اسطوانہ جبرائیل عَلِيهِ السَّلَام۔

اسطوانہ جبرائیل کو اسطوانہ سریعہ البصری بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل عَلِيهِ السَّلَام دُحِيہ کلبی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شکل میں یہاں تشریف لائے تھے۔ یہ تو مسجد شریف کے ان ستونوں کا تذکرہ تھا جو فضیلت و برکت میں ممتاز و مخصوص ہیں ورنہ تمام ستون اور ساری مسجد شریف ہی بقعہ نور ہے۔ جس جگہ بھی موقع ملے نوافل اور تلاوت کلام پاک میں مصروف وقت گزارنا چاہیے۔ (تاریخ المدینہ منورہ ص ۲۴)۔



## اسطوانہ وفود

چھٹا اسطوانہ وفود ہے۔ جو حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کے حجرہ مبارک کے پاس ہے۔ سلطان دو عالم ﷺ حجرہ سے باہر اسی جگہ تشریف فرما ہوتے۔ جب نواحی بستیوں اور مختلف ممالک کے وفود باریابی کے لیے حاضر ہوتے تو یہیں حضور ﷺ ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے۔ یہ دربار دنیوی دربار کی طرح نہ تھا۔

”يجلس اليها الوفود العرب اذا جاء ته“

وفود آتے تو آپ اسی جگہ بیٹھتے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے آپ ﷺ کا گھر تھا (1) اس جگہ وفود آپ ﷺ سے آکر ملاقات کرتے تھے اب یہ مسجد نبوی کا حصہ بنی ہوئی ہے اور اسطوانہ الوفود کے نام سے مشہور ہے۔



## اسطوانہ تہجد

صفہ کے بالکل سامنے اسطوانہ تہجد ہے۔ یہ جگہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی دیوار کے باہر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے چند شب نماز تہجد پڑھائی۔ اصحاب صفہ اس کرم پر کتنے خوش ہوں گے کہ خاص قبولیت کے وقت جب خداوند کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سرور کائنات امام الانبیاء ﷺ ان کو اپنی امامت سے سرفراز فرماتے ہیں۔

تہجد کی نماز خداوند تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس خلوت کی، خاموشی اور تنہائی کے لمحات میں جب بندہ اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو عجیب و غریب کیفیات سے سرشار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سجدے اس لیے بھی پسند ہیں کہ یہ عبادت خالصہ عبد اور معبود کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ سعادت مقررین بارگاہ خداوندی کا حصہ ہے، ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوش بختی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کو امام المرسلین ﷺ کی اقتداء نصیب ہو۔


یہ روحانی معراج کی بندگی کا بلند ترین مقام ہے، صحابہ جوق در جوق نماز تہجد میں آنے لگے۔ رسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو چٹائی اٹھانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز تہجد ادا کیا کریں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر نماز تہجد فرض نہ ہو جائے، یہ احساس بھی رحمت کا پہلو لیے ہوئے تھا یہ حکم شفقت کا طغرا تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کو کس درجہ امت کی سہولت کا احساس تھا۔ اے رحمۃ اللعالمین ﷺ! آپ پر لاکھوں درود و سلام، اے شفیع المذنبین! آپ پر ان گنت رحمتیں نازل ہوں، آپ نے کس کس مرحلے پر رحمت کا سایہ کیا۔ زائرین اس اسطوانہ پر ذوق و شوق سے نوافل اور نماز ادا کرتے ہیں۔



شمالی طرف (قبلہ کے برعکس) حجرہ نبوی ﷺ کی جالیاں تہجد کے چبوترے پر۔

محراب تہجد: آپ ﷺ کبھی کبھی رات کو محراب تہجد کے پاس نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ جالیوں کا شمالی حصہ محراب تہجد کہلاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

## ستونِ حنائہ:



یہ ستون آپ ﷺ کے مصلہ کے برابر میں ہے آج سے 1400 سال پہلے اس جگہ لکڑی کا درخت تھا جس پر ٹیک لگا کر آپ ﷺ خطبہ دیا کرتے تھے۔

جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد بڑھ گئی تو آپ ﷺ نے منبر بنا لیا تو یہ لکڑی کا درخت حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کی جدائی میں ایسا رویا جیسا حاملہ اونٹنی روتی ہے۔

## ۲۔ اسطوانہ عائشہؓ


”اسطوانہ مہاجرین“ بھی کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے بعد اول رسول ﷺ نے اس جگہ نماز پڑھائی پھر نماز کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا جہاں محراب نبوی ہے۔

اسے ستون عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اس لیے کہا جاتا ہے۔ طبرانی نے حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت کی ہے: ام المومنین نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ

”انی لا علم ساریة من سواری المسجد لو يعلم الناس مافی الصلوة الیہا ماصلوا فیہا الا ان تطہیر بہم قرعة۔“  
ترجمہ: میری مسجد کے ستونوں میں ایک ستون کے آگے ایک ٹکڑا ہے اگر لوگ اس کی فضیلت سے واقفیت حاصل کر لیں تو یہ مقام قرعہ اندازی سے حاصل کر لیں۔

لوگوں نے ام المومنین سے اس جگہ کا نشان پوچھا تو آپ نے تعین نہ فرمایا حاضرین واپس آگئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسی جماعت میں شامل تھے۔ آپ سیدہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے پاس ہی ٹھہرے رہے۔ دوسری جماعت ام المومنین سے پوچھنے کے لیے پھر حاضر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ام المومنین کے پاس اٹھ کر باہر آئے اور اس جگہ پر نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے سمجھ لیا جس جگہ کے متعلق حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا یہی ہے۔

زید بن اسلم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں میں نے اس جگہ پر حضور ﷺ، ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حوالہ الوفاء ۶۸۱ و جذب القلوب ۱۰۰۔





## ستون ابولبابہ:

جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ لوگ پہاڑ سے اتر آئے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ حضور ﷺ سے معافی دلوادیں۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضائے بشریت کے تحت حلق کی طرف اشارہ کیا یعنی تم سب قتل کر دیئے جاؤ گے۔ بعد میں اس بے ساختہ حرکت کا حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید احساس ہوا کہ خدا اور رسول خدا ﷺ کے معاملے میں ان سے بہت بڑی خیانت ہو گئی ہے۔

ندامت اور پشیمانی میں حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاری زنجیر کے ساتھ خود کو لکڑی سے باندھ لیا۔ جو اس اسطوانہ کی جگہ ہے اور قسم کھائی کہ جب تک حضور اکرم ﷺ اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے یونہی بندھا رہوں گا۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس سیدھے چلے آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، کلام پاک کا بھی یہی ارشاد ہے:

”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا والله راسخ في التوراة ان لو جدوا الله تو ابوا رحيمًا.“  
ترجمہ: اور ان لوگوں نے جس وقت اپنا برا کیا تھا۔ آتے تیرے پاس، پھر اللہ سے بخشواتے اور رسول ﷺ ان کو بخشواتا، اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔

حوالہ وفاء الوفاء ۴۴۲ جلد ۲ / راحت القلوب ۱۰۵۔

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ رب العزت کے سپرد کر دیا ہے جب تک ان کی قبولیت توبہ کا حکم نازل نہ ہو جائے میں انہی نہیں کھولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صدق دل سے کی ہوئی توبہ قبول فرمائی ان کی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا۔ حوالہ مسجد نبوی ﷺ کا تصویری البم۔



ستون ابولبابہ: ستون سے نبوت کا راز ظاہر کرنے پر ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا اپنے آپ کو یہاں باندھ دیا تھا پھر 10 دن کے بعد حکم الہی پر آپ ﷺ نے خود ان کو کھولا تھا۔

### ۳۔ اسطوانہ سریر

پانچواں اسطوانہ سریر ہے جو مشرقی جالی سے ملا ہوا ہے۔ اس سے بہتر سجدہ گاہ کون سی ہو سکتی ہے جس کی فضیلت و برکت محبوب خدا ﷺ کے لب مبارک سے ادا ہوئی۔ یہ ستون حجرہ شریف اور منبر شریف کی جانب سے تیسرا اسطوانہ ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کی نشاندہی کی۔ جب وہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سے باہر آ کر نماز پڑھنے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ تبرک مقام ہے۔


اس ستون پر نماز ادا کرنے کے لیے ہر زائر بے تاب نظر آتا ہے۔ یہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بتائی ہوئی فضیلت کی جگہ ہے۔ یہ وہ افضل مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کی امت پر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کرم ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے بخشش اور نجات کے دروازے کھول دیے تاکہ ہر مسلمان اس جگہ کی برکت سے دامن دل بھرے اور نگاہوں کو اس کی زیارت سے سیراب کر لے۔

حضور سید عالم ﷺ کا بستر چار پائی اس ستون کے پاس اور کبھی ستون ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

”کان اذا اعتکف یطرح له وسادة ویوضع له سریر من حرید۔“

ترجمہ: اعتکاف کے موقع پر حضور اکرم ﷺ کے لیے فرش و تکیہ لگا دیئے جاتے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب سرور کائنات ﷺ اعتکاف فرماتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جگہ آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم ﷺ کی ایک سریر (چار پائی) تھی جو کھجور کے درخت کی بنی ہوئی تھی۔ یہ سریر آپ کے لیے محل اعتکاف پر بچھادی جاتی تھی۔ سرورِ دو جہاں ﷺ کے پاس زیادہ تر ایک چٹائی ہوتی جس پر آپ رات بسر کرتے اور اسی کو پائے اقدس کے نیچے رکھ لیا کرتے۔ اس جگہ آج ایک ستون ہے جس کا نام اسطوانہ سریر ہے۔



آپ ﷺ اعتکاف اس ستون سریر پر آرام فرمایا کرتے تھے۔



### اسطوانہ الحرس

اس ستون پر آج سے 1400 سال پہلے وہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے جو

آپ ﷺ کی حفاظت پر مامور تھے۔

### ۵۔ اسطوانہ حرس یا اسطوانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مقصودہ شریف کی جالیوں میں پیوست تین ستونوں میں سے یہ درمیانی ستون ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کا فریضہ انجام دیا ہے۔

اس ستون پر اسطوانہ حرس تحریر ہے۔ ابتداء ایام ہجرت میں جب قریش و یہود کے حملوں کا اندیشہ ہمیشہ لگا رہتا تھا، تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی خوشی اور مرضی سے نبی ﷺ کے کاشانہ فیض پر شب بھر پہرہ چوکی دیا کرتے تھے۔ ان کے کھڑے ہونے کی یہی جگہ ہوتی تھی۔ ایک شب اس آیت کا نزول ہوا:

”والله يعصمك من الناس“

تَرْجَمًا: یعنی خدا تجھے شریر لوگوں سے بچائے رکھے گا۔

نبی ﷺ نے اس وقت آواز دے کر دریافت فرمایا کہ باہر کون پہرہ دے رہا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے انہوں نے نام بتلائے سرور کائنات نے فرمایا اب تم چلے جاؤ مجھے پہرہ چوکی کی ضرورت نہیں رہی۔

رسول اللہ ﷺ جب حجرہ مبارک میں آرام فرماتے اور کسی خطرے کا خدشہ ہوتا تو اس مقام پر اللہ کے شیر سیدنا علی کرم و اللہ وجہ کھڑے ہو جاتے اور حفاظتی پہرہ دیتے۔ اس مناسبت سے اسے اسطوانہ علی کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا اور اس کے متعلق وحی نازل ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے پہرہ ختم کروا دیا۔

## باب رحمت:

ممبر رسول ﷺ کے مغربی کنارے پر باب رحمت ہے۔ اس کے حسین و جمیل نقوش، محبوب خدا ﷺ کی دعا کا مجسم اثر نظر آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی اس دروازے سے داخل ہوا اور دور ہی سے رحمت اللعالمین ﷺ سے مودبانہ درخواست کی کہ حضور ﷺ بارش کے لیے دعا فرمائیں، کھیتیاں سوکھ گئیں، زمین پر کسی ہے، قحط کے آثار ہیں، خوراک نایاب ہے۔



اعرابی نے اس رقت اور سوز دل سے بارگاہ رسالت ﷺ میں التجا کی کہ اسی وقت پیغمبر کائنات ﷺ نے بارگاہ ”الہی“ یا ”خداوندی“ دونوں میں سے کوئی لفظ لکھیں۔ میں دعا کے لیے دست مبارک اٹھا دیے، دس مبارک کیا اٹھائے سبح کرم پھیلا دیا۔ زبان معجز سے دعا کے الفاظ آدا ہوتے ہی افق کی گود سے حضور ﷺ کی دعا کا جواب نمودار ہوا۔ گویا بادلوں نے حضور ﷺ کی دعا پر لبیک کہا، گویا کہ سرکار دو عالم ﷺ کے اشارے پر قربان ہونے اور جان نثاروں کی طرح قدم بوسی کے لیے اٹھے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ بارش اس زور سے برسی کہ زمین کی سوکھی گود ہری ہو گئی، مردہ زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے۔

ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہر شے اس کرم خاص پر الحمد للہ پکار رہی ہے۔ رحمت اللعالمین ﷺ کے چشمہ کرم نے سوختہ جانوں کو سیراب کر دیا۔ حضور ﷺ سے لوگوں کی پریشانی کب دیکھی جاسکتی تھی۔ وہ تو کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ پھر وہی اعرابی دوسرے جمعہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ادب سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ آپ ﷺ نے پھر اسی محبت سے دعا فرمائی، بارش رک گئی، باب رحمت کی یہی وجہ تسمیہ ہے۔ (بخاری شریف)



”باب الرحمة“ جہاں حضور ﷺ کی دعا قبول ہوئی یہ مسجد نبوی کے ان دروازوں میں سے ہے جن کو آپ ﷺ نے متعین فرمایا تھا۔ ایک دیہاتی آپ ﷺ کے پاس اس دروازے سے داخل ہوا اور بارش کی درخواست کی آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور بارش برس پڑی (بخاری شریف)





## باب السلام

باب رحمت سے ملحق باب السلام ہے۔ اس دروازے سے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد جناب رسالت مآب ﷺ کا ناقہ داخل ہوا۔ ناقہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا مگر پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور ﷺ نے زمام چھوڑ دی اور فرمایا کہ یہ مامور من اللہ ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ ہر نظر التجا بن گئی مگر یہ شرف حضرت ابویوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو حاصل ہوا۔

## عہد نبوی میں مسجد نبوی ﷺ کی حد

حضور ﷺ کے زمانے میں یعنی 1400 سال پہلے مسجد نبوی کا رقبہ یہاں تک تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ رقبہ بڑھتے بڑھتے آج کی مسجد نبوی کی صورت میں موجود ہے۔



# تبرکات نبوی

## باب نمبر



توپ کاپی میوزیم (ترکی) کا بیرونی منظر جہاں حضور ﷺ کے تبرکات محفوظ ہیں۔



توپ کاپی میوزیم کا اندرونی حصہ۔



393

مکہ کی خانقاہ کا دربار طوطی (توپ کاپی) جسے سنی کمال نے عیب کرنا دیا


توپ کاپی میوزیم کا اندرونی منظر



توپ کاپی میوزیم کا اندرونی منظر



توپ کاپی میوزیم: اس میں موجود قرآن حکیم، احادیث مبارک کے مخطوطات کا بے نظیر ذخیرہ۔



توپ کاپی میوزیم استنبول۔ صدر دروازہ۔







توپ کاپی میوزیم کے صدر دروازہ کا بیرونی منظر۔




ٹوپ کاپی میوزیم کا ایک نمونہ خطاطی۔





توپ کاپی میں تبرکات  
نبوی ﷺ والے کمرے  
کی دیوار کا حسین منظر۔





کمرہ خاص میں موجود غلاف کعبہ کا حسین منظر۔




حضرت عبداللہ بن مکتوب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مزار مبارک




توپ کا پے نامی میوزیم میں موجود کمرہ خاص جہاں حضور ﷺ کے تبرکات خلافت عثمان سے محفوظ ہیں وہاں پر لگا ہوا سونے اور ہیرے جواہرات سے مزین فانوس۔




توپ کا پے میوزیم میں موجود غلاف کعبہ کا حسین منظر۔



توپ میوزیم میں موجود 800 سال پرانے غلاف کعبہ کا حسین منظر



توپ کاپی میں تبرکات نبوی ﷺ والے کمرے کی دیوار کا حسین منظر۔



توپ کاپی میوزیم کے کمرہ خاص (تبرکات والا کمرہ) کے برآمدے کا پر نور منظر۔



وہ ٹرین جس میں مدینہ منورہ میں موجود تبرکات نبوی ﷺ فخری پاشا نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں منتقل کیے۔

### قیمتی خزانہ کی لسٹ جو مدینہ منورہ کی طرف سے استنبول حفاظت کے لیے آئے

- (۱) حضرت عثمان بن عفان کا مصحف (قرآن کریم) جس میں آپ تلاوت کرتے تھے۔ جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ جس کا خط کوفی ہے۔ حجم بڑا ہے اور ہرن کی کھال پر لکھا گیا ہے۔
- (۲) مصحف شریف مجموعہ کی شکل میں۔ کوفی خط، بڑی سائز، سورہ فاتحہ دس اوراق میں، سورہ بقرہ سے ثلث خط میں، کاتب کا نام غیر موجود، مخملی خول میں۔
- (۳) مصحف شریف مجموعہ کی شکل میں، کوفی خط، درمیانی سائز سبز مخملی خول میں۔
- (۴) مصحف شریف چھوٹی سائز محمد امین وہبی کا لکھا ہوا۔ سنہری حروف، دباغت دی گئی بکری کی کھال پر، چاندی کے بستہ میں، اس پر تاریخ سن ۱۲۶۶ھ درج ہے۔ (دیوان ہمایوں میں سابق ابن مترجم کا وقف کردہ۔)
- (۵) مصحف شریف چھوٹی سائز میں، شعبان بن محمد کا لکھا ہوا۔ چاندی سے منقش، چاندی کے بستہ میں اس پر درج تاریخ سن ۱۹۴۴ھ خورشید آفندی کا وقف کردہ، مدینہ منورہ کے بحریہ کے سابق وزیر۔
- (۶) مصحف شریف کے تیس پارے، خط نسخ مہود میں، علی بغدادی کا لکھا ہوا، سورتوں کی ہیڈنگ، اول و آخر صفحہ مزین، آیات کا نشان فصل، عمدہ نقش و نگاری کا مرقع، حاشیہ میں قاضی بیضاوی کی تفسیر، قرأت سبوعہ کے اشاروں کے ساتھ، ہر صفحہ پر سات لائن امیر حج کتخدا عبدالرحمن قازد اعلیٰ کا وقف کردہ۔
- (۷) مصحف شریف کے تیس پارے، خط نسخ میں، علی رختوان کا لکھا، سورتوں کا عنوان اور اول و آخر صفحہ منقش و مزین آیتوں کا علامت وقف (فصل) سونے سے مزین، حاشیہ میں قرأت سبوعہ، ہر صفحہ پر نو لائن لکھاوٹ، یہ نسخہ بھی مذکورہ امیر الحج کا وقف کردہ۔
- (۸) مصحف شریف کے تیس پارے، خط نسخ مود میں، علی رختوان کے ہاتھ کا لکھا، سورتوں کا عنوان اور اول و آخر صفحہ منقش و مزین، آیتوں کا نشان فصل سونے سے مزین، ہر صفحہ پر نو لائن، امیر الامراء ابراہیم کتخدا کا وقف کردہ۔
- (۹) مصحف شریف، مصطفیٰ دودہ بن احمد شہر کے خط کا، اس کا پہلا صفحہ، سورتوں کی ابتداء، حزبوں کے اشارے اور آخری صفحہ سنہری نقوش سے مزین، فارسی طریقہ پر، پرانے ماڈل کی جلد سازی، سونے کے ابھرے گلاب اور ان میں نگینہ، اس مصحف کے بستہ کا غلاف تیرانوے چھوٹے بڑے سرخ یا قوت سے بنا بتیس سبز مرد جزا، جلد سونے کی، جلد کی دوسری جانب تیس سرخ یا قوت کے ٹکڑے، درمیان میں سونے کی تزئین کاری، چار سبز مرد کے ٹکڑوں کے ساتھ، بستہ کا اندرونی غلاف، نقش و نگار سے مزین، اس کے اوپر سونے کی ایک تختی پر لکھا ہوا تھا، خادم الاسلام جنگی امور کا نگران انور پاشا نے وقف کیا۔ صرف اس کا بستہ تین ہزار لیرہ (عثمانی دور) کا ہے۔
- اس مصحف کا رکھل بھی ہے جو چاندی سے قلعی کیا گیا ہے۔ آٹھ اوقیہ اس کا وزن ہے۔ اس پر مذکورہ بادشاہ کا نام کندہ ہے۔ رکھل پر تین تختیاں ہیں۔ پہلی تختی اوپر ہے جس پر لکھا ہے: ”شفاعت رسول اللہ! شفاعت سلطان احمد بن محمد خاں کی“ اس تختی کے بیچ میں ایک چوکور ہیرا چمکتا ہوا جزا ہے۔ دوسری تختی درمیان میں ہے۔ اس پر سنہرے دائرے میں لکھا ہے ”دستور رسول اللہ!“ اور نیچے سلطان احمد بن محمد خاں کا نام لکھا ہے۔ اس تختی کے بیچ میں بھی دو ہیرے ہیں ایک بیضوی اور دوسرا چوکور (مربع) بیضوی کی پشت پر لکھا ہے ”شفاعت رسول اللہ“ تیسری تختی چاندی کی میڈل کی طرح۔ دوسری تختی سے پیوست اسکے بیچ میں بادام کی طرح کا ہیرے کا ٹکڑا۔ اور اسی کے ارد گرد چنے سے تھوڑا چھوٹا یا قوت کے چودہ دانے، پھر اس یا قوت کے بغل میں چودہ دانے چنے برابر ہیرے کے ٹکڑے، پھر اس سے متصل بھی چھوٹے چھوٹے پندرہ مختلف شکل کے چرہ برابر ہیرے۔
- چوتھی تختی محراب نما تھی۔ جس پر عمانی پتھر تھا، اس کی لمبائی میں یہ عبارت درج تھی ”اس مقدس مقام میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، شفاعت یا رسول اللہ“ تمہارا بندہ سلاح دار پاشا۔ ۱۰۳۶ھ تختی کے اوپر یا قوت کے چودہ ٹکڑے اور ایک ہیرا جزا ہے۔

(۱۱) ہیروں سے مزین ایک تختی جس پر کلمہ توحید نقش ہے۔ یہ تختی عادلہ سلطان، سلطان محمود ثانی کی بیٹی اور سابق صدر اعظم محمد عارف پاشا کی زوجہ کی وقف کردہ ہے۔

(۱۲) بیضوی شکل کا سونے کا طغری، اس کی زمین سرمئی رنگ کی، قیمتی پتھروں سے مزین اس کے اندر محمود ثانی عبدالحمید لکھا ہوا۔ اس کو لٹکانے کے لیے اس میں سونے کی زنجیر جس میں پینتالیس ہیرے جڑے ہیں۔ سلطان محمود خان ثانی نے اس کو وقف کیا۔

(۱۳) سونے کا طغری سبز سرمئی زمین کے ساتھ، بیضوی شکل کا قیمتی پتھروں سے مزین، اس پر سلطان سلیم کا نام لکھا ہوا ہے، لٹکانے کے لیے سونے کی زنجیر، ترپن ہیروں سے مزین سلطان سلیم خاں ثالث نے وقف کیا۔

(۱۴) چھ کونہ زمررد کا طغری دونوں کناروں پر سونے کا ہاتھ اور ہیرے جڑے ہیں بیچ میں قبہ نما بڑا ہیرا۔ آویزاں کرنے کے لیے سونے کی زنجیر، زنجیر کے اوپری حصہ میں یاقوت، نچلے حصہ میں اکاون ہیروں کے ٹکڑے۔ اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل عربی شعر لکھا ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

آپ کی عنبری مٹی سیسہ پگھلا دے گی۔ اور جو آپ کے مقصد مبارک (قبر) کی طرف نظر کرے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، امید کہ ان کے ذریعہ شفاعت نصیب ہوگی۔ اور رحمت الہی کا نزول ہوگا۔

(۱۵) اس روضہ مبارک کے مکیں پر ہزاروں درود و سلام نازل ہو۔ یہ طغری سلطان مصطفیٰ خاں بن احمد کا ہدیہ کردہ ہے۔

(۱۶) طغری سونے کے ڈھکن کے ساتھ، روزا پتھر سے مزین اس پر ایک شعر لکھا ہے ڈھکن پر زمررد کا ایک گول ٹکڑا، سونے سے گھیرا ہوا۔ ڈھکن کے نچلے حصہ میں زمررد کا چھ کونہ ایک بڑا ٹکڑا اس کے نیچے اسی جیسا ایک دوسرا اسی سے تھوڑا چھوٹا ٹکڑا، چاروں طرف روزا پتھر کا جڑاؤ۔ بیچ میں چھوٹے بڑے موتی۔ آویزاں کرنے کیلئے سونے کی زنجیر (شعر)

اے وہ قبر! جس سے اصفیاء کے قلوب وابستہ ہیں۔ اور جس سے نورانی کرنیں (تجلی) پھوٹی ہیں۔ یہ چمکتے موتی سلطان عبدالحمید خان نے روضہ انور کے لیے ہدیہ کیا ہے۔

(۱۷) تختی شکل کا طغری، تین عدد، بڑی سائز کا، ان میں ایک لمبا، دو مثلث، تینوں زمررد سے مرصع، موتی جڑے، نگینہ و ہیرے سے آراستہ بغیر زنجیر کے۔

(۱۸) جھنڈے کے شکل کا طغری ایک کنارہ سونے کا دوسرا چاندی کا، قیمتی پتھروں اور موتیوں سے آراستہ بیچ میں پانچ بڑے جوہر، چاندی کی زنجیر۔

(۱۹) مچھلی شکل کا طغری، گلاب کی طرح سونے سے ملمع انڈین بناوٹ کا، اس کے بیچ میں لعل بدخشاں، اوپر چھوٹا جوہر نیچے چھوٹا جوہر اور ان سب کو کیربی نام کا یاقوت گھیرے ہوئے۔ پھر یاقوت کے نیچے زبرجد اور زمررد کے پانچ ٹکڑے۔ فیروز کا ایک ٹکڑا اور لعل بدخشاں کے بارہ ریزے، روزا کے تین ٹکڑے نیچے ایک قطار میں زبرجد اور فروز۔ اسی طرح اوپر بھی۔ (۲۰) قدیم زمانے کا سونے کا پانی چڑھا تاج، یاقوت کے چالیس ٹکڑے زمررد کے بیس، موتی کی دوڑیاں اور بیچ میں بڑے زمررد کے ٹکڑے سے مزین۔

(۲۱) چاندی کا قندیل لٹکانے کا ہینگر، نیچے سے کھلنے کی کھڑکی، گلاب کے پھول کی شکل قیمتی پتھروں سے مزین لٹکانے کے لیے زنجیر کے ساتھ نافذ پاشا کی بیوی محترمہ نوری کا ہدیہ کردہ۔

(۲۲) قندیل لٹکانے کے لیے چاندی کا ہینگر، نیچے سے کھلنے والا، گلاب کی شکل کا قیمتی پتھروں سے مزین لٹکانے کے لیے، زنجیر کے ساتھ، نافذ پاشا کی بیٹی محترمہ فاطمہ کا ہدیہ کردہ۔

(۲۳) قندیل لٹکانے کے لیے سونے کا ہینگر، قیمتی پتھروں سے آراستہ، اڑتیس چھوٹے بڑے گلاب زنجیر کے ساتھ سلطان محمود خان کا ہدیہ کردہ۔

(۲۴) قندیل لٹکانے کے لیے سونے کا ہینگر۔ بلوری قندیل شکل کا چھ نگینوں اور قیمتی پتھروں سے مرصع، سلطان سلیم خاں ثالث کی ماں مہر شاہ سلطانہ کا ہدیہ۔

(۲۵) قندیل لٹکانے کیلئے سونے کا ہینگر، زمررد، یاقوت، ہیرے اور دیگر قیمتی پتھروں سے آراستہ، زنجیر سونے کی۔



(۲۶) قندیل لٹکانے کے لیے سونے کا ہینگر، یاقوت، ہیروں سے مزین، غلاف بھی سونے کا اس پر پچپن موتی کا جزاؤ، موتیوں کی زنجیر۔  
 (۲۷) قندیل لٹکانے کے لیے سونے کا ہینگر، دونوں کنارے زمر کے اور بیچ میں تین ٹکڑے چھوٹے زمر کے زنجیر سونے کی۔  
 (۲۸) چاندی کا ہینگر، دو قطار روزا پتھر سے آراستہ، پہلی لائن میں چھتیس اور دوسری لائن میں بارہ پتھر تھے۔ زنجیر کے ساتھ۔  
 (۲۹) چاندی کا ہینگر، ہیرے کی دو زنجیریں لگیں، مختلف پتھروں سے مزین۔  
 (۳۰) جھومر لٹکانے کا ہینگر، بعض زمر اور یاقوت کے ٹکینوں سے آراستہ، منہ چاندی کا اور بیچ سونے یا قوت اور زمر سے آراستہ و پیراستہ۔ سلطان احمد خاں ثالث کا ہدیہ۔

(۳۱) قندیل لٹکانے کا ہینگر، نیچے سے کھلنے والا، مختلف گلابوں کے ساتھ سونے کی تین دھاری زنجیر۔  
 (۳۲) سونے کا ہینگر قندیل کے لیے۔

(۳۳) چھوٹا سا سونے کا ہینگر قندیل کے لیے، سونے کی زنجیر کے ساتھ۔  
 (۳۴) قندیل آویزاں کرنے کے لیے خالص سونے کی پچتر زنجیریں، سلطان محمد خاں ثالث کا ہدیہ۔  
 (۳۵) بڑا گلاب تین قسم کے ہیروں سے مرصع، اس کے ساتھ دو زنجیریں محمد علی پاشا والی مصر کی زوجہ زیبا کا ہدیہ۔  
 (۳۶) گلاب چار قسم کے ہیروں سے مزین اس کے اوپر ڈھائی قیراط کا پتھر، سلطان محمود خاں ثالث کی بیوی محترمہ خوشیار قادین کا ہدیہ۔  
 (۳۷) روزا پتھر سے مزین گلاب، عبدالعزیز بیگ کی زوجہ محترمہ فاطمہ کا ہدیہ۔  
 (۳۸) گول شکل کا گلاب، نو چاندی کی شاخوں والا، روزا پتھر سے مزین نافذ پاشا کی بیوی نورس خاتون کا ہدیہ۔  
 (۳۹) چاندی کے اسٹینڈ پر ہیروں سے مزین گلاب، عباس پاشا کی ماں کا ہدیہ۔  
 (۴۰) انڈین ہیروں سے مزین گلاب، بیچ میں زمر اور موتیوں کا جزاؤ، اوپری سطح یا قوت سے مرصع، حاکم ہند کی بیگم کا ہدیہ۔

(۵۱) قرآن کریم رکھنے کا سونے کا چھوٹا بستہ، موتیوں اور یاقوت و فیروز سے مرصع۔

(۵۲) قرآن کریم رکھنے کا سونے کا چھوٹا بستہ، فیروز و یاقوت کے پتھروں سے مزین

(۵۳) بستہ کے اندر چاندی کا رکھل، چونکیدار رئیس عمر آغا کا ہدیہ۔ ۱۲۳۱ھ

(۵۴) مکھی پروف ڈھکن سونے کا پانی چڑھا، اس پر یاقوت و زمر کے پتھروں کی تزئین کاری۔

(۵۵) تلوار چاندی چڑھی، دستہ ٹوٹا، دہائیوں کے زمانہ سے باقی۔

(۵۶) مشرقی بناوٹ کی تلوار، اس پر سورہ نصر لکھی ہوئی اور آیت کریمہ (انا فتحنا لک.....) لکھا ہوا، اس کا دستہ چاندی کا۔

(۵۷) عطر دان سونا چڑھا۔ اس کا سر اور پایہ ہیروں سے مرصع۔ دو عدد۔

(۵۸) سونے کا عطر دان، اس کا سر اور بیچ کا حصہ ہیروں سے مرصع۔ سلطان محمود خاں ثانی کی اہلیہ خوشیار قادین کا ہدیہ۔

(۵۹) سونے کا عطر دان، چار پایوں والا، نقش و نگار اور ہیروں سے مرصع، یہ بھی مذکورہ خاتون خوشیار قادین کا ہدیہ۔

(۶۰) لوبان کا ڈبہ، اس کا ڈھکن بارہ ہیروں سے مزین، چاروں طرف سے ہیرے جڑے ڈھکن کے پیچھے شاہی محل (استنبول) کا فوٹو، مذکورہ خاتون

کا ہدیہ۔

(۶۱) عطر دان، لوبان دان اور ایک تہی مختلف رنگوں کی۔ والی مصر الہامی پاشا ابن عباس پاشا کی ماں کا ہدیہ۔

(۶۲) سونے کا عطر دان اور لوبان دان بغیر ڈھکن کا خدیجہ سلطان کا ہدیہ۔

(۶۳) لوبان دان اور عطر دان، اناناس کے پتوں سے مزین ۲ عدد والی مصر عباس پاشا کا ہدیہ۔

(۶۴) لوبان سلگانے کے لیے سونے کی بالٹی ۳ عدد۔

(۶۵) عطر دان سونے کا ہندوستانی ہیروں سے مزین اوپری سرے پر زمر دا اور یا قوت کے پتھروں سے مزین حاکم ہند کی بیگم کا ہدیہ۔

(۶۶) سونے کا لوبان دان، انڈین بناوٹ کا دو عدد۔

(۶۷) سونے کا شمع دان اور ایک دسترخوان نیچے چمڑا، سلطان عبدالمجید خان کی ماں کا ہدیہ۔

(۶۸) سونے کا محراب نما شمع دان ۲ عدد، والی مصر محمد علی پاشا کا ہدیہ۔

(۶۹) سونے کی چادر اور شمع دان ۶۲۸۰ ہیرے کے ٹکڑوں سے

مزین۔

شمع دان دو عدد، سونے کی شمع دو عدد، شمع دان کے لیے طبلہ سونے کا ۲ عدد۔ سلطان عبدالمجید خان کا ہدیہ۔

(۷۰) شمع کا دستہ سونے کا چھوٹا بڑا ۴۱ عدد۔

(۷۱) لوبان دان سونے کا ہیروں سے منقش، عود رکھنے کی جگہ چاندی کی سلطان عبدالمجید خان کی بیٹی جمیلہ سلطان کا ہدیہ۔

(۷۲) زمر دا اور موتیوں سے مزین ہینگر، درمیان میں ”اللہ“ اور ”محمد“ ”فاطمہ“ ”حسن“ اور ”حسین“ لکھا ہوا۔ سلطان محمد خان ثانی کی بیٹی عادلہ سلطان

کا ہدیہ۔

(۷۳) ستارہ نما چھوٹا ہینگر۔

(۷۴) اسی طرح کا دوسرا ہینگر۔


(۷۵) اسی طرح کا تیسرا ہینگر، ان تینوں کا پتھر ایک دوسرے سے جدا گانہ۔

(۷۶) تلوار کا ٹکڑا، سونے سے اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ”لا الہ الا اللہ، لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار“ اور اسی کے دستہ پر ”محمد رسول

اللہ“ لکھا ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ ترکی زبان میں اشعار لکھے ہوئے، لوہے کی نیام سونے کا پانی چڑھا، سونے سے مزین، اس کے نیچے میں یہ عبارت لکھی

ہوئی ”من بوابی الحجر المعطرۃ عنبراً غاصحاً“ محراب کا شمع دان سونے کا دو عدد، سونے کا طبلہ دو عدد، سلطان محمود خان ثانی کا ہدیہ۔





ٹاپ کاپے ترکی میوزیم میں موجود تبرکات نبوی  
ﷺ والے کمرہ اور صندوق کی تصویر

یہاں صندوق ہیں اس میں سے ایک میں رسول اللہ ﷺ کا قلم مبارک ہے  
اور دوسرے میں رسول اللہ ﷺ کی چادر مبارک ہے (ٹاپ کاپے میوزیم استنبول)



## رسول اللہ ﷺ کا عصائے مبارک

رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک سے زائد عصائے پاک تھے، جیسا کہ ابن قیم جوزی نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس ایک لکڑی (چھڑی) تھی جو ایک ہاتھ یا کچھ اس سے لمبی تھی، جس کا نام ”عرجون“ تھا۔

ایک عصا تھا جو صنوبر کے درخت کا تھا جس کا نام معوق تھا، اور یہی اکثر خلفاء کے پاس تھا۔

امام جلال الدین سیوطی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے اپنی جامع الاحادیث میں حضرت عطاء رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سے روایت کی، جب نبی پاک ﷺ خطبہ دیتے تو عصا پر ٹیک لگاتے۔

بذاز و طبرانی نے حضرت جابر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی، نبی پاک ﷺ نے فرمایا: میں منبر اختیار کرتا ہوں اس لیے کہ میرے دادا

حضرت ابراہیم عَلِيهِ السَّلَام نے اسے لازم پکڑا اور میں اس پر عصا لیتا ہوں اس لیے کہ میرے دادا حضرت ابراہیم عَلِيهِ السَّلَام نے اسے لازم پکڑا۔

سیرت ابن ہشام میں ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے، اپنی اونٹنی پر سوار کعبہ


شریف کا طواف کر رہے تھے اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، نبی پاک ﷺ اپنے ہاتھ میں عصائے مبارک سے ان بتوں کی جانب اشارہ کرتے اور ارشاد فرماتے:

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقُ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ {81}

(سورہ اسراء)

تَرْجَمَةً: حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔

پس آپ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ اونداھا گر پڑتا، یہاں تک کہ کوئی بت سیدھا باقی نہ بچا۔



ٹاپ کا پی ترکی کے میوزیم میں ایک عصا ہے۔ جس کے لئے لکڑی کا خول تیار کر کے دونوں سروں کو سونے، چاندی سے مزین اور نقش و نگاری سے بھر کر رکھا گیا ہے۔



تصویر: رسول اللہ ﷺ کا عصا مبارک اور اس کا خول۔

دونوں سروں پر سونے کا نقش و نگار بعد میں بنایا گیا۔ دونوں خولوں کے سرے پر سونے سے آیات قرآنی کندہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے آخری زمانہ میں آپ کے مصلیٰ پر ایک چھڑی (لکڑی) رکھی گئی جس پر آپ ٹیک لگاتے جب سجدے سے اٹھتے یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔

ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک سے نقل کر کے یہ حکایت اپنی کتاب میں یوں ذکر کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ایک چھڑی کا سہارا لیتے۔ جو قبلہ میں تھی۔ پھر دائیں یا بائیں دیکھتے، جب صفیں درست ہو جاتیں تو تکبیر کہتے۔

بیان لیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یہ چھڑی غائب ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسے نہ پاسکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے ایک انصاری شخص کے یہاں پالیا۔ اس نے اس کو ریز میں دفن کیا تھا یہاں تک کہ اس کا بعض حصہ دیمک کھا گیا۔ حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اسی کے برابر دوسری چوڑی لکڑی منگوائی اور اس کو چیر کر اس کے اندر رسول اللہ ﷺ کی چھڑی رکھ دی (اس کے بعد اس کو قبلہ کی دیوار میں نصب کرادی)۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی تعمیر نو میں اس کو مقصورہ کی دیوار یعنی موجودہ عثمانی محراب کے بغل میں منتقل کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے منسوب اشیاء سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور اس کی عزت و تکریم کرنا ضروری۔ کیوں کہ صحابہ کے عمل کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔


## رسول اللہ ﷺ کے اگلے دندان مبارک

اسلامی میوزیم استنبول میں امانت مقدسہ واڈ کے تحت سونے کا صندوق ہیرے جواہرات سے مزین و مرصع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر سونے کے ڈبے میں رسول اللہ ﷺ کے اگلے دندان مبارک کے اجزاء ہیں۔ جو مدینہ منورہ میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ دشمن خدا عقبہ بن ابی وقاص نے پتھر چلایا تھا اور آپ کے دائیں طرف کے نچلے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے۔ نبی پاک ﷺ نے اس کے لیے بددعا کی ”اللَّهُمَّ لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا“ اے اللہ! ایک سال کے اندر اس کو کافر مارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور اس دن حضرت حاطب بن بلتعہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس کے پیچھے لگے اور جس نے رسول اللہ ﷺ کے دندان مبارک شہید کیے اس ظالم کا سرتن سے جدا کر کے چین لیا۔ اس کا گھوڑا اور کمان لے کر نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر آئے تو رسول اللہ ﷺ کے لہجہ مبارک پر ان کے لیے دعائیہ کلمات چل رہے تھے ”رَضِيَ اللهُ عَنْكَ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ“ تَرْجَمَكَ اللهُ تَجَّهْ مِنْ رَضَى هُو۔



ہیرے جواہرات سے مزین و مرصع صندوق اس کے اندر سونے کے ڈبے میں رسول اللہ ﷺ کے اگلے دندان مبارک کے اجزاء ہیں





استنبول، توپ کا پی سرائے میں موجود حضور کے دندان مبارک کا نظارہ



زیر نظر تصویر سونے و ہیرے جواہرات سے معمور بکس کی ہے اس میں آپ ﷺ کا بال مبارک محفوظ ہے یہ صندوق استنبول میں توپ کا پے نامی عجائب گھر میں موجود ہے۔



صندوق کے اندر کا سونے کا ڈبہ جس کے  
اندر رسول اللہ ﷺ کے دندان مبارک کا  
حصہ ہے۔ (توپ کاپی ترکی)




جنگ احد میں جو دانت حضور کا شہید ہوا تھا وہ سونے اور جواہرات سے  
مزین اس صندوق میں موجود ہے۔




## رسول اللہ ﷺ کے سرمہ لگانے کی سلائی


مسجد سیدنا حسین قاہرہ (مصر) میں رسول اللہ ﷺ کے تبرکات کے ضمن میں آپ کے سرمہ لگانے کی سلائی بھی محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے، کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک سرمہ دانی میں سلائی تھی جس سے سونے کے وقت دونوں آنکھوں میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے۔ سنن محمدیہ میں انھیں سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سفید کپڑے پہنوبے شک وہ عمدہ کپڑا ہے، اسی میں اپنی میتیں دفن کرو اور سب سے عمدہ سرمہ ”اشد“ ہے۔ اس سے آنکھ روشن ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں۔ طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت کی: پانچ چیزیں رسول اللہ ﷺ سفر و حضر میں نہیں چھوڑتے تھے، آئینہ، سرمہ، کنگھا، بال سیدھا کرنے کا آلہ اور مسواک۔



طے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے  
لگائیں سرمہ نہ پھر زہار آنکھوں میں  
(حضور مفتی اعظم ہند نوری)




حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی مبارک آنکھوں میں سرمہ لگانے کیلئے استعمال ہونے والی سلائیاں مصر کے میوزیم میں موجود ہیں۔



## حضور ﷺ کا جبہ مبارک



یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ ﷺ کا خرقہ (جبہ) مبارک موجود ہے  
یہ عمارت افغانستان میں ہے



### حضور ﷺ کا پر نور جبہ مبارک


حضرت اسماء بنت ابوبکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے پاس رسول اللہ ﷺ کا جبہ پاک تھا۔ اس کے متعلق خود فرماتی ہیں۔


”هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضْتُ، قَبِضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرَضِيِّ يَسْتَشْفِي بِهَا.“ (صحیح مسلم شریف)

ترجمہ: یہ (جبہ) حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے پاس تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے لے لیا۔ نبی پاک ﷺ اسے زیب تن فرماتے تھے۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہم اس دھو کر پلاتے تھے۔



### مسجد خرقہ شریف (افغانستان)






سونے سے بنا صندوق: اسمیں حضور ﷺ کا جبہ مبارک محفوظ ہے۔  
وہ خاص سونے کا صندوق جس کے اندر رسول اللہ ﷺ کا جبہ شریف محفوظ ہے۔ اس کے اوپر قرآنی آیات کندہ ہیں اس کو  
بنائے کا حکم عبدالعزیز نے دیا تھا۔ ان کا نام بھی صندوق کے اوپر کندہ دیکھا جاسکتا ہے۔

### حضور ﷺ کا شفا یاب جبہ

صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے:  
حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رسول اللہ ﷺ کا جبہ پاک تھا۔ اس کے متعلق خود فرماتی ہیں۔  
”هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قَبِضَتْ، قَبِضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرَضِيِّ يَسْتَشْفِي بِهَا.“  
ترجمہ: یہ (جبہ) حضرت عائشہ کے پاس تھا، یہاں تک ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے لے لیا۔ نبی پاک ﷺ اسے زیب تن فرماتے تھے۔  
مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہم اسے دھو کر پلاتے تھے۔



رسول اللہ ﷺ کا جبہ شریف اس ریشمی سبز کپڑے میں لپٹا ہوا ہے جس کے اوپر سونے، چاندی کے تاروں سے نقش و نگار بنے ہیں۔



بادشاہی مسجد میں موجود حضور ﷺ کا جبہ مبارک




آپ ﷺ سے منسوب جبہ مبارک



## موئے مبارک

خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف سے منسوب ”موئے مبارک“ جو استنبول کے ”توپ کاپی“ نامی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس عجائب گھر میں جو پہلے سلاطین عثمانیہ کا محل تھا، حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تلواریں، نیز اور بہت سے نوادرات اور یادگار تاریخی اشیاء محفوظ ہیں جو سلاطین آل عثمان بغداد سے لے کر آئے تھے۔






مندرجہ بالا سونے کے صندوق کے اندر ایک دوسری سونے کی  
چھوٹی الماری ہے اس کے اندر جبہ رسول محفوظ ہے۔

# ٹاپ کاپی میوزیم میں موجود


ریشمی نقش و نگار والے کپڑوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ کا جبہ پاک ہے۔



روضۃ النبی ﷺ کی مٹی مبارک



حضور ﷺ کے روضہ مبارک کی پر نور مٹی مبارک  
(توپ کاپی) میوزیم میں موجود ہے۔



ترکوں کے جذبہ عشق رسول ﷺ کو داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ وہ سرکار  
دو عالم ﷺ سے منسوب ہر چیز کو مقدس مانتے ہوئے اس کی حفاظت  
کر رہے ہیں زیر نظر تصویر ترکی کے ایک میوزیم میں رکھے گئے سونے اور  
چاندی کے منقش بکس کی ہے جس میں گنبد خضریٰ کی صفائی کے دوران  
جھڑنے والی مقدس ریت رکھی ہوئی ہے۔



استنبول، توپ کا پی سرائے، رسول اللہ ﷺ کے دائیں قدم مبارک کا نشان



حضور ﷺ کا پیالہ مبارک

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ پیالہ جس میں انہوں نے ہجرت کے وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پانی پیش کیا تھا ۱۲۰ء میں اس پیالہ پر چاندی چڑھائی گئی اب یہ توپ کا پی میوزیم ترکی میں موجود ہے  
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کیلئے رات کا کھانا تیار کر کے ان کے پاس بھیجے، کھانا تناول فرما کر باقی ماندہ جب واپس آتا تو میں اور میری بیوی ہم دونوں برتن کو سونگھتے یہاں تک کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی دست مبارک لگنے کی جگہ کا سراغ مل جاتا پھر اسی جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے۔

## رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے

خلفائے راشدین اور اس کے بعد خلفائے عباسیہ نے رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے استعمال کیے اور خلافت عثمانیہ کے شروع تک رسول ﷺ کا وہ جھنڈا جو فتح خیبر کے دن سن سات ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا استعمال میں تھا۔ وہ سرخ رنگ کا تھا، جس کو خلافت عثمانی میں سبز کپڑے پر نصب کیا گیا۔ اس کے گرد عشرہ مبشرہ کے نام درج کیے اور وہی آج ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس متعدد جھنڈے تھے، جو جنگوں میں بلند کیے جاتے تھے۔ ایک کا لاکھا جس کا نام ”عقاب“ تھا اور چند سفید، پیلے اور سرخ تھے۔ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا جھنڈا سیاہ تھا، اور علم سفید تھا جس پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ لکھا تھا۔

مجمع الزوائد میں امام احمد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا اور انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا اور جب میدان کا رزار گرم ہوتا تو نبی پاک ﷺ انصار کے جھنڈے کے نیچے ہوتے۔



سرخ رنگ والا حصہ رسول اللہ ﷺ کے جھنڈا ہے جسے فتح خیبر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا کیا۔

## حضور ﷺ کی دستار مبارک کا جھنڈا

سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے آگے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنی دستار اتاری اور نیزہ پر باندھی اب سفر جاری ہے۔ سیدنا بریدہ جھنڈا لیے آگے چل رہے ہیں۔ (زرقانی)



رسول اللہ ﷺ کا سرخ جھنڈا خلافت عثمانیہ میں سزاوونی کپڑے پر نصب کیا گیا اور بعد میں اس پر عشرہ مبشرہ کے نام درج کیے گئے۔ (توپ کاپی ترکی)

## رسول اللہ ﷺ کے عمامہ شریف

رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ سے متعلق کتابوں میں آپ کے عمامہ شریف کے تعلق سے تین رنگوں کا ذکر آتا ہے۔ کالا، سفید، اور پیلا۔ فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے کالا عمامہ لگایا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کیسے عمامہ پہنتے تھے؟ تو سر کے اوپر لپیٹتے تھے اور آخری سر اچھے لاکر کھوتے تھے۔

ابن سعد اپنی کتاب ”طبقات“ میں ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنے کپڑے، قمیص، چادر اور عمامہ زعفران میں رنگتے تھے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے جسم اقدس پر زرد قمیص، زرد چادر اور زرد عمامہ تھا۔

حضرت علی بن طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے جنگ بدر و حنین کے دن فرشتوں سے ہماری نصرت فرمائی۔ وہ فرشتے ایسا عمامہ باندھتے ہوئے تھے۔ بے شک وہ عمامہ کفر و ایمان کے مابین خط فاصل ہے۔ (طیالسی و بیہقی نے روایت کی)

ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت کی آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے اکثر فرشتوں کو عمامہ میں ملبوس دیکھا۔

ابن عساکر اور سیوطی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے حضرت عبداللہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی، زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے اوپر جنگ بدر کے دن زرد چادر تھی تو انہوں نے اس کا عمامہ لپیٹ لیا۔ پس فرشتے زرد عماموں میں اترنے لگے۔ نبی پاک ﷺ کے عمامہ سے متعلق متعدد روایتیں درج کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم سے بھی متعلق حدیثیں درج کی ہیں۔ خاص کر حضرت امام علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے عمامہ باندھنے کی روایت درج کی ہیں۔

جامع الاحادیث میں حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے، کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے غدیر خم کے دن عمامہ باندھا اور آخری کونہ پیچھے لٹکایا، اور دوسری روایت میں ہے کہ دونوں کناروں کو میرے شانہ پر لٹکایا، پھر ارشاد فرمایا: اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے فرشتوں کے ذریعہ یہ عمامہ کفر و ایمان کے درمیان خط امتیاز ہے۔


حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو عمامہ لپیٹا اور چار انگلی برابر لٹکایا اور فرمایا: جب میں آسمان پر چڑھا (معراج) میں نے اکثر فرشتوں کو اس طرح عمامہ میں دیکھا۔



تصویر: رسول اللہ ﷺ کا عمامہ شریف



سفر شام کی تجارت کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ  
قیام فرمایا تھا یہ جگہ بصرہ میں موجود ہے۔



سفر شام میں جس جگہ رسول اللہ ﷺ نے قیام فرمایا  
وہاں کا اندرونی منظر



## مہر نبوت

عربی زبان میں لفظ ”خاتم“ کا ترجمہ مہر کرنے سے یہ التباس ہوتا ہے کہ انگوٹھی مراد ہے یا وہ مہر نبوت جو آپ کے جسم اقدس میں دونوں شانوں کے درمیان تھا۔ لہذا اس امر کی وضاحت یہاں ضروری ہے۔ پس مہر نبوت کسی میوزیم میں محفوظ نہیں۔

صحیح بخاری شریف میں، حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں: مجھے میری خالہ لے کر نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی یا رسول اللہ! (ﷺ) یہ میری بہن کا بچہ ہے اس کو درد ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو گھوڑے کی دونوں آنکھوں کے درمیان سفیدی کے مانند تھا۔ (حوالہ: بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اس مہر نبوت کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں: چھوٹا انجیر سفیدی مائل قفا سے ملا ہوا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو میں نے اس کو چھوا تو وہ غائب تھا۔

حضور ﷺ کی مہر مبارک: یہ حضور ﷺ مہر سرداران عرب کو بھیجے جانے والے خطوط پر لگاتے تھے۔



## رسول اللہ ﷺ کی مہر Stamp

سونے کی ڈبیا میں اندر سے مخمل لگا، استنبول (ترکی) میں رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی مبارک کا نگینہ محفوظ ہے۔ جس سے آپ خطوط بند کرنے کے بعد اس پر مہر لگاتے تھے۔ رہی وہ مہر جس سے آپ خطوط کے اندر عبارت ختم ہونے پر دستخط کی جگہ استعمال فرماتے تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ سے کنویں میں گر پڑی اور اسے کوئی نہ پاسکا جیسا کہ کتب صحاح اور کتب سیرت سے ثابت ہے۔


لہذا معلوم ہوا کہ خطوط بند کرنے کے بعد بھی مہر لگتا تھا اور وہی آج ٹاپ کاپی کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ: قیصر روم کے نام گرامی نامہ لکھیں، لوگوں نے عرض کیا وہ بغیر مہر والے خطوط نہیں پڑھتے۔ آپ نے چاندی کی ایک انگشتری لی جس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا گویا آج بھی میں اس کی چمک آپ کے دست مبارک میں دیکھ رہا ہوں۔

حدیث متفق علیہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی ایک انگشتری لی، آپ کی انگلی میں تھی، آپ کے بعد حضرت ابوبکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی رہی، آپ کے بعد حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ میں رہی، آپ کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں رہی مگر آپ سے ”ارلیس“ کنویں میں گر پڑی۔ جس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔ (حوالہ: بخاری و مسلم)

خصائص کبریٰ میں سیوطی نے ابن عساکر کے حوالہ سے ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے فرمایا میری اس چاندی کی انگوٹھی پر ”محمد بن عبد اللہ“ نقش کرادو، وہ نقاش کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ ایسا نقش کر دو، نقاش نے کام شروع کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ ایسا مسخر کر دیا کہ اس نے ”محمد رسول اللہ“ نقش کر دیا۔

حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سے کہا: میں نے تم سے یہ نقش کرنے کو نہیں کہا۔ اس نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ہاتھ الٹ دیا۔ بخدا میں نے بھی یہ نقش بنانے کا ارادہ نہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا؟ یہ لے کر وہ نبی پاک ﷺ کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، آپ نے اپنے دست مبارک میں لیا اور تبسم ریز ہو گئے ارشاد فرمایا: ”انا رسول اللہ“ (میں اللہ کا رسول ہوں) (حوالہ: خصائل کبریٰ)

حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ مہر ثبت فرماتے اپنے داہنے ہاتھ سے، اور آپ کا وصال ہوا تو مہر (انگوٹھی) آپ کے داہنے ہاتھ میں تھی۔



زیر نظر تصویر آپ ﷺ کی انگوٹھی کے پتھر کی ہے جو کہ استنبول میں توپ کا پے نامی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔



## حضور ﷺ کی چادر مبارک

حضرت سہل بن سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کی یا رسول اللہ! (ﷺ) میں اس کو آپ کو پہنانا چاہتی ہوں۔ نبی پاک ﷺ کو ایسی چادر کی ضرورت تھی آپ نے اس کو قبول کیا اور زیب تن فرمایا۔ کسی صحابی نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! (ﷺ) کیا ہی عمدہ چادر ہے، اس کو آپ مجھے عنایت فرمادیں۔

تو آپ نے انہیں وہ چادر دے دی، جب نبی پاک ﷺ رخصت ہو گئے تو ایک صحابی نے انہیں ملامت کی کہ رسول اللہ ﷺ کو اس چادر کی ضرورت تھی تم نے اسے مانگ کر اچھا نہیں کیا۔

اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ ”نا“ نہیں فرماتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ شاید یہی میرا کفن ہو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہی چادر ان کا کفن بنی۔

(روایت بخاری)




تصویر رسول پاک ﷺ کے بردہ شریف کا صندوق جو سلہویں عیسویں میں بنایا گیا۔




## نبوی ذخائر

امام طبرانی رحمہ اللہ امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ ﷺ کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء تھیں:  
ایک تلوار جس کا دستہ و قبضہ چاندی کا تھا، اس کا نام ذوالفقار تھا۔




- ★ ایک کمان جس کا نام سدا تھا۔
- ★ ایک ترکش جس کا نام جمع تھا۔
- ★ پیتل کی زرہ جس کا نام ذات الفضول تھا۔
- ★ ایک چھوٹا نیزہ جس کا نام نبعاء تھا۔
- ★ ایک ڈھال جس کا نام دُن تھا۔
- ★ ایک سفید ڈھال جس کا نام موجز تھا۔
- ★ ایک ادہم گھوڑا جس کا نام سبب تھا۔
- ★ ایک دراز گوش (خچر) جس کا نام دلدل تھا۔
- ★ ایک اونٹنی جس کا نام قصواء تھا۔
- ★ ایک گدھا جس کا نام یعفور تھا۔
- ★ ایک بستر جس کا نام کر تھا۔
- ★ ایک بکری جس کا نام نمبر تھا۔
- ★ ایک چھوٹی ڈونگی (چھاگل) جس کا نام صاور تھا۔
- ★ ایک آئینہ جس کا نام مراة تھا۔
- ★ ایک قینچی جس کا نام جامع تھا۔
- ★ ایک سوکھی ہوئی شاخ (عصا) جس کا نام مشوق تھا۔



زیر نظر بکس میں حضور ﷺ کا جھنڈا مبارک محفوظ ہے چونکہ یہ 1400 سال پرانا ہے اس وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے اس لئے اس کو بکس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔



زیر نظر بکس توپ کا پی میوزیم میں خلافت عثمانیہ سے محفوظ ہے اس میں کیا ہے اسے احقر غلطی کی وجہ سے لکھنا بھول گیا ہے  
اب مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس میں کونسا تبرک محفوظ ہے اگر کسی کو معلوم ہو تو بتادے۔



توپ کاپی میوزیم میں موجود حضور ﷺ کے درجنوں تبرکات  
ایک نظر میں یہ تمام کے تمام زیر نظر قیمتی بکس میں محفوظ ہیں۔



خانہ کعبہ کی قدیم کنجی جو کہ ٹاپ کا پے میوزیم میں محفوظ ہے

سونے اور جواہرات سے مزین بکس میں حضور ﷺ کے  
روضہ مبارک کی خاک موجود ہے جو کہ اللہ کو اپنے عرش سے  
زیادہ محبوب ہے۔



## خانہ کعبہ کی 12 سو سال پرانی کنجی ایک کڑور اکیاسی لاکھ ڈالر میں نیلام

برہلی ہے اور اس پر یہ الفاظ کندہ ہیں "یہ کنجی خانہ  
کعبہ کے لئے خلیفہ مقتدی ابو جعفر اسعصر  
ابو اسباس کے دور میں تیار کی گئی ہے۔"  
خلیفہ ابو جعفر اسعصر کا دور تاریخ میں  
جبری سن کے مطابق 136 تا 138 اور  
عیسوی سن کے مطابق 754 تا 764  
تعلق کیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی  
یہ کنجی کم و بیش 12 سو سال سے  
پرانی ہے۔ ماہرین کی طرف سے  
آثار قدیمہ نے بھی کارروائی  
اس کی تصدیق کر دی اور تب انہیں  
کی ہے۔ چلا کہ نفسیاتی ادارے کا  
تو درحقیقت فریج فرس ہے،  
کے پاس کوئی لاجی مرکز، درس  
تھیاتی علاج گاہ چلانے کا لائسنس نہیں بلکہ  
فریج فرس کرنے کا لائسنس ہے۔

دنیا کے نفع کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا  
خانہ کعبہ کی یہ کنجی اس وقت کسی کی ملی ملکیت  
میں موجود قدیم ترین کنجی ہے جو ہیکل بارہا  
خلیفہ مقتدی ابو جعفر اسعصر ابو اسباس کے پردہ کی  
گئی تھی۔ روایت یہ تھی کہ یہ کنجی ایک کے بعد  
دوسرے عباسی خلیفہ کی تحویل میں رہتی تھی اور وہ  
اس کے محافظ و امانت دار تصور کئے جاتے تھے۔  
شواہد کے مطابق مجموعی طور پر خانہ کعبہ کی 58  
کنجیاں تیار کی گئی تھیں مگر وہ سب دنیا میں موجود  
نہیں ہیں۔ البتہ ان میں سے بیشتر دنیا کے بڑے  
عجاب خانوں میں محفوظ ہیں۔

یہ کنجی اس سے پہلے کسی لیبانی کے نوادر کے ذیلی  
ذخیرے میں شامل تھی اور اب اسے جس  
شخص نے خریدا ہے اس نے اپنا نام  
ظاہر نہیں کیا۔ ماہرین کا  
اندازہ

عہد اللہ نے  
پولیس سے رجوع کیا لیکن،


لندن میں گزشتہ دنوں ایک نیلام گھر کے  
اسلامی نوادر کے شعبے نے خانہ کعبہ کی 12 سو سال  
پرانی کنجی 92 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت کی جو ایک  
گروڈ 81 لاکھ ڈالر کے مساوی ہیں۔ اسلامی  
نوادر میں شمار ہونے والی کوئی چیز آج تک اتنی  
قیمت میں فروخت نہیں ہوئی۔  
یہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا  
ہے۔ نیلامی کے

روز مجموعی طور  
نوادر کے شعبے نے  
15 لاکھ پاؤنڈ کے نوادر  
فروخت کئے جو 4 کروڈ ڈالر  
کے مساوی ہیں، لیکن ان میں سب  
سے زیادہ قیمت اسی کنجی کی گئی۔


لوہے کی کنجی ہوئی یہ کنجی 37 سینٹی میٹر، یعنی  
تقریباً 15 انچ لمبی ہے اور فی الوقت اسلامی  
نوادر میں اسے اہم ترین شمار کیا جا رہا ہے کیونکہ  
یہ اس عمارت کی ماہی ہے جو دنیا بھر کے  
مسلمانوں کی نظر میں کائنات کی اہم ترین  
عمارت ہے جسے علامتی طور پر خدا کا گھر بھی کہا  
اتا ہے۔ قبول حال

قیمتی جواہرات سے مزین بکس میں حضور ﷺ کی دائرہی کا  
بال محفوظ ہے (توپ کاپی استنبول)






زیر نظر سونے اور جواہرات سے مزین بکس میں وہ قرآن محفوظ ہے جس سے حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تلاوت کیا کرتے تھے۔





ہرن کی کھال پر لکھا ہوا قرآن مجید۔ اس قرآن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شہادت کے وقت اسی قرآن سے تلاوت فرما رہے تھے اور اس پر موجود خون کے چھینٹے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔



توپ کاپی میوزیم میں موجود بیت اللہ کا دروازہ یہ کواڑ 1592ء میں استنبول لایا گیا سلطان ثالث کے حکم سے نیا کواڑ اس کی جگہ بیت اللہ میں لگایا گیا اور اس کواڑ کے پیچھے جو پردہ نظر آ رہا ہے وہ غلاف کعبہ سے بنایا گیا ہے۔





## رسول اللہ ﷺ کی تلواریں


سیرت طیبہ میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس نو تلواریں تھیں:

- ★ ایک تلوار کا نام ”ماثور“ اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی جس کو آپ مدینہ لائے۔
  - ★ ایک تلوار کا نام ”غضب“ تھا جسے حضرت سعد بن عبادہ نے جنگ میں آپ کو ہدیہ دیا۔ (وہ آج مصر میں موجود ہے)
  - ★ ایک تلوار کا نام ”ذولفقار“ ہے، رسول اللہ ﷺ کو جنگ بدر سے غنیمت کے طور پر ملی تھی (وہ آج ترکی میں ہیں) اس کے لیے نیا خول بنایا گیا ہے جو ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، اسی کی بابت رسول ﷺ نے خواب دیکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی کہ اس کی اصل لوہے کی ہے۔ وہ کعبہ شریف کے پاس مدفون پائی گئی۔
  - یہود کے بنوقیقاع کے غنائم سے رسول اللہ ﷺ کو تین تلواریں ملیں:
  - ★ ایک تلوار کا نام ”صمصام“ تھا جو عمرو بن معدی کرب کی تلوار تھی۔
  - ★ ایک تلوار کا نام ”قلعی“ تھا۔
  - ★ ایک تلوار کا نام ”خف“ تھا۔
  - ★ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک تلوار تھی جس کا نام ”رسوب“ تھا۔ اور وہی نویں تلوار ہے۔ جس کو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ دیا تھا۔
  - ★ ایک تلوار کا نام ”مخدم“ تھا۔ رسوب اور مخدم ایسی دو تلواریں ہیں جو بنو طے کے بت پر لٹک رہی تھیں۔
  - ★ ایک تلوار کا نام ”قضیب“ ہے۔
- استنبول میں موجود تلواروں میں ماثور اور ذوالفقار ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دیا تھا۔ ابن اثیر رحمہما اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن حسن بن علی کو منتقل ہوئی کیوں کہ انہوں نے ایک تاجر کو دی تھی جس کا ان پر قرض تھا۔ سنن نسائی و ابوداؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ انہیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کا نیام چاندی کا، اور دستہ بھی چاندی کا تھا۔ (حوالہ: نسائی داؤد)
- بزار نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ ﷺ نے جنگ احد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا کون اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابودجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماک بن خرشہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! (ﷺ) میں ادا کروں گا، ارشاد ہو اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا: کہ اس سے کسی مسلم کا خون نہ بہایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کافر سے مقابلہ کے وقت بھاگے۔ اس شرط پر آپ نے وہ تلوار ان کو عطا کر دی ابودجانہ تلوار لے کر نکلے اور میں ان کے پیچھے ہولیا۔ پس وہ کسی چیز سے نہیں گزرتے مگر یہ کہ اس کو دہلا دیتے۔ یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن میں کچھ عورتوں کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ہنرہ بھی تھیں۔ تو ان پہ تلوار سونتی تو انہوں نے صحراء میں آواز دی کسی نے ان کا جواب نہ دیا۔
- میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا، زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابودجانہ سے کہا کہ آپ کا ہر کام مجھے پسند آیا مگر یہ اچھا نہ لگا کہ ایک عورت کو قتل نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے آواز لگائی مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، تو مجھے گراں گزرا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مددگار نہیں۔
- رسول اللہ ﷺ کی تلواروں میں سے ”غضب“ آج مسجد امام حسین قاہرہ میں محفوظ ہے۔



تلوار کا قبضہ اور اس کا خول جو بعد میں  
قیمتی نادر پتھروں سے مزین کیے گئے۔






تصویر ناپ کاپی ترکی میں محفوظ قاضی تلوار






حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا قَرَّآن مَبَارَك جَو كَه قَاهِرَه مِیْن مَحْفُوظ هِیْن  
آپ ﷺ كِی تَلَوَار مَبَارَك سِیْف الغَضَب جَو كَه قَاهِرَه مِیْن مَوْجُود هِیْ



حَضُور ﷺ یَا حَضْرَت عَلِی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَه مَنَسُوب ذَو الْفَقَار نَامِی تَلَوَار (اِسْتَبُول)



توپ کا پے عجائب گھر میں محفوظ وہ تلواریں جو رحمت دو عالم، نبی السیف، صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین سے منسوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو دینار اور درہم نام کی کوئی چیز تر کے میں نہ تھی، البتہ آپ کے حجرہ مبارک میں موجود اسلحہ امت کو جہاد و قتال کی اہمیت یاد دلار ہا تھا۔ آپ کے بعد خلفاء راشدین اور وہ مسلمان بادشاہ جنہوں نے زہد و فقر اور جہاد کی راہ اپنائی ان کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اسلحہ چھوڑ کر عیش و آرام میں سکون تلاش کرنا شروع کیا اور اسلحہ رکھنے کے بارے میں تاویل سے کام لینا شروع کیا، زوال نے ان کا راستہ دکھ لیا۔ دوسری تصویر اس عجائب گھر میں محفوظ ایک خود (جنگلی ٹوٹی، ہیلمٹ) کی ہے جس پر کندہ کیا ہوا کلمہ طیبہ اور آیات مبارکہ صاف پڑھی جاسکتی ہیں۔



ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ نوادرات میں سے ان تلواروں کو حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو جس چیز کی تعلیم دی وہ انہوں نے پوری طرح سے اپنائی اور آپ کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کے چھوڑے ہوئے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ آپ ﷺ کی تربیت یافتہ اس جماعت نے اپنے وقت کی عظیم سلطنتوں کا مقابلہ کیا اور انہیں زیر کر کے اسلام کے قدموں میں لا ڈالا۔ اسلحہ کی یہ یادگاریں اور دنیا کے مختلف خطوں میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبور گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خدمت اور اس سے وفاداری نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ ﷻ ان سب سے اور ان کی برکت سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اور انہیں ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔





رحمت عالم ﷺ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی مقدس تلواریں۔



حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار





حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی مبارک تلواریں

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی قلعی نامی تلوار





حضور ﷺ اور صحابہ سے منسوب تلواریں



حضور ﷺ اور صحابہ سے منسوب تلواریں



حضور ﷺ اور صحابہ سے منسوب تلواریں




ٹاپ کاپی میوزیم میں موجود حضور ﷺ سے منسوب تلوار مبارک



تلوار ماثوراہ اس کا ٹمبل کا خول جس پر  
نقش و نگار بعد میں بنایا گیا ہے۔

حضور کی تلوار مبارک کا دستہ جو کہ مصر کے شہر قاہرہ کی مسجد الحسینی میں موجود ہے۔



حضرت محمد ﷺ کی وہ مقدس تلوار کہ جو ہمیشہ کفر و شرک کے خلاف بے نیام رہی اور جب تک شیعہ رسالت ﷺ کے پرہانوں نے اپنے آقا ﷺ کی جہاد کی سنت مبارک پر عمل کیا دنیا کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے مغلوب اور محکوم رہی مگر جیسے ہی اس سنتِ اعظم کو مسلمانوں نے چھوڑ کر طاقوس و ریاب کو اپنا یاد دہیا بھری ذلت ان کا مقدر بن گئی آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے کیلئے بے تاب ہے۔

## نقش پائے رسول اللہ ﷺ

بعض انبیائے کرام علیہم السلام کے نقش پادنیا کے مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں جن میں سیلون، شام، ترکی، فلسطین، مصر، طائف، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وغیرہ شامل ہیں۔ بعض مورخین اور محققین نے نقش قدم رسول کی نو شکلیں چھاپی ہیں۔

خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سے علماء نے فرمایا کہ جن انبیاء کو کوئی معجزہ یا فضیلت دی گئی اسی جیسی ہمارے نبی پاک ﷺ کو ضرور دی گئی۔ (حوالہ: خصائص کبریٰ)

مثال کے طور پر ابو نعیم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد غَلِيْبًا عَلَيْهِ السَّلَام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کے لیے پتھر نرم ہوا۔ یہ معجزہ اول سے زیادہ تعجب خیز ہے یوں کہ لوہا تو آگ سے بھی نرم ہو جاتا ہے مگر آگ پتھر کو نرم نہیں کر سکتی۔ مکہ کی بعض گھاٹیوں میں نبی پاک ﷺ نے اپنی نماز میں طول دیا یہاں تک کہ ان پتھروں میں قدم رسول کے نشان پڑ گئے۔ (حوالہ: خصائص کبریٰ)


احمد تیمور باشا نے اپنی کتاب ”آثار نبویہ“ میں سات نسخوں کی تصدیق کی ہے۔ چار مصر میں (مسجد اثر النبی، مسجد سلطان قایت بای، مسجد سیدی احمد بدوی طنطا، مسجد اولیس قرنی حیرہ) باقی تین میں سے ایک ترکی میں ایک قبہ صحرہ (بیت المقدس) میں اور ایک مسجد عداس طائف میں ہے۔



رسول اللہ ﷺ کا نعل پاک جس میں تمسے ہیں، خالص چمڑے کا بنا ہوا۔ ترکی ٹاپ کاپی میں محفوظ ہے۔



رسول اللہ ﷺ کے نعل پاک کے نیچے کا حصہ



رسول اللہ ﷺ کا نعل پاک دباغت دی گئی جلد (چمڑا) سے بنا۔ ٹاپ کاپی کے میوزیم میں محفوظ۔



رسول اللہ ﷺ کا نعل پاک جو تا کی شکل کا داہنے پائے اقدس کا، کالے چمڑے کا۔ ٹاپ کاپی میں محفوظ۔




سرکارِ دو عالم ﷺ کے پیر مبارک کا نقش۔  
عجائب گھر (توپ کاپی استنبول)




توپ کاپی میوزیم میں محفوظ آپ ﷺ کے بانیں پیر مبارک کا عکس  
جو کہ بیت المقدس سے لایا گیا ہے۔ جہاں شب معراج ہوا تھا۔




# حضور ﷺ کی نعلین مبارک کا مبینہ خاکہ



جامعہ اشرفیہ (دمشق) میں وہ نعلین مبارک موجود ہیں جو حضرت ام کلثومؓ کے پاس موجود تھے، "نعلین مبارک" منسوب بہ حضور اکرم ﷺ



استنبول، حضرت ابو ایوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے مزار  
کے احاطہ میں نقش قدم پیغمبری




رسول کریم کے داہنے پائے اقدس کا نقش، رنگین سنگ  
مرمر پر ایڑی کی طرف سے ٹوٹا ہوا جس کو چاندی کے  
تاروں سے جوڑا گیا۔ یہ لیسٹہ طرابلس (ترکی) سلطان  
عہد الجہد کے عہد میں لایا گیا۔

## حضور ﷺ کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط

ساتھ معاملہ کیا ہے، سو یہ پیشین گوئی بالکل پوری ہوئی۔

اور بعض بد بختوں نے خطوط کی بھی بے حرمتی کی اور قاصدوں کی بھی اس بے حرمتی پر اللہ نے ان بادشاہوں کو برباد کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے متعدد بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کیے۔ جن میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط کی عبارات اور ان کو لے کر جانے والے اور جو کچھ اس کے بعد پیش آیا اس کا اکثر ذکر کتب سیرت اور مسانید میں ہے۔ اور وہ خطوط بعینہ ان بادشاہوں کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔



میرے محترم عزیزو! آپ تمام دنیا کے لیے آخری نبی تھے، اس لیے آپ نے امن و سکون قائم ہو جانے پر ارادہ فرمایا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی زمیں کے گوشہ گوشہ میں پہنچ جائے، اس زمانہ کا قاعدہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے رئیسوں اور بادشاہوں کے تابع ہوتے تھے، وہ جیسی راہ وہ دکھاتے تھے اور جس مذہب پر ہوتے تھے عام و خاص سب اسی راہ پر لگ جاتے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے حق کا پیغام بادشاہوں کے نام پہنچانا ضروری خیال فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ نے محرم ۷ ہجری میں تمام عرب اور عجم کے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے جن کے نام یہ ہیں:-

ہرقل، شاہ روم، مقوقس شاہ مصر، کسریٰ شاہ فارس، نجاشی شاہ حبشہ، منذر بن ساویٰ شاہ بحرین، ہوذہ ابن علی شاہ یمامہ، حارث ابن شمر غسانی شاہ دمشق، جعفر و عبد شاہ عمان۔

ان دعوتی خطوط کو دیکھ کر بعض تو اسلام لے آئے، اور بعض اسلام تو نہیں لائے مگر خط کی بہت قدر کی اور قاصدوں کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آئے، جیسے مقوقس اور قیصر کہ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا مگر خط کو بہت ادب سے سر پر رکھ لیا، آنکھوں سے لگایا، اور مقوقس نے بہت سے تحفے تحائف آپ کی خدمت میں روانہ کیے۔ قیصر نے کہا۔ اگر میرے سر پر حکومت کا بار نہ ہوتا تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے قدم مبارک دھو دھو کر پیتا۔

نجاشی شاہ حبشہ مسلمان ہوا۔ جعفر و عبد مسلمان ہوئے۔

کسریٰ نے اپنی سلطنت اور قوت کے گھمنڈ میں دعوت حق کو ٹھکرا دیا اور خط مبارک کے ٹکڑے کر دیے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ملک کے یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا جیسا اس نے خط کے



ٹاپ کاپے میوزیم کا بیرونی  
منظر پہلے یہ جگہ مسجد  
ایاصوفیہ کے نام سے مشہور  
تھی اب یہ عجائب گھر بن  
چکا ہے۔ اس عجائب گھر  
میں خلافت عثمانیہ کے  
بادشاہ سلطان نے دنیا بھر  
میں موجود تبرکات نبوی کو  
جمع کر کے رکھا ہے۔




جامع مسجد ایاصوفیہ (عجائب گھر توپ کاپی) کا اندرونی منظر

بادشاہوں کے نام حضور ﷺ کے خطوط (نقشہ)

رسول اکرم ﷺ کے خطوط (مکاتیب)

وقت کے بادشاہوں اور امراء کے نام




نبی کریم ﷺ کا مکتوب

منذر بن ساوی کے نام

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 الحمد لله رب العالمین  
 صلوات الله وسلامه  
 وبرکاته طیبات  
 على سيدنا محمد  
 وآله الطيبين الطاهرين  
 اجمعين  
 واخبرك الله  
 بانزل الى منذر بن  
 ساهل بن اسود  
 الغنوي من رسالتي  
 التي ارسلها اليه  
 في شأن بني حنيفة  
 والذين اخرجوا من  
 ارضهم من ارض  
 بني حنيفة  
 وهم الذين اخرجوا  
 من ارضهم من ارض  
 بني حنيفة


نمبر شمار	حامل مکتوب	ملک و شہر	مکتوب الیہ
①	عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ	اکسوم (حبشہ)	نجاشی
②	علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ	بحرین	منذر بن ساوی
③	عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ	طیسون (مدائن)	کسراے فارس
④	وثنیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ	القدس (یروشلم)	قیصر روم ہرقل
⑤	حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ	اسکندریہ (مصر)	مقوقس
⑥	عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ	عمان	جملہ و ہند ایران چاندی
⑦	سلیط بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ	یمامہ	ہودہ بن علی رضی اللہ عنہ
⑧	فہام بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ	فوط (لواح دمشق)	عاص بن العاص رضی اللہ عنہ




ترجمہ مکتوب نبوی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم  
بنام عثمان، جیفر اور عبد ابنی الجندی کے بادشاہوں کے نام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد اللہ کے رسول کی طرف سے نظر اور عبد ابنی الجندی کے نام۔۔۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہوں نے حق کی اتباع کی۔ ہم بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم لوگ اسلام لے آئے تو سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں تاکہ زندہ لوگوں کو ڈراؤں۔ کانفرنس پر اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ اگر تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں تمہیں حاکم مقرر کروں گا اور انکار کیا تو تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے، میرے گھوڑے تمہارے میدانوں میں نہیں لے آؤں اور میری ہوت تمہارے ملک پر غالب آجائے گی۔



امیر بحرین منذر بن ساوی عبیدی کے نام رسول ﷺ کے گرامی نامہ کا عکس



حارث غسانی کے نام رسول اللہ ﷺ کے گرامی نامہ کی اصل کا عکس (ٹاپ کاپی ترکی)

### گرامی نامہ رسول ﷺ کی عبارت جو آپ نے کسریٰ بادشاہ فارس کو تحریر فرمائی

اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ محمد رسول ﷺ کی طرف سے کسریٰ شاہ فارس کے نام۔ ہدایت یافتہ پر سلام اور جو اللہ و رسول پر ایمان لا چکا اس پر سلامتی اور اس پر جس نے گواہی دی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں ڈراؤں اور کافروں پر وعدہ پورا ہو چکا۔ اسلام قبول کر سلامت رہے گا اور انکار کرے گا تو تمام مجوس کا گناہ تیرے سر ہوگا۔



## امیر بحرین منذر بن ساوی عبیدی کے نام رسول اللہ ﷺ کے گرامی نامہ کی عبارت

رسول اللہ ﷺ کے قاصد صحابی جلیل حضرت علاء بن حضرمی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تھے۔ امیر بحرین نے اس خط کی تصدیق کی لہذا وہ اسلام لے آئے۔ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے منذر بن ساوی کے نام۔ تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور گو ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد: میں تمہیں اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کا فرمان یاد دلاتا ہوں، جو نصیحت کرتا ہے وہ اپنے لیے نصیحت کرتا ہے۔ جو میرے رسولوں کا اتباع کرتا ہے اور ان کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے، اس نے میری اطاعت کی اور جس نے ان کے لیے نصیحت کی اس نے میرے لیے نصیحت کی۔ امیر بحرین منذر بن ساوی عبیدی کے نام رسول ﷺ کے گرامی نامہ کا عکس جس کی اصل کاپی ٹاپ کاپی کے محل (ترکی) میں محفوظ ہے۔



امیر بحرین منذر بن ساوی عبیدی کے نام رسول ﷺ کے گرامی نامہ کا عکس  
جس کی اصل کاپی ٹاپ کاپی کے محل (ترکی) میں محفوظ ہے۔



## حضور ﷺ کے خطوط مبارک




مسیلمہ کذاب کے نام گرامی نامہ رسول کا عکس ٹاپ کاپی ترکی میوزیم میں محفوظ ہے۔




امیر بحرین منذر بن ساوی عبدی کے نام رسول ﷺ کے گرامی نامہ کا عکس  
جس کی اصل کاپی ٹاپ کاپی کے محل (ترکی) میں محفوظ ہے۔




مسلمہ کذاب کے نام گرامی نامہ رسول کا عکس ٹاپ کاپی ترکی میوزیم میں محفوظ ہے۔



آپ ﷺ کا مبارک خط جو مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھیجا گیا تھا۔




مکتوب مبارک :- یہ مکتوب آپ ﷺ نے سن ۶۳ھ میں قبطیوں کے بادشاہ ”مقوس“ کی طرف سے اسلام کی دعوت دینے کیلئے ارسال فرمایا۔ اسے ۱۸۵۰ء میں برتھ لیمی نامی ایک فرانسیسی نے اپنے سفر مصر کے دوران قبطیوں کی ایک عبادت گاہ میں پایا۔ یہ مکتوب ایک قدیم قبطی بائبل کے غلاف کے ساتھ ملحق تھا۔ جب مذکورہ بالا فرانسیسی کو اس مکتوب کی نسبت کا علم ہوا تو اس نے یہ مکتوب سلطان عبدالحمید کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے اسے سونے کی فریم میں محفوظ کروایا اور اسے سونے کے ایک بکس میں رکھا گیا جس پر انتہائی عمدہ مینا کاری کی گئی ہے۔ اس بکس کا حجم 42-5x30x10.5cm ہے۔ اس مکتوب مبارک جو کہ چمڑے پر لکھا گیا ہے (کے بعض حصے بوسیدہ ہو کر گر چکے ہیں۔ اس بکس میں ایک جانب تختی پر خط کا متن لکھا ہوا ہے۔




مقوس عظیم قبط کے نام رسول ﷺ کے گرامی نامہ کا عکس۔

نبی اکرم ﷺ کا نام مبارک ہرقل کے نام۔




قیصر روم ہرقل کے نام گرامی نامہ رسول ﷺ کے اصل نسخہ کا عکس جو اردن کے مرکزی بینک میں ابھی تک محفوظ ہے۔



قیصر روم ہرقل کے نام گرامی نامہ رسول کا عکس۔

## رسول ﷺ کے کمان

سیرت رسول عربی میں ذکر ہے کہ رسول ﷺ کے لیے متعدد کمانیں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام ”بیضاء“ تھا جو یہود بنی قینقاع کے ہتھیاروں میں سے تھی۔ ایک کمان کا نام ”روحاء“ تھا ایک کا نام ”صفراء“ تھا۔ (استنبول میں اسلامی میوزیم میں محفوظ) ”نعج“ نامی درخت کی شاخوں سے بنائی جاتی تھی۔ ایک کمان کا نام ”زوراء“ ہے اس کو ”کتوم“ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ چلاتے وقت اس میں ہلکی آواز ہوتی ہے۔ اور ایک کمان کا نام ”سداد“ ہے۔ پیشی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی، رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: تیر اندازی کو لازم پکڑو! وہ بہتر ہے۔ یا فرمایا: وہ عمدہ کھیل ہے۔



بزار اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کی، رسول ﷺ نے فرمایا: ”علیکم بالرمی فانہ خیر لکم“ تیر اندازی کو لازم پکڑو کہ وہ تمہارے لیے عمدہ کھیل ہے۔


حضرت ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: فرشتے نہیں گواہی دیں گے تمہاری گروی چیزوں پر مگر تلوار و جنگ پر۔ امام بخاری نے حضرت سعید بن مسیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو کہتے سنا رسول ﷺ نے جنگ احد کے دن ترکش سے تیر نکال کر مجھے دیا اور فرمایا:

”ارم فداک ابی وامی“

تَرْجَمًا: ”اے سعد میرے ماں باپ تم پر فدا تیر چلاؤ۔“

سیرت ابن ہشام اور بیہقی کی روایت میں ہے: یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا تیر دیا جس کا پھل نہ تھا میں نے اسے بھی چلا دیا۔ امام واقدی کی کتاب ”المغازی“ میں عمر بن قنادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے: غزوہ احد کا نقشہ پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ بذات خود جنگ میں شریک ہوئے اور تیر اندازی فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ کے تیر ختم ہو گئے، کمان ٹوٹ گئی اور اس سے پہلے اس کا تار ٹوٹا تھا اور صرف ایک بالشت کا بچا تھا۔ کمان کو عکاشہ بن محسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے لیا اور چاہا کہ تار درست کر دیں مگر وہ چھوٹا تھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! تار نہیں پہنچ رہا۔ تو آپ نے فرمایا: کھینچو پہنچ جائے گا۔ عکاشہ کہتے ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس نے انہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میں نے کھینچا اور وہ اتنا بڑھا کہ میں نے اسے تین دہرا باندھا پھر رسول ﷺ نے لے لیا اور چلانا شروع کر دیا۔

رسول ﷺ کی کمان ”صفراء“ جس کے لیے تھیلی (خول) بنائی گئی اور سونے چاندی سے منقش و مزین کی گئی۔



یہ خول سلطان احمد اول کے حکم سے ۱۲۰۰ھ میں بنائی گئی۔ یہ کمان ٹاپ کا پی ترکی میں محفوظ ہے۔




نبی ﷺ کا نام مبارک بنام مقوقس (شاہ مصر)

رسول ﷺ کے گرامی نامہ کی عبارت جو آپ ﷺ نے  
مقوقس عظیم قبط جرج بن مینا اسکندریہ کے بادشاہ کو تحریر فرمایا:



رسول ﷺ کے قاصد صحابی جلیل حاطب بن بلتعہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں۔  
اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول ﷺ کے لیے سیدہ ماریہ قبطیہ اور ان کی دو بہنوں (سیرین، قیسری) کو ہدیہ  
بھیجا۔ ان کے علاوہ بھی ایک باندی ایک ہزار مثقال سونا، بیس عدد قبطی مصری کپڑے، خچر (دلدل) دراز گوش (عفیر) اور ایک خسی  
غلام (مابور) ایک گھوڑا الزاز، شیشہ کا ایک پیالہ اور شہد ارسال کیا مگر خود ایمان نہ لایا۔ تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا:  
”ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لمكه“  
ترجمہ: یعنی بد بخت نے اپنے ملک میں بخل کیا اور اسکے ملک کو دوام نہیں۔  
اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔  
محمد بن عبد اللہ اور رسول ﷺ کی جانب سے مقوقس عظیم القبط کے نام

### ہدایت یافتہ پر سلام

اما بعد: میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دہرا اجر دے گا  
اور اگر سرتابی کرو گے تو تجھ پر عایا کا گناہ بھی ہے۔  
”قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من  
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون“ (64) (سورہ آل عمران)  
ترجمہ: تم فرماؤ اے اہل کتاب! ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی۔ اور اس کا  
شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں  
(یہ خط بارہ سطروں پر مشتمل تھا اور آخر میں رسول ﷺ کی مہر تھی۔)



ٹاپ کاپی میں محفوظ حضور ﷺ کے تیرکمان



بوسہ سیدنا رسول اللہ ﷺ



حضور ﷺ کے تیرکمان کی قریب سے کھینچی گئی تصویر





حضور ﷺ سے منسوب بال مبارک  
آپ ﷺ کے بال مبارک خوبصورت بکس میں۔

رسول ﷺ کے موئے مبارک



صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ کے دست پاک بھرے تھے۔ ان کے بعد ان جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ رسول ﷺ کے موئے مبارک سیدھے تھے یعنی نہ زیادہ پیچیدہ نہ بالکل کھلے بلکہ دونوں کے درمیان۔  
امام ترمذی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے اپنی کتاب ”شمال محمدیہ“ میں حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت نقل کی ہے کہ، رسول ﷺ اپنے سر مبارک میں خوب تیل لگاتے تھے اور اپنی ریش (ڈاڑھی) میں خوب کنگھا کر کے سیدھی کرتے تھے۔  
حضرت ابو جحیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے: لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ کے سر مبارک میں ”ژیب“ یعنی سفید بال دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ”شیبہ ہو دو اخواتہا“


یعنی میرے سفید بال سورہ ہود اور اس کے علاوہ (بہنیں) ہیں۔ (ہود، واقعہ، حاقہ، معارج، تکویر، اور قارعہ)  
حضرت امام بخاری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک ﷺ اہل کتاب کی موافقت ان امور میں پسند فرماتے جن میں آپ کو کوئی حکم نہ ملا ہو۔ اہل کتاب اپنے بال لے کر رکھتے اور مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تو نبی پاک ﷺ نے اپنی پیشانی کے بال لے کر رکھے اور بعد میں مانگ نکالی۔  
صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں: نبی پاک ﷺ جمرہ کے پاس آئے اور رمی فرمائی منیٰ میں اپنی قیام گاہ پر آئے اور قربانی کی۔ پھر حجام سے فرمایا پہلے داہنے پھر بائیں جانب کا بال تراشے پھر آپ نے لوگوں کو دینا شروع کیا۔  
اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول پاک ﷺ نے تبرک کے لیے اپنے موئے مبارک صحابہ میں تقسیم کیے۔

توپ کاپی میوزیم میں موجود حضور ﷺ کا بال مبارک



بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو طلحہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک محفوظ تھے۔  
 بلکہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک میری ناک، منہ، کان اور دونوں آنکھوں پر رکھ دینا۔  
 رسول اللہ ﷺ نے اپنے موئے مبارک کو تقسیم کرنے اور تبرک کے لیے ان کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اکثر حصوں میں رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک محفوظ ہیں۔  
 اہل عقیدت اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ مکہ شریف، دمشق (شام) قاہرہ (مصر) اور ٹاپ کاپی ترکی میں یقینی طور پر رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک محفوظ ہیں۔  
 اس کے علاوہ طرابلس، لیبیا، قیروان وغیرہ میں بھی محفوظ ہیں۔

مسجد حسین قاہرہ میں رسول اللہ ﷺ کے سر مبارک اور ڈاڑھی شریف کے بال ہیں۔ جن کی تعداد پانچ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق پندرہ ہیں۔



مسجد حسین قاہرہ میں محفوظ رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک

مسجد حسین قاہرہ میں محفوظ رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک



صندوق کے اندر یہ شیشی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک ہیں۔

حضرت امام بخاری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے اسرائیل سے انہوں نے عثمان بن عبد اللہ بن وہب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میری اہلیہ نے مجھے حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے پاس ایک پیالہ پانی کے ساتھ بھیجا۔ وہ اس میں رسول اللہ ﷺ کا موئے مبارک ڈال کر نکال لیتیں اور جس انسان کو نظر لگ جاتی وہ اسی طرح علاج کرتا یعنی رسول اللہ ﷺ کے بال شریف کا دھونی پیتا تو شفا یاب ہو جاتا۔



ٹاپ کاپی میں محفوظ حضور ﷺ کا بال مبارک

شیشی خالص سونے سے مزین  
اس میں رسول ﷺ کے موئے مبارک  
ہیں۔ (ٹاپ کاپی ترکی)






رسول اللہ ﷺ کی ڈاڑھی شریف کے موئے مبارک۔ (ٹوپ کاپی ترکی)


حضرت امام احمد بن حنبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس تین موئے مبارک تھے۔ بڑی حفاظت سے اسے رکھا تھا اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میں کفن میں رکھ دیا جاؤں تو یہ تینوں بال شریف میرے چہرہ پر رکھ دینا۔  
حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کے بال تراش رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے گرد جمع تھے تو کوئی بال شریف آپ کے سر سے جدا نہ ہوتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں پڑتا۔

حضرت ام سلیم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو پہر میں قیلولہ آپ کے یہاں فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ محو خواب ہو جاتے تو میں آپ کا عرق مبارک (پسینہ) ایک شیشی میں جمع کرتی اور اس کو عطر میں ملاتی۔ جب حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت کی کہ کفن میں (حنوط) دھونی یا خوشبو ملنے میں اسی عرق کا استعمال کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

ترکی (ٹاپ کا پے)  
میں حضور ﷺ  
کا موئے مبارک



سونے کے بنے ہوئے اس ڈبہ میں حضور ﷺ کے تبرکات میں سے کوئی تبرک موجود ہے، یہ ترکی عجائب گھر  
ٹاپ کاپی میں خلافت عثمانیہ سے موجود ہے۔



چاندی سے مزین صندوق جس کے اندر مرتبان میں رسول ﷺ کے موئے مبارک محفوظ ہیں۔ (ٹوپ کاپی ترکی)



مصر کی مسجد الحسینی میں موجود حضور ﷺ کی تلوار کا دستہ






آپ ﷺ کے موئے مبارک کا نورانی منظر




ترکی میں سونے اور قیمتی جواہرات سے مزین بکس میں رسول پاک ﷺ کی پیاری پیاری داڑھی مبارک کا ایک مقدس بال محفوظ ہے۔



الشعرتان  
الضویرتان  
الشرفیتان  
الموجودتان  
فی المسجد  
العمری الکبیر  
بظرائیسر

سرکارِ دو عالم ﷺ کا موئے مبارک بے قرار دلوں کیلئے چین کا باعث ہے۔



ٹاپ کاپی سرائے میں موجود حضور ﷺ کے بال مبارک

# رسول ﷺ کی داڑھی شریف کے بال



چاندی کا ڈبہ سونے سے ملع جس کے اندر رسول ﷺ کی داڑھی شریف کے بال ہیں۔ (ٹاپ کاپی ترکی)

حضرت فاطمہ زہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی طرف منسوب صندوق جو لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی چوڑائی (حجم) تقریباً 20x16x22 سینٹی میٹر ہے۔




حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے منسوب صندوق



### حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا قمیص مبارک

مدینہ منورہ سے ترکی منتقل ہونے والے تبرکات میں حضرت فاطمہ زہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا صندوق بھی تھا جس کو آپ استعمال کرتی تھیں۔ اس میں آپ کے ذاتی سامان تھے، جن میں آپ کی قمیص مبارک اور چادر پاک تھی، یہ سارے تبرکات ٹاپ کاپی کے میوزیم میں ”امانات مقدسہ“ کے ضمن میں محفوظ ہیں۔




خاتون جنت فاطمہ زہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قمیص مبارک، اس آیات کی کتابت اس طرح آپ کے زیب تن کرتے

وقت نہ تھیں بلکہ بعد میں نقش و نگار بنایا گیا۔



فاطمہ زہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَاجِبِہِ پاك، اونى كپڑے كا اندر سے سوتى كپڑے كا استر لگايا هوا۔ ٹاپ كا پى ترى  
مىں محفوظ ہے۔



## بی بی حلیمہ کا گھر مبارک

عرب کا دستور تھا کہ شریف اور دولت مند گھرانے کی عورتیں اپنے بچوں کو دایہ کے سپرد کر دیتی تھیں تاکہ بچے گاؤں کی ہو میں تندرست اور توانا ہوں، وہ دایاں بچوں کو اپنے گاؤں میں لے جا کر ان کی پرورش کرتی تھیں۔


اس سال بھی عرب کے دستور کے مطابق گاؤں گاؤں سے بہت سی دایاں بچے لینے کی خاطر مکہ معظمہ آئیں۔ ان میں ایک دایہ حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔

سب دایوں نے جلدی جلدی خوش حال گھرانوں کے بچوں کو لے لیا، دایہ حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی، اس لیے وہ سب کے بعد پہنچیں۔ اب ان کو سوائے اس یتیم بچے کے اور کوئی نہ ملا، مجبوراً ان کو لیا اور چلیں، مگر دل میں بہت رنجیدہ کہ اس یتیم بچے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن قدم قدم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اور برکتیں اس بچے کی وجہ سے نازل ہوئیں تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سارا رنج خوشی میں تبدیل ہو گیا۔

جب دو برس کی مدت ختم ہو گئی تو دایہ حلیمہ اس مبارک بچے کو لے کر مکہ معظمہ میں آئیں۔

مکہ معظمہ میں ان دنوں وبا پھیلی ہوئی تھی اس لیے بی بی آمنہ نے پھر آپ کو واپس کر دیا۔

بچپن میں لڑکے کھیل کود کے بہت شائق ہوتے ہیں، لیکن آپ اس چھوٹی سی عمر میں بھی تمام لڑکوں سے بالکل الگ تھے۔ کھیل کود، لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور، ہاں کام کاج میں سب سے آگے۔ اس چھوٹی سی عمر میں بہت سے چھوٹے موٹے کام بی بی حلیمہ کے کر دیا کرتے تھے۔ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے تھے۔



حضرت سلمان فارسی کا باغ جہاں حضور ﷺ نے کھجور کے پودے لگائے تھے۔



وہ مبارک جگہ جہاں حضور ﷺ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے سلمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو آزاد کرانے کیلئے درخت کے پودے لگائے جو ایک ہی رات میں تناؤ اور درخت بن کر سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی یہودی کے ہاتھ سے آزادی کا سبب بنے۔



جنت البقیع میں موجود دانی حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر مبارک



## دانی حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَاغْر مَبَارَك

نبی کریم ﷺ نے جس گاؤں میں بچپن گزارا وہ ایک پہاڑی پر آباد ہے۔ پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے مکان کے نیچے ایک کنواں ہے جس میں اب ٹیوب ویل لگا ہے۔ غالباً اسی کنویں سے نبی رحمت ﷺ سیراب ہوتے رہے۔ حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مکان محفوظ کرنے کے لیے اس کا سارا احاطہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

**یہودی کی پیشین گوئی** ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ ”نبی ﷺ اپنی رضاعی ماں کا صرف ایک طرف کا دودھ پیتے تھے اور ماں دوسری طرف سے پلانا بھی چاہتی تو نہ پیتے کہ یہ بھائی کا حصہ ہے۔ بچپن میں کسی بات پر مچل کر آپ نے شیماء کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ ان کے کندھے پر عمر بھر اس کا نشان رہا۔ اور ایک بار آپ حلیمہ کی گود میں سوق عکاظ جیسے ایک میلے میں گئے تو ایک یہودی فال گونے آپ کو دیکھ کر شور مچا دیا: ”یہودیو! دوڑو، اس بچے کو قتل کرو۔ یہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا۔“

شق صدر کا انوکھا واقعہ نبی ﷺ 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آپ ﷺ کو مکہ لے گئیں مگر شہر میں وبا پھیلی ہونے کے باعث واپس لے آئیں سیرت ابن اسحاق میں حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا بیان ہے: ”واپس آ کر تین ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز وہ بچہ (محمد ﷺ) اپنی رضاعی بہن کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے بکریوں کے پاس تھا۔ اتنے میں اس کا بھائی (عبداللہ) دوڑتا آیا اور کہا کہ میرے قریشی بھائی کے پاس دو سفید پوش آدمی آئے اور انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میں اور میرا شوہر بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فق ہے۔ اس کے باپ نے اسے لپٹا کر پوچھا: ”بیٹا! تجھے کیا ہو گیا؟“ اس نے کہا: ”سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی آئے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔“ حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کہتی ہیں کہ ہم اسے گھر واپس لائے تو میرے شوہر نے کہا: حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مجھے ڈر ہے، اس بچے کو کچھ ہونہ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے، چنانچہ ہم اسے اس کی ماں کے پاس مکہ لے گئے۔“ ابن جوزی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ابن حجر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ فتح مکہ کے بعد حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بصرہ کے مقام پر ملیں تو آپ ﷺ نے اپنی چادر بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر بتایا: ”یہ میری ماں ہیں، انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔“ (حوالہ سیرت النبی ﷺ)۔



دانی حلیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے قدیم گھر کے آثار

## مسجد القدم

دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے جو اب شہر کا ایک حصہ ہے اور مسجد القدم کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک پتھر ہے جس پر حضور ﷺ کے قدم مبارک کا نشان ہے وہ پتھر دیوار کے اندر ایک طاق بنا کر اس میں لگایا ہوا ہے شیشہ کے اندر سے قدم مبارک نظر آتا ہے۔




مسجد قدم کا بیرونی منظر



حضور ﷺ اکثر تجارت کے لیے تشریف لاتے تھے زیر نظر تصویر اس مبارک پتھر کی ہے جس پر حضور ﷺ کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔

# مسجد قدم کا بیرونی منظر



حضور ﷺ اکثر تجارت کے لیے شام کی اس جگہ تشریف لاتے تھے زیر نظر تصویر اس مبارک جگہ کی ہے جہاں پر حضور ﷺ کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔

## شام کا پہلا سفر اور بحیری راہب سے ملاقات

آپ ﷺ کی عمر شریف بارہ سال کی تھی، آپ کے چچا ابوطالب تجارت کا مال لے کر ملک شام جا رہے تھے، آپ نے بھی خواہش ظاہر کی، شفیق چچا عزیز بھتیجے کی خواہش رد نہ کر سکے، ساتھ لے لیا۔

ملک شام کے قریب پہنچ کر بصری مقام پر پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ کے قریب بحیرہ نامی ایک راہب تھا، جو پرانی کتابوں کا بڑا عالم تھا، ان پرانی کتابوں یعنی توراہ اور انجیل میں آخری نبی کی پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں جو اس راہب نے ہو بہو حضور ﷺ کے اندر پائیں اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ابوطالب سے پوچھا۔ ”یہ کس کا لڑکا ہے۔؟“

ابوطالب نے کہا۔ ”میرا بھتیجا ہے۔“

راہب نے کہا۔ ”تمہارا بھتیجا دنیا کا وہی آخری نبی اور عظیم الشان پیغمبر ہے جس کی خبر توراہ اور انجیل وغیرہ میں دی گئی ہے۔ دیکھو اس ملک کے یہودی اس نبی کے جانی دشمن ہیں، بہتر ہے کہ تم ان کو یہیں سے واپس کر دو، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے تو بس مار ہی ڈالیں گے۔“

ابوطالب نے یہ سن کر فوراً آپ کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔

بحیری راہب کی خانقاہ کا بیرونی منظر (بصری الشام)




بحیری راہب کی خانقاہ کا بیرونی منظر اس جگہ آپ ﷺ نے سفر شام میں پڑاؤ ڈالا تھا اور بادل نے آپ ﷺ کو سایہ میں لیا ہوا تھا راہب نے جب

یہ منظر دیکھا تو اس نے آپ ﷺ کی دعوت کی اور آپ ﷺ کے نبوت کی پیشگوئی بھی کی

وہ مبارک جگہ جہاں آپ ﷺ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے آئے تھے۔

### بحیرہ راہب کا گر جا

رومی عہد میں اسقفیہ کبریٰ کی وجہ سے بصری میں ایک باسلیق (مخروطی دارالقضاء) قائم تھا۔ اس کے قریب سینٹ سرجمیس کی خانقاہ تھی جس میں ایک بڑا گر جا بھی تھا جس کی دیواریں اور محراب ابھی تک باقی ہیں۔ یہیں بحیرہ راہب کی اقامت گاہ تھی جس نے نبی کریم ﷺ کی آئندہ رسالت کی اس وقت گواہی دی جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ بصری آئے تھے۔



یہ مقام ناقتہ الرسول ﷺ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ حضور ﷺ نے کچھ دیر آرام بھی فرمایا تھا۔



بحیرہ راہب کی خانقاہ کی دور سے کھینچی گئی تصویر۔



بصرہ میں موجود اس جگہ حضور ﷺ کی اونٹنی کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں یہاں آپ ﷺ کی اونٹنی سفر شام کے موقع پر بیٹھی تھی۔ آج بھی



بجیرہ راہب کی خانقاہ میں جانے کا چھوٹا سا دروازہ۔



وہ جگہ جہاں حضور ﷺ کی اونٹنی بیٹھی تھی  
اب یہاں چار دیواری بنا کر محراب بنا دی گئی۔



بجیرہ راہب کی خانقاہ کا بڑا دروازہ۔



یہ جگہ آج بھی جامع الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔



بجیرہ راہب کی خانقاہ کی بیرونی دیوار کا منظر۔



بجیرہ راہب کے اس کمرہ کا اندرونی منظر  
جہاں حضور نے کچھ دیر آرام فرمایا۔



بجیرہ راہب کی خانقاہ کے اندرونی حصہ کا منظر۔

### بجیرہ راہب کا گرجا

رومی عہد میں اسقفیہ کبریٰ کی وجہ سے بصریٰ میں ایک باسلیق (مخروطی دارالقضاء) قائم تھا۔ اس کے قریب سینٹ سرجمیس کی خانقاہ تھی جس میں ایک بڑا گرجا بھی تھا جس کی دیواریں اور محراب ابھی تک باقی ہیں۔ یہیں بجیرہ راہب کی اقامت گاہ تھی جس نے نبی کریم ﷺ کی آئندہ رسالت کی اس وقت گواہی دی جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ بصریٰ آئے تھے۔

## شبیکہ قبرستان

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار قریش مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایسے ایسے ظلم کیے گئے کہ عرش بھی ہل کر رہ جاتا۔ مکہ کی سخت سے سخت اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا۔ حضور ﷺ کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت دیتے۔

آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں وفات پا گئے۔ ظالموں نے مرنے تک چین نہ پانے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایسا برچھا مارا کہ وہ شہید ہو گئیں مگر اسلام سے نہ ٹھیس حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔

اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے۔ ایک طرف کفار مکہ کے یہ ظلم و ستم تھے تو دوسری طرف شہداء اور مسلمانوں کی تدفین کا جھگڑا کھڑا کر دیا کہ مسلمان ان کے قبرستان میں دفن نہیں کیے جاسکتے۔

چنانچہ امت کی عظیم محسنہ اور امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی یہ زمین مسلمانوں کی قبرستان کے لیے دے دی اور اس زمین میں کئی مسلمان دفن ہیں۔ یہاں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی کئی ہستیاں مدفون ہیں۔ یہ قبرستان بڑی زیارتوں میں سے ایک ہے۔ اول تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زمین ہے اور دوم یہاں عظیم المرتبت ہستیاں مدفون ہیں۔

مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب ”واد البنات“ نامی وہ جگہ جہاں زمانہ جاہلیت میں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کے مارے ہوئے وڈیروں، جاگیرداروں اور بے دین لوگوں نے غیرت کے نام پر قتل کو غلط رخ دے کر قدیم جاہلیت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پس منظر میں حرم مکی کے مینارے نظر آ رہے ہیں۔



مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب ”واد البنات“ نامی وہ جگہ جہاں زمانہ جاہلیت میں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کے مارے ہوئے وڈیروں، جاگیرداروں اور بے دین لوگوں نے غیرت کے نام پر قتل کو غلط رخ دے کر قدیم جاہلیت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پس منظر میں حرم مکی کے مینارے نظر آ رہے ہیں۔



کفار مکہ نے مسلمانوں کو اپنے قبرستانوں میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی یہ زمین قبرستان کیلئے وقف کر دی۔

## مقام بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ

معراج سے واپسی پر نبی ﷺ نے تبلیغ و دعوت کی مہم کو مزید تیز کر دیا۔ اب آپ ﷺ مکہ کے آس پاس آباد و دیگر قبائل کے ہاں تشریف لے جاتے۔ مگر آپ کی دعوت کے جواب میں کسی نے نرمی سے اور کسی نے سختی سے انکار کیا۔ بالآخر ایک روز آپ ﷺ نے میدان منیٰ کے باہر عقبہ (گھاٹی) کے موڑ پر چھ آدمیوں کی ایک جماعت دیکھی جو رسوم حج ادا کرنے یثرب سے مکہ آئی ہوئی تھی۔ ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبد اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی ﷺ کی تبلیغ پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔

دوسرے سال سن ۱۱ نبوی میں حج ہی کے زمانے میں پانچ پرانے اور سات نئے افراد رسول کریم ﷺ سے ملنے آئے اور آپ کے ہاتھ پر مکرر بیعت کی۔ (بعض نے اسی کو عقبہ اولیٰ بھی کہا ہے۔) ان لوگوں کی خواہش پر مصعب بن عمیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو معلم اور مبلغ بنا کر ان کے ساتھ یثرب بھیجا گیا۔ اس سے اوس اور خزرج کے مابین نماز کی امامت کے سلسلے میں جھگڑے بھی ختم ہو گئے۔ جب نبی کریم ﷺ کو یثرب میں اشاعت اسلام کی خوشخبری ملی تو آپ ﷺ نے حضرت مصعب کو ایک خط ارسال فرمایا جس میں درج تھا کہ دن ڈھلے جمعے کی نماز پڑھا کرو، چنانچہ یثرب میں پہلی نماز جمعہ میں ۱۲ آدمی جمع ہوئے۔

تیسرے سال ۱۲ نبوی کے موسم حج میں یثرب سے آنے والے ۵۰۰ حاجیوں میں سے ۷۳ مسلمان مرد اور دو خواتین تھیں۔ وہ نبی ﷺ سے اسی گھاٹی (عقبہ) میں رات کے وقت ملے اور بیعت کے موقع پر عرض کیا کہ آپ ﷺ اور دیگر مسلمان یثرب آجائیں تو ہم آپ ﷺ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے کوئی اپنے اہل خاندان کی کرتا ہے۔ یہ بیعت عقبہ ثالثہ تھی، بعض نے اسی کو عقبہ ثانیہ لکھا ہے۔ تب نبی ﷺ نے ان کے لیے ۱۲ نقیب مقرر فرمائے جو ۱۲ خاندانوں کے لیے تھے اور بنو نجار کے اسعد بن زرارہ کو نقیب النقباء بنایا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ جلد ۱۹ ص ۴۱، ۴۲)۔



یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور ﷺ کے ہاتھوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت کی تھی۔






## بصرہ کی وہ جگہ جو آپ ﷺ کی پیدائش پر روشن ہو گئی تھی۔



مواہب لدنیہ میں امام عسقلانی نے لکھا ہے کہ جب حضور ﷺ کی پیدائش ہوئی تو ایسا نور پھیلا کہ حضور ﷺ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس نور کی روشنی میں ملک شام شہر بصرہ کے محلات نظر آنے لگے زیر نظر تصویر انہی محلات کی ہیں جن کو نبی پاک ﷺ کی والدہ نے روشن ہوتے دیکھا تھا۔



بصرہ کی وہ جگہ جو حضور ﷺ کی پیدائش پر روشن ہو گئی تھی۔



بصرہ کی وہ جگہ جو حضور ﷺ کی پیدائش پر روشن ہو گئی تھی۔

منحوس و ملعون قبروں پر سنگباری کی بارش ابن جبیر نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے، تنعمیم کے کچھ دور بائیں طرف ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی قبریں ہیں جن پر پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب تک لوگ آتے جاتے ان منحوس قبروں پر سنگ باری کر رہے ہیں۔



مسجد عائشہ! یہ مقام تنعمیم میں واقع ہے۔



حضور اکرم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ﷺ کی قبر

حضرت عبداللہ ﷺ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں

چودہ سو سال سے مرجع خلاق بنی رہی۔ گزشتہ سال جب سعودی حکومت نے مسجد نبوی ﷺ کے توسیعی پروگرام کے باعث آپ کی قبر اکھاڑی تو میت بالکل تروتازہ اور صحیح و سالم تھی۔ آپ کی قبر کے قریب ہی دو صحابیوں کی قبریں بھی تھیں۔ ان کی میتیں بھی بالکل محفوظ تھیں۔ ان تمام میتوں کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔


جنوری ۱۹۷۸ء میں پاکستانی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی۔

(تاریخ مکہ، المکرمہ)



رسول اللہ ﷺ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ ﷺ کا مزار

حضور ﷺ کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔



عوالی میں مشربہ ام ابراہیم (حضور ﷺ کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تولید ہوئے کے آثار



حضور ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک  
جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔

تورات کے اس نسخے میں حضور ﷺ کی فاران کی چوٹی سے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی

بحر مردار کے قریب قمران کے علاقے میں پہاڑوں میں موجودہ غار سے ملا یہ تورات کا محفوظ نسخہ 1977ء میں ملا




تورات کے طومار (لپٹے ہوئے اوراق)




غاریں جہاں سے وہ برتن ملے جن میں تورات محفوظ تھی



بحر مردار کے کنارے دریافت ہونے والا تاریخی شہر قمران جہاں سے تورات کا نسخہ ملا




وہ برتن جن میں دو ہزار سال قبل محفوظ کیے گئے تورات کے طومار (لپٹے ہوئے اوراق) ملے




”قوم صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ اور قوم شمود“ کے مکانات کے آثار

یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور ﷺ کا تبوک کے موقع پر گزر ہوا۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا لہذا اس جگہ سے تیزی کے ساتھ گزرو اور یہاں کی کوئی چیز استعمال مت کرنا۔

شام کی وہ مبارک جگہ جہاں حضور ﷺ تجارت کے لیے تشریف لائے تھے۔



## عام الوفود 9ھ




حضور ﷺ کے پاس مختلف ممالک سے وفود کی آمد



## عام الوفود

فتح مکہ کے دن معافی کے اعلان کے بعد قبائل کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ان کی عافیت اسلام کے قبول کرنے میں ہی تھی۔ ہجرت کانواں سال ”عام الوفود“ (وفود کی آمد) کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ دسویں سال بھی جاری رہا۔ زیادہ سے زیادہ (۱۰۹) وفود کی آمد کا پتہ ملتا ہے۔ جب کوئی وفد آتا تو کسی اچھی جگہ یا مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے۔ انہیں ”اسطرائیہ الوفود“ کے قریب شرف ملاقات بخشا جاتا اس موقع پر رسول اللہ ﷺ بہترین لباس زیب تن فرماتے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی یہی حکم تھا۔ وفد کی ضیافت کی جاتی۔ تحفے عطا ہوتے۔ عیسائیوں کا ایک وفد بھی نجران (یمن) سے آیا۔ مباہلہ کا واقعہ ان سے متعلق ہے۔ آخر کو اس نے معاہدہ کیا۔ بنی طئے کے وفد میں عدی بن حاتم (داستانی شہرت کا سخی حاتم کا بیٹا) نصرانی وفد کے ساتھ آیا اور اخلاق نبوی ﷺ سے متاثر ہو کر دامن نبوی سے وابستہ ہو گیا۔



یہ جگہ مسجد نبوی کے مغرب میں واقع ہے یہاں حضور ﷺ استسقاء کی نماز پڑھا کرتے تھے اور حضور ﷺ کے زمانے میں یہیں پر زانیوں کو (کوڑے) لگائے جاتے تھے۔



نجران کا منظر (یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسیحی وفد حضور ﷺ کے پاس آیا تھا۔





### کسریٰ کے محلات کے آثار جہاں آپ ﷺ کی پیدائش پر حیران کن واقعات ہوئے

ہانی مخزومی جس کی عمر ڈیڑھ سو سال تھی ان کے بیٹے مخذوم بن ہانی نے روایت کیا کہ جس رات رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے:

”ارتجس ایوان کسریٰ وسقطت منه اربعة عشر مشرافہ.“

آتش کدہ ایران سرد ہو گیا جو ایک ہزار سال سے مسلسل دھک رہا تھا، دریائے ساوہ خشک ہو گیا اور مجوسی عالم موبدان نے خواب میں دیکھا کہ طاقت و راونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہیں علاقہ فارس (ایران) میں پھیلا دیا۔

صبح ہونے پر کسریٰ شاہ ایران بڑا پریشان ہوا مگر اس نے صبر کیا اور خیال کیا کہ اس بارے میں اپنے وزراء و مشیرین سے مشورہ کرنا چاہیے، اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبدان کو بلا لیا۔ اور کہا موبدان! آج رات میرے محل کے چودہ برج گر گئے ہیں اور ہزار سال سے مسلسل

دہکنے والا آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ یہ سب کچھ خاتم الانبیاء ﷺ کی پیدائش کی وجہ سے ہوا ہے۔

## کسریٰ کے محل دیوار

اس زمانے میں دجلہ اسی فصیل کے نیچے بہتا تھا، اس لیے دریا عبور کر کے اس فصیل پر چڑھنا اور اسے فتح کرنا جبکہ فصیل کے ہر قدم پر کھڑے ہونے پہرہ دار ہر لمحے تیروں، نیزوں، اور کھولتے ہوئے تیل کی بارش کر رہے ہوں، جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔

لیکن نہ جانے سرکارِ دو عالم ﷺ کے غلام کونسا جذبہ اور ایمان کی کونسی طاقت لے کر آئے تھے کہ یہ پیکرِ سطوتِ عمارتیں ان کی یلغار کو نہ روک سکیں، کج کلاہ ایران کی صدیوں پرانی تاریخ آن کی آن میں پیوند خاک ہو گئی، اور اس کا شہرہ آفاق دبدبہ مجاہدین کے غبارِ راہ میں گم ہو کر رہ گیا۔

مسلمانوں نے کسریٰ کے اس ایوان کو ایک عبرتناک یادگار کے طور پر باقی رکھا۔ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ اسے منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے ایک ایرانی مشیر نے مشورہ دیا کہ آپ اگر اس ایوان کو باقی رکھیں گے تو اس سے ہر دیکھنے والے پر یہ تاثر قائم ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل تھی، ورنہ عرب کے بے سرو سامان صحرائیوں اس جیسے ایوان کو ہرگز فتح نہ کر سکتے۔

منصور نے مشورہ سنا لیکن دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید یہ مشیر ایرانی ہونے کی بنا پر اپنے آباؤ اجداد کی یادگار قائم رکھنے کے لیے یہ مشورہ دے رہا ہے، چنانچہ خلیفہ نے مشورے کی پروا نہ کرتے ہوئے اسے منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب ایوان کو توڑنا شروع کیا تو تھوڑا ہی حصہ توڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے توڑنے پر اتنی زبردست لاگت آئے گی کہ اس کے بلے سے اس کا بہت تھوڑا حصہ وصول ہوگا، اور اس طرح بہت سی قومی دولت ضائع ہو جائے گی۔

اس موقع پر منصور نے اسی مشیر کو پھر بلا کر مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ ”میں نے آپ کو پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ اسے نہ توڑیں۔ لیکن اب میں آپ کے لیے یہ بات عار سمجھتا ہوں کہ کہنے والے یہ کہیں کہ ایرانیوں نے ایسی عمارت بنائی تھی کہ آپ لوگ اسے منہدم کرنے پر بھی قادر نہ ہوئے۔ لہذا اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے ضرور توڑا جائے۔“

خلیفہ منصور پھر شش و پنج میں پڑ گئے، لیکن غور و فکر کے بعد آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ کام بند کر دیا جائے، کیونکہ اس میں دولت کا بڑا اضیاع ہے۔ چنانچہ یہ ایوان اس وقت سے باقی چلا آتا ہے۔

(تاریخ بغداد للخطیب ص ۱۳۰، ۱۳۱ ج ۱)


حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ مدائن شہر کے اختتام پر کسریٰ کے محل کی ایک دیوار اب تک باقی ہے اور عبرت کا موقع بنی ہوئی ہے، یہ کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین مادی طاقت کسریٰ کا وہی محل تھا جس کے کنگرے سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت با سعادت کے مبارک پر گر گئے تھے اور جس کی شان و شوکت آنحضرت ﷺ کی خندق کھودتے وقت کدال سے اڑتی ہوئی چنگاریوں میں دکھا کر یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ یہ محل مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے جس وقت یہ خوشخبری دی جا رہی تھی، اس وقت خود مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ عرب کے قبائل کے متحدہ محاذ کے حملے کی وجہ سے خود مدینہ طیبہ میں کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔

دونوں جہانوں کا سردار ﷺ خود اپنے مقدس ہاتھوں سے خندق کی کھدائی میں عملاً شریک تھا۔ اور بھوک کی شدت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور خود رحمۃ اللعالمین ﷺ کے لطن مبارک پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے، کون تصور کر سکتا ہے کہ یہ بظاہر بے سرو سامان اور نسبتے افراد دنیا کی عظیم ترین طاقت کسریٰ کا غرور خاک میں ملا کر رہیں گے۔

لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس واقعے کو پندرہ سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ انہی محمد عربی ﷺ کے نام لیوا، اپنے رب کا نام لے کر اٹھے، اور اس عظیم طاقت سے ٹکرا گئے جس کے جاہ و جلال سے کبھی روم کے محلات تک لرزا کرتے تھے۔ کسریٰ کے محل کی یہ ایک دیوار چودہ صدیوں سے زائد کے تھیڑے سہنے کے باوجود آج بھی شان و شکوہ کی تصویر ہے، اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر آج بھی کوئی شخص سطوت کا تاثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے متعدد برج ابھی تک سلامت ہیں، بیچ میں ایک بلند قامت محرابی دروازہ ہے۔ جس کے بعد ایک وسیع و عریض ہال کے آثار نظر آتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کسریٰ کا دربار رہا ہوگا یا محل کا کوئی اور اہم حصہ۔

ایک روایت کے مطابق اس ایوان کے دروازے پر جو پردہ پڑا ہوا تھا، فتح مدائن کے وقت اس کو آگ لگا دی گئی تھی، بعد میں اس پردے سے دس لاکھ مثقال سونا برآمد ہوا۔ جس کی قیمت ایک کروڑ درہم تھی۔ (تاریخ بغداد للخطیب ص ۱۳۱، ج ۱)۔

جب اس بوسیدگی اور فرسودگی کے عالم میں اس عمارت کے شکوہ کا یہ حال ہے تو جب یہ محل اپنے عہد شباب پر ہوگا اس وقت اس کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی سربفلک فصیل اس دور کے لحاظ سے یقیناً ناقابلِ تسخیر ہوگی،



حضور ﷺ کی پیدائش پر کسری کے محل کی اس دیوار پر معجزانہ طور پر دراڑ پڑ گئی تھی۔




### محل کسری

اس کسری سے خسرو پرویز مراد ہے کیونکہ اس وقت کے اور اس ملک یعنی فارس کے بادشاہوں کا لقب کسری ہوتا تھا یہاں نوشیرواں مراد نہیں۔ اب تو کھنڈرات ہیں ورنہ عمارت کی عظمت و شان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کے عظیم ترین اور بہت زیادہ خوبصورت محلات ہوں گے تقریباً سو فٹ اونچی ڈاٹ اور دو دو اور پانچ پانچ اور دس دس گزر چوڑی دیواریں شاہد ہیں۔



قبة الصخرہ نامی وہ مبارک جگہ جہاں سے حضور ﷺ نے معراج کا سفر کیا تھا۔






”اے اللہ ہمارے آمد و فرما“



قبة الصخرہ کا اندرونی منظر


مسجد اقصیٰ کی وہ مبارک چٹان جہاں حضور ﷺ کے ۳۰ ہاں مبارک محفوظ ہیں




زیر نظر تصویر مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار کی ہے یہی وہ مبارک دیوار ہے جہاں  
پر حضور ﷺ نے معراج کی رات کو براق باندھا تھا اب یہ جگہ دیوار  
گریہ کے نام سے مشہور ہے۔



بجیرہ راہب کی خانقاہ کی بیرونی دیوار کا منظر۔





بجیرہ راہب کی خانقاہ کے اندرونی حصہ کا منظر۔



بجیرہ راہب کی خانقاہ کا بڑا دروازہ





## غار حرا میں نبوت کا تحفہ

۱۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا، اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔

۲۔ تین چار سال کی عمر میں دو فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے نور بھر دیا تھا۔

۳۔ جب آپ باہر نکلتے تو ابر آپ ﷺ پر سایہ کرتا اور شجر و حجر سے آواز آتی:

یا نبی اللہ سلام علیک۔

۴۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی بشارت توراہ، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔

۵۔ آپ کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا، جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پائخانہ، پیشاب کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو دو درخت اوٹ کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر کیا شان تھی ہمارے حضور ﷺ کی۔ ہماری جانیں آپ ﷺ پر فدا ہوں۔

## (سچے خواب)

نبوت سے پہلے آپ سچے سچے خواب دیکھتے تھے جن کی تعبیر صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی، پھر آپ تنہائی پسند کرنے لگے، کئی کئی دن کا کھانا پانی لے کر ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام حرا تھا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور ساری دنیا خاص کر عرب کی گمراہی کو سوچ سوچ کر دل ہی دل میں کڑھتے تھے۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے اور بہت راتیں بسر ہو گئیں۔

یہ چالیسواں سال لطف خدا سے

کیا چاند نے کھیت غار حرا سے

عمر کے چالیسویں سال بارہ ربیع الاول کو دو شنبہ کے دن طلوع فجر کے وقت جب کہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لے کر آئے جس کو وحی کہتے ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہا: ”پڑھئے“

عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا اس لیے حضور ﷺ بھی ان پڑھ تھے۔ یعنی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینہ سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا: ”پڑھیئے“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”بھئی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے تین مرتبہ دبایا اور چھوڑا، اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھئے، اور حضور ﷺ برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔

آخر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: ”پڑھئے“

اقراء باسم ربك الذي خلق ۝ خلق الانسان من علق ۝ اقراء وربك الاكرم الذي علم بالقلم ۝ علم الانسان ما لم يعلم ۝ (سورہ علق)

تَرْجَمَةً: ”اپنے اس خدا کے نام پڑھئے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ سلم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“



وہ مبارک جگہ جہاں قرآن کی سب سے پہلی آیات نازل ہوئی۔

اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور ﷺ پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف اور ہیبت سے کانپ اٹھے اور ہے بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا، سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ اس منصب عظیم کے بارگراں سے آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدردی ہوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی

بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا۔

”اے بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو۔“

ورقہ نے کہا۔

”اے بھتیجے کیا بات ہے، تم نے کیا دیکھا، کیا سنا، اور تم کو کیا پیش آیا۔؟“

حضور ﷺ نے غار حرا کا تمام ماجرا کہہ سنایا۔

ورقہ نے کہا۔

”ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا

تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔“

حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”کیا یہ بھی ہوگا۔“

ورقہ نے کہا۔

”ہاں، اور یہ کچھ تم پر موقوف نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔“

پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔

خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ حضور ﷺ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ آپ تو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مصیبت زدوں کی غم خواری فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سوانہ کرے گا۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔

ورقہ بن نوفل اپنے دین و مذہب کے بڑے عالم تھے۔ توراہ

اور انجیل ان کی نوک زباں پر تھی۔ یہ اب بہت بوڑھے اور نابینا


ہو گئے تھے۔

وہ مبارک جگہ جہاں قرآن کی سب سے پہلی آیات نازل ہوئی۔



ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین حرا پہاڑ پر ایک چٹان پر بیٹھے تھے۔ چٹان نے ہلنا شروع کیا۔ رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے۔ رک جاؤ اس پر ایک نبی، ایک صدیق موجود ہے۔

وہ جگہ جہاں قرآن کی پہلی آہت نازل ہوئی




غار حرا کا خوبصورت نظارہ



وہ مبارک مقام جہاں حضور ﷺ کو نبوت کا تحفہ دیا گیا۔

غار حرا سے مکہ مکرمہ کا منظر (بشکریہ مولانا ہاشم)۔




غار حرا: یہ غار مسجد حرام سے چار کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔

غار حرا اتنا تنگ ہے کہ اس میں بمشکل انسان لیٹ سکتا ہے۔ ایام حج میں اس مقام پر حجاج و زائرین کا اتنا اثر و ہام ہوتا ہے کہ غار حرا تک پہنچنا اور دو رکعت نفل پڑھنا بھی محال ہو جاتا ہے، ایام حج کے علاوہ غار حرا میں جا کر اسے سکون سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور نوافل بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔ غار حرا پر جانے کے لیے سب سے بہتر وقت نماز فجر کے بعد ہے تاکہ سورج کی تمازت سے پہلے واپسی ہو جائے۔ اور آسانی سے اترنا اور چڑھنا بھی سکیں۔

یوں تو جواں ہمت لوگ جن میں ضعف، کمزور اور بوڑھے خواتین و حضرات سب ہی شریک ہوتے ہیں۔ وقت بے وقت جاتے ہی رہتے ہیں اور بہت سے بدنصیب ایسے بھی ہیں جو مکہ مکرمہ سا لہا سال سے مقیم ہونے کے باوجود بھی غار حرا کی زیارت سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو جو صاحب استطاعت ہے، توفیق عطا فرمائے وہ اس مقدس و مبارک مقام کی زیارت کر کے اپنے ایمان و ایقان میں پختگی، استحکام اور جلا پیدا کریں۔ آمین۔

غار حرا کا دھانہ ۶۰ سینٹی میٹر چوڑا ہے لمبائی ۳ میٹر، چوڑائی ۱½، بلندی ۲۸۱ ہے۔



اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا

اور اک نئے کیمیا ساتھ لایا

جبل نور جس میں وہ غار واقع ہے جہاں معلم انسانیت ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی انسانوں کو وہ نئے شفاء عطا ہوا جو دل کی ساری بیماریوں کے لیے کامل و مکمل علاج ہے۔



مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت غار ثور میں قیام نبوی ﷺ  
جبل ثور (جہاں آپ ﷺ تین دن روپوش رہے)


اسی غار کی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو آپ ﷺ کا یار غار کہا جاتا ہے۔ اسی غار کے دہانہ پر مکڑی نے جالابن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیئے جس کی وجہ سے مشرکین مکہ جو آپ کے تعاقب میں تھے مایوس ہو گئے۔

ازل سے آج تک مکڑی نے جالے تو بنے ہوں گے جو غار ثور نے دیکھے تھے جالے وہ اور ہی تھے تین راتیں قیام فرمانے کے بعد آپ ﷺ نے یہیں سے ہجرت مدینہ کی طرف سفر اختیار فرمایا۔

کوئی دیکھے رفاقت ابو بکرؓ کی  
یار غار نبوت پہ لاکھوں سلام

مکہ معظمہ سے طائف کے راستے پر تقریباً چھ میل کے فاصلے پر وہ پہاڑ جس میں موجود ایک غار میں رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی ابتداء میں تین راتیں روپوش رہ کر گزاریں۔ جبل ثور کہلاتا ہے اور اس غار کا نام غار ثور ہے۔

اس غار کی اونچائی سطح زمین سے اتنی بلند ہے کہ مکہ سے غارتک پہنچنے میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں۔ جبکہ پہاڑ پر چڑھنے میں ۵۰ منٹ لگتے ہیں۔ غار کے دہانہ میں ۳ آدمی لیٹ سکتے ہیں اس سے زیادہ اس میں وسعت نہیں ہے۔ ہجرت کی رات کو حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ساتھ تھے اور آپ ﷺ کے گھرانے کے چند افراد کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا کہ رسول ﷺ کہاں روپوش ہیں۔



جبل ثور کی دور سے کھینچی گئی تصویر

جبل ثور پر چڑھتے ہوئے آپ ﷺ کے پاؤں مبارک پتھر سے زخمی ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آپ ﷺ کو کندھوں پر اٹھالیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر آپ ﷺ کو بیٹھایا اور خود اندر جا کر غار کی صفائی کی۔ حضور ﷺ اندر تشریف لائے۔ مشرکین تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے لیکن اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے ان کی آنکھوں سے اپنے بندوں کو اوجھل رکھنے کا انتظام کر دیا۔ یہاں آپ ﷺ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو بعد میں اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور یہ آیت اسی موقع کی منظر کشی کرتی ہے:

”الانصروه فقد نصره الله اذا خرجهم الذين كفروا اثنان اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.“

ترجمہ: ”اگر تم اس رسول ﷺ کی امداد نہ کرو گے (تو اللہ خود قادر ہے) وہ اس وقت اس کی امداد کر چکا ہے جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا۔ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ”غم نہ کر بلاشبہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ہمارے ساتھ ہے۔“

## سفر مکہ سے لیکر مدینہ مقام ہجرت کے مبارک مقامات

سفید لکیر غار حرا کے طویل راستے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ ﷺ خلوت میں عبادت کیلئے اکثر یہاں اتنی بلندی کا راستہ طے کر کے آتے تھے۔




جبل النور اور اس میں موجود غار حرا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ پر وحی نازل کرنے کا آغاز فرمایا اور انسانیت کو ہدایت کی روشنی سے اپنے قلب و دماغ کو منور کرنے کا موقع نصیب ہوا۔  
پہاڑ کے دامن سے اس غار کی بلندی ۲۸۱ میٹر ہے۔ غار کا دہانہ ۶۰ سینٹی میٹر چوڑائی کم سے کم ۱۱۰ اور بلندی ۲ میٹر ہے۔



حضور ﷺ اکثر تجارت کے لیے تشریف لاتے تھے زیر نظر تصویر اس مبارک پتھر کی ہے جس پر حضور ﷺ کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔

یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے دامن میں آپ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت 3 دن قیام کیا۔



اس غار میں دو آدمیوں کے لیٹنے کی جگہ ہے یا تین چار بیٹھ سکتے ہیں۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آپ ﷺ کو باہر کھڑا کیا اور اندر سے صفائی کی۔ اپنا تہہ بند پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا لیکن دو سوراخ باقی بچ گئے۔ دونوں سوراخوں پر حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے پاؤں رکھ دیے اور رسول اللہ ﷺ اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔

ادھر حضرت ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ آپ ﷺ جاگ نہ جائیں۔ لیکن ان کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر ٹپک گئے جس سے آپ ﷺ کی آنکھ کھل گئی۔


پوچھا ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی تین راتیں آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے یار غار نے یہاں چھپ کر گزاریں۔

اس دوران حضرت ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے صاحبزادے عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی یہیں راتیں گزارتے تھے وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور سخن فہم نوجوان تھے سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزارا ہے۔ دن بھر کی خبریں جمع کرتے اور رات کی گہری تاریکی میں یہ خبریں آپ ﷺ تک پہنچا دیتے۔ (مزید تفصیل کے لیے احقر کی

کتاب بیت اللہ کا تصویری البم مطالعہ کریں)۔

### غار ثور کی ہیئت

بارہ چودہ فٹ قطر کا پیالہ نما پتھر الٹا پڑا ہے۔ ایک طرف روزن ہے جس سے داخل ہوا جاتا ہے۔ دیکھنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ غار کے اندر کبڑی حالت میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اندر کی طرف زمین ہموار ہے اور پتھر میں خلا کے باعث بتکلف آرام سے بیٹھا بھی جاسکتا ہے۔ جبل ثور کی چوٹی پر پہنچنے والے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں یہاں لے آیا ہے۔



### غار ثور میں حضور ﷺ کی غیبی حفاظت

ابومصعب مکی نے سیدنا انس بن مالک، زید بن ارقم، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو یہ کہے سنا کہ جب حضور سید عالم ﷺ غار ثور میں فرود کش ہوئے تو قدرت الہی سے ایک درخت اگا اس پر کھجوروں نے گھونسلا بنایا انڈے دیے۔ کفار پہنچے تو گھونسلا دیکھ کر واپس ہو گئے۔ حضور سید عالم ﷺ انہیں دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دفع فرما دیا ہے۔ (طبقات ابن سعد، زرقانی)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کفار غار پر آگئے تو میں نے عرض کی حضور اگر کوئی نیچے دیکھ لے گا تو ہم نظر آجائیں گے تو حضور ﷺ نے فرمایا۔

”ماظنک یا ابا بکر بالنس اللہ ثالثہما“

ترجمہ: ”اے ابوبکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔“

یعنی فکر نہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ کار ساز و مددگار ہے۔ دشمنوں کے شر سے بچائے گا۔



### مكان معركة احد

- ١- جبل أحد ٢- جبل الرماة حيث أوقف النبي ﷺ الرماة ٣- مكان معسكر المسلمين قبل المعركة
- ٤- مكان معسكر المشركين قبل المعركة ٥- مكان المرحلة الأولى من المعركة وانتصار المسلمين
- ٦- مكان مقتل سيدنا حمزة ؓ ٧- مسجد سيد الشهداء الحالي ٨- مكان نزول الرماة لجمع
- الغنائم والمرحلة الثانية من المعركة ٩- مكان التفاف جيش المشركين حول جبل الرماة
- لضرب جيش المسلمين من الخلف ١٠- مكان جرح رسول الله ﷺ وقبة الشايبا
- ١١- مدفن شهداء أحد الحالي ١٢- مدفن بقية شهداء أحد.

### حضور ﷺ کا ارشاد ہے میں جبل احد سے محبت کرتا ہوں

جبل احد اس پہاڑ کی بھی زیارت کرے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ یہاں تشریف لاتے اور قیام فرماتے تھے اور اس پہاڑ کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”ہذا جبل یحبنا ونحبہ“۔

یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ کی نظر مبارک جبل احد پر پڑی تو اللہ اکبر کہا اور ارشاد فرمایا: یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر قائم ہوگا۔ اور یہ جبل عمیر ہم سے عداوت رکھتا ہے۔ طبرانی نے کبیر اوسط میں اس روایت کو بیان فرماتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے، احد جنت کے دروازہ پر ہے۔ جبل عمیر ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے یہ جہنم کے دروازے پر ہے۔

سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:


”فاذا مررتم به فكلوا من شجره ولو من“۔

تَرْجَمًا: ”جب اس کے قریب سے گزرو تو اس کے پھلوں کی کچھ نہ کچھ کھاؤ، اگرچہ کوئی عام گھاس ہی کیوں نہ ہو۔“

نیز حضور ﷺ نے فرمایا:


”اربعة اجبال من اجبال الجنة قال فملا جبال؟ قال احد یحبنا ونحبہ وورقان والطور والبنان.“

تَرْجَمًا: ”چار پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں، عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں فرمایا احد کہ وہ ہم کو محبوب ہے اور ہم اس کو اور ورقان اور طور والبنان یعنی جبل قاسیوں۔“



غزوہ احد: وہ جنگ جس میں حضور ﷺ زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور خون آلود ہوا، سات سات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد دیگرے آپ ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے پروانہ وار شہید ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں اور جسموں پر نگی تلواروں اور تیروں کے وار سہے، آپ ﷺ کے محبوب چچا کے ٹکڑے ہوئے، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی اس جماعت نے حق کی تبلیغ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی خاطر یہ سب کچھ ہنسی خوشی، راضی برضا ہو کر برداشت کیا۔



احد پہاڑ کا منظر جہاں غزوہ احد کا معرکہ ہوا اور حضور ﷺ کا دندان مبارک شہید ہوا۔



### شہدائے احد کی جنت

جب صحرائے علاقے سے گزر کر زائر کوہ احد کے دامن میں پہنچتا ہے تو سامنے ایک بڑے احاطے کے درمیان حضرت حمزہ اور دوسرے شہداء کی قبور ہیں یہاں سے بائیں ہاتھ قریب ہی غزوہ احد برپا ہوا تھا جس میں صرف سات سو مسلمان مجاہدین نے کفار مکہ کے تین ہزار کے لشکر کو چند منٹوں میں شکست دے دی تھی اور دائیں ہاتھ وہ جبل الرماة ہے یعنی تیر اندازوں کی چوٹی جہاں سے میدان جنگ کا پانسہ پلٹ گیا تھا اور اس نے اس جگہ کو شہدائے احد کی جنت بنا دیا ہے۔

اس پہاڑ پر حضور ﷺ نے آرام فرمایا تھا




۱۔ جبل بنی عبیدہ۔ ۲۔ جبل عقاب۔ ۳۔ جبل سلع۔ ۴۔ مسجد القبلتین۔

۳۔ جبل سلع: اس پہاڑ پر آپ ﷺ آرام فرماتے تھے کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں ”والله يعصمك من الناس“ تو پھر آپ نے قیام کم کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ پر جاتے اور دعا کیا کرتے تھے۔

۴۔ آپ ﷺ اس مسجد میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے یہاں تک کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا۔







مدینہ منورہ کے ۳ مبارک پہاڑ جن کا احادیث میں ذکر ہے۔  
 صورت تین: جبال الجموات الثلاثہ،  
 ۱۔ جبل جماء تضارع۔  
 ۲۔ جبل جماء ام خالد۔  
 ۳۔ جبل جماء العاقر۔

اس پہاڑ پر حضور ﷺ کے حکم پر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا۔

انعم نامی اس پہاڑ کے پاس آپ ﷺ کے حکم پر ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے آپ ﷺ نے ۳ مرتبہ فرمایا سوچ لے، چونکہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گناہ پر ندامت تھی اور خوف خدا تھا چنانچہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ مجھ سے حقیقت میں گناہ ہوا ہے اس پر آپ ﷺ کے حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے رجم کیا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے جو تمام امت کیلئے کافی ہے۔



آپ ﷺ کا ارشاد ہے یہ پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے ناراض ہیں یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے۔



جبل عمیر



یہ مدینہ الرسول کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس پہاڑ کے متعلق زبان رسالت سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں۔  
 هذا عمیر جبل یبغضنا ونبغضه علی باب من ابواب النار۔

یہ عمیر پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے۔ ہم اس سے ناراض ہیں۔ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے۔  
 یہ پہاڑ کوہ احد کے سامنے مکہ مکرمہ کے راستے میں واقع ہے۔ حضور ﷺ نے اسے اپنے دشمنوں میں شمار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا  
 کہ پتھروں میں بھی دوستی دشمنی پائی جاتی ہے عبر وحشی گدھے کو کہا جاتا ہے۔ (تاریخ المدینہ صفحہ ۳۳۸ آثار المدینہ ۲۰۹)۔  
 ”عمیر“ عین کے فتح کے ساتھ۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع یہ پہاڑ حرم مدینہ کی جنوبی جانب کی حد ہے۔ نبی اکرم ﷺ سفر ہجرت میں اس  
 کی مشرقی جانب سے گزرے تھے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عمیر اور ثور کے درمیانی علاقہ کو حرم قرار دیا ہے۔ اس جگہ  
 حاجیوں کے لیے شکار کھیلنا منع ہے۔



## اس پہاڑ پر حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی

جبل الرایۃ (ذباب)

مدینہ طیبہ کے وہ مشہور و معروف پہاڑ جن کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک جبل الرایۃ بھی ہے۔ اور اسی کا دوسرا نام جبل ذباب ہے۔ یہ ثنیۃ الوداع کے شمال میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو طریق عیون اور سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے راستے کے درمیان واقع ہے۔ (طریق سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا سابقہ نام طریق سلطانہ ہے) یہ گول شکل میں ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو طریق سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ عمارات نے اسے ہر جانب سے گھیر رکھا ہے اور اب طریق عیون سے وہ چھوٹا ٹکڑا نظر آتا ہے جیسا کہ اس کا ایک جزو اس سڑک سے دکھائی دیتا ہے جو ان دونوں راستوں کے درمیان بنی ہوئی ہے۔

حضرت سہل بن سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ذباب پر نماز ادا فرمائی۔ اس طرح بعض اہل سیر نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ خندق کے دن اس پہاڑ پر خیمہ نصب کیا تھا۔ اس پہاڑ کا نام جبل ذباب رکھنے میں کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے اہل مدینہ! یوم الخلاص کو یاد کرو، انہوں نے عرض کی۔ یوم الخلاص کون سا دن ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”دجال آئے گا، یہاں تک کہ ذباب پر اترے گا اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے تمام مشرک مرد اور عورتیں، کافر مرد اور عورتیں اور منافق مرد اور عورتیں اس کی طرف نکل جائیں گے اور مدینہ طیبہ میں صرف مومن باقی رہیں گے۔ وہی دن یوم الخلاص ہوگا۔ حوالہ الاوسط



### جبل ابوقبیس (دنیا کا پہلا پہاڑ)

مسجد الحرام کے صحن مطاف میں کھڑے ہو کر اگر حجر اسود کو اپنی پشت پر رکھتے ہوئے مسجد الحرام کی عمارت کے باہر اوپر کی جانب دیکھا جائے تو حرم سے متصل جو پہاڑ نظر آئے گا وہ جبل ابوقبیس کہلاتا ہے۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر نمودار کیا۔ اس کی بلندی ۴۲۰ میٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر انسان کو نہایت روحانی طمانیت ملتی ہے کیونکہ یہ پہاڑ بہت سے تاریخی ایمان افروز واقعات کا عینی شاہد ہے۔

سیدنا آدم عَلَيْهِ السَّلَام نے خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت اسی پہاڑ کے پتھر استعمال کیے تھے۔ طوفان نوح کے موقع پر حجر اسود بھی اسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا گیا تھا۔ تاکہ طوفان کی تباہ کاریوں سے جنت کا یہ پتھر محفوظ رہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر سید الانبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام نے انگشت شہادت کے اشارہ خفیف سے چاند کو دو ٹکڑوں میں شق کرنے کا روح پرور معجزہ دکھلایا تھا۔

اسی مناسبت سے چند سال پہلے تک اس پہاڑ پر خوبصورت مسجد ہلال تھی مگر اب یہ مسجد قائم نہیں۔ آج کل پہاڑ پر بادشاہ وقت کا ایک نہایت خوبصورت وسیع و عریض محل موجود ہے جو مطاف سے نظر آتا ہے۔ زائرین اور حجاج کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے اس پہاڑ کے نیچے ایک بے حد خوبصورت اور روشن سرنگ تعمیر کی ہے جو حاجیوں کو منیٰ کی جانب لے جاتی ہے۔

جبل ابوقبیس کی بلندی ۱۲۵ میٹر ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی روایت کے مطابق زمین پر سب سے پہلے یہی پہاڑ پیدا کیا گیا تھا۔ قبیلہ یاد میں سے ابوقبیس نامی ایک آدمی نے اس پر مکان بنایا تھا۔ جس کی وجہ سے یہی اس کا نام مشہور ہو گیا۔ یہ پہاڑ حرم شریف کے مشرق میں واقع ہے۔ طوفان نوح کے وقت

قدرتی طور پر حجر اسود اس میں امانت رکھا گیا جسے سیدنا ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام نے تعمیر کعبہ کے وقت حاصل کر کے نصب فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر دعا قبول ہوتی ہے۔

ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم عَلَيْهِ السَّلَام کی روضہ مبارک بھی اسی پہاڑ کے غار، دارالکنز میں ہے۔ یہ اس کے شرف کا باعث ہے کہ ایک نبی کا روضہ مبارک اس پر واقع ہے۔ سیدنا آدم عَلَيْهِ السَّلَام کی روضہ مبارک کے متعلق مختلف دوسری روایات یہ ہیں:

۱۔ مسجد خیف منیٰ میں۔

۲۔ مسجد خیف کے سامنے۔

۳۔ ہندوستان میں جہاں اتارے گئے۔

مستند روایت ہے کہ مسجد خیف میں ہے۔ عروہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اسے پسند فرمایا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا ہندوستان والی روایت کو ترجیح دینا باعث تعجب معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین عرب میں پہنچ کر جبل رحمت پر دعا کے بعد واپسی کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔

اسی پہاڑ پر شق القمر کا مشہور معجزہ ظاہر ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے چاند کو پھٹتے دیکھا ہے اس کا ایک حصہ جبل ابوقبیس پر تھا دوسرا کدی پر۔ ایک حدیث میں اس پہاڑ کا ذکر یوں ہے کہ ایک فرشتہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

اے محمد ﷺ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں پر انخبین کو گرا دوں؟ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو تو حید کا

وہ پہاڑ جہاں اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَام کے بدلہ دنبہ اتارا گیا

## جبل ثمیر

مکہ معظمہ سے منیٰ جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر واقع ہے جب کہ اس کے بالقابل جبل حراء ہے۔ اسی پہاڑ کے ایک حصہ کا نام ”ثمیر الاثمرہ“ ہے جس کے متعلق نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ جب سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو حجاج منیٰ سے عرفات روانہ ہو جائیں۔ امام سہلی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے لکھا ہے کہ جب قریش نے نبی کریم ﷺ کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو اس وقت آپ جبل ثمیر پر تھے۔ اس پہاڑ نے آپ ﷺ سے استدعا کی کہ آپ میرے اندر چھپ جائیں تاکہ قریش اپنے مذموم ارادہ میں ناکام رہیں۔

اسی پہاڑ پر حضرت اسماعیل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بدل میں دنبہ اتارا گیا۔ عرفات کو جاتے وقت بائیں جانب واقع ہے۔ ابو بکر نقاش فرماتے ہیں اس پہاڑ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے اعلان نبوت سے قبل اس پہاڑ پر بھی عبادت فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا ورود مسعود بھی ثابت ہے۔ جہاں سیدہ عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے قیام فرمایا اس پتھر کو صحرا عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

کوہ طور پہاڑ

سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کے چھ کٹڑے ہو گئے تین مدینہ منورہ میں جا پڑے جن کے نام یہ ہیں:

۱- احد، ۲- دورقان، ۳- رضوی،

تین مکہ مکرمہ میں گرے جن کے نام یہ ہیں:

۱- حراء، ۲- ثمیر، ۳- ثور۔ (شفاء الغرام ص ۲۸۲ ج ۱)۔

حضرت ثمامہ بن حزان القشیری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھا جب کہ

حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے گھر کے اوپر سے جھانک کر ارشاد فرمایا: میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی رحمت ﷺ کوہ ثمیر پر تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھے

اتنے میں پہاڑ حرکت کرنے لگا، حضور ﷺ نے اپنا پاؤں مبارک زور سے اس پر مارا اور ارشاد فرمایا: اے ثمیر ساکن ہو جا۔ بے شک تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق

اور دو شہید ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، جی ہاں! ہم جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم میرے لیے گواہ ہو جاؤ میں شہید ہوں۔ یہ روایت امام ترمذی، نسائی و دارقطنی نے نقل کی ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔

## غار مرسلات

وہ غار جہاں حضور ﷺ کے سجدے کا نشان موجود ہے۔

یہ غار بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ منیٰ میں مسجد خیف کے قریب جانب جنوب پہاڑ کے قریب واقع ہے۔ اس غار کے متعلق بہت کم لوگوں کو معلومات ہیں اس لیے اس مقام پر حجاج وزائرین کا اجتماع کم ہوتا ہے مگر یہ وہ غار ہے جس مقام پر نبی کریم ﷺ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی تھی۔ جن لوگوں کو اس کے متعلق معلومات ہیں وہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور دعا مانگتے ہیں لیکن تمام حجاج وزائرین اس مقام کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔

اس غار مبارک میں حضور ﷺ کے سر مبارک کا نشان موجود ہے۔ جب آرام کی غرض سے بیٹھے تو وہاں سے پتھر پکھل گیا اور نشان بن گیا لوگ حصول برکت کے لیے اپنے سروں کو اس مقدس جگہ مس کرتے ہیں کہ اس پاک نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہیں پر سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی اس روایت سے اس کی تائید ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غار بمنیٰ اذ نزلت علیہ والمرسلات.“

ہم حضور ﷺ کے ساتھ منیٰ کے ایک غار میں تھے کہ سورہ المرسلات نازل ہوئی۔ حضور ﷺ تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا۔ حضور ﷺ نے ہمیں اس کے مارنے کا حکم فرمایا، مگر وہ چھپ گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”دقیق شرکم کما وقیتم شرھا.“

تَرْجَمًا: ”وہ تمہارے شر سے بچ گیا تم اس کے شر سے۔“

یہ غار مسجد خیف کے پچھلے پہاڑ میں ہے۔

غار نبی حرام

### وہ مبارک غار جہاں حضور ﷺ پر اللہ نے سلام بھیجا

قبیلہ بنی حرام کی مغربی جہت میں تقریباً ایک سرے کے حجم کے برابر جبل سلع میں ایک غار ہے۔ اس کا راستہ مسجد فتح کے راستے کی جانب ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس میں تشریف فرما رہے، اور غزوہ خندق کے ایام میں کئی راتیں اس میں بسر کیں۔ اسی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ ﷺ کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو اپنی امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں نکلے، لیکن انہوں نے آپ ﷺ کو نہ پایا۔ پھر آپ ﷺ کو گھر میں تلاش کیا، لیکن آپ ﷺ کو نہ پایا، پھر گلی گلی آپ ﷺ کی تلاش میں چکر لگایا، یہاں تک کہ آپ کو بتلایا گیا کہ آپ جبل ثواب پر ہیں۔ پھر باہر نکلے اور جبل ثواب پر چڑھے، دائیں بائیں دیکھا، تو اچانک نظر اس غار پر پڑی جس کا راستہ لوگوں نے مسجد الفتح کی جانب بنا رکھا تھا۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، تو آپ ﷺ سجدہ فرما رہے تھے۔ میں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر تو آپ ﷺ سجدہ ہی کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے اتنی دیر سجدہ سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ مجھے یہ غلط گمان ہونے لگا کہ شاید آپ ﷺ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب آپ ﷺ نے اپنا سر نیاز اٹھایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! مجھے تو آپ کے بارے میں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔

تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقام پر حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں،

وہ واپس گئے اور پھر آئے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمزدہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے (اس نعمت پر) سجدہ شکر ادا کیا۔ کیونکہ افضل ترین وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے وہ سجدہ ہے۔ یہ روایت طبری نے صغیر میں نقل کی ہے۔

حکومت سعودیہ نے اس پہاڑ کے گرد لوہے کا جنگلہ لگا دیا ہے اور پہاڑ کی خوبصورتی کے لیے اس پر مصنوعی آبشار بنا دیا ہے۔ اس پہاڑ کے مغربی دامن میں وہ میدان ہے جس میں غزوہ خندق کے دوران آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قیام رہا۔ اس میدان کے جنوبی، شمالی اور مشرقی جانب پہاڑ ہے جبکہ مغربی جانب کو خندق کھود کر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ حکومت سعودیہ نے میدان سلع کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر اس کی تنظیم نو کر دی ہے۔ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ اور میدان کی خوبصورتی کے لیے آبشار بنا کر مختلف قسم کے پودے لگا دیے ہیں۔ اور اس میدان کا نام ”حدیقۃ الفتح“ تجویز کیا ہے۔ جس کی موجودہ وسعت چھ سوسات مربع میٹر ہے۔

(بحوالہ احقر کی کتاب مسجد نبوی کا تصویری البوم)۔



## مکہ و مدینہ منورہ کے تاریخی کنوئیں

مدینہ منورہ کے متبرک اور تاریخی آثار میں اس کے کنوئیں بھی ایسا ہی مقام رکھتے ہیں۔ علامہ احمد یاسین الحیاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (م ۱۳۸۰ھ) کی تحقیق کے مطابق ان مشہور اور متبرک کنوئوں کی تعداد ۲۳ ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنوئیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے اور اب تو لوگ اکثر کنوئوں کے نام سے بھی واقف نہیں۔ صرف کتب تاریخ میں ان کنوئوں کی یادیں اور روایات ملتی ہیں۔ لیکن ان کے بابرکت پانی سے سیراب ہونے کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔

کنوئوں کی خصوصیات :-

وہ مبارک اور تاریخی کنوئیں تھے کہ جن میں نبی پاک ﷺ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، ان کا پانی نوش فرمایا اور دعا بھی فرمائی۔

لعاب مبارک ﷺ ایک ابدی معجزہ :-

نبی اکرم ﷺ کے بے شمار معجزات مبارک ہیں۔ یہاں پر موضوع کی مناسبت سے صرف آپ ﷺ کے لعاب مبارک کے معجزہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ابدی تھا۔ اور پھر اس معجزہ کے عجیب و غریب، حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوتے تھے، جن کا مشاہدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن رات کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے لعاب مبارک کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں صرف چند ایک کا تذکرہ درج ذیل ہے:

۱۔ حدیبیہ کے کنوئیں میں آپ ﷺ نے جب اپنا لعاب مبارک ڈالا تو کنوئیں میں اتنا پانی آ گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے جانوروں نے پانی پیا اور اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے۔

۲۔ غار ثور میں آپ ﷺ نے جب اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاؤں پر لگایا تو سانپ کے ڈسنے کی تکلیف رفع ہو گئی۔

۳۔ حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو نیپاک ﷺ نے اپنا لعاب مبارک جب آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی آنکھوں پر لگایا تو پھر زندگی بھر آپ کو یہ تکلیف نہ ہوئی۔

۴۔ سیدنا خالد بن ولید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے زخموں پر آپ ﷺ نے جب اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں تو حضرت خالد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے زخم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح آپ ﷺ جب اپنا لعاب مبارک ان کنوئوں میں ڈالتے، وضو فرماتے تو کھارے پانی میٹھے ہو جاتے، جن میں پانی کم ہوتا وہ پانی سے لبریز ہو جاتے۔ ان کنوئوں میں سے اکثر کنوئیں عثمانی دور حکومت تک موجود تھے بعد میں کچھ مسجد نبوی کی آخری توسیع اور کچھ شہر مدینہ کی توسیع میں شامل ہو گئے۔ اور کچھ کی ہم خود حفاظت نہ کر سکے جس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب صرف دو یا تین کنوئیں اس عظیم نبوی دور کی یاد دلاتے ہیں ان کے کچھ آثار موجود ہیں۔ تلاش کرنے سے مل سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے بابرکت پانی سے مستفیض نہیں ہو جا سکتا۔ کیونکہ ان کو بھی باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔



بحرانہ کے مقام پر یہ کنواں تھا جس کا پانی کھارا اور کڑوا تھا، روایت ہے کہ حضور ﷺ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا تو یہ میٹھا ہو گیا اور اس سے اس کثرت سے پانی جاری ہوا کہ آج تک مسجد اور قریب کی آبادی کیلئے آب سردہ شیریں کا بہترین ذخیرہ ہے۔ لوگ اسے گردے کی پتھری کے علاج کیلئے بھی پیتے ہیں

## بِرْغَرَس

یہ کنواں مسجد قبا شریف سے جانب مشرق تقریباً آدھے میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ کافی بڑا کنواں ہے اس میں سیڑھیاں بھی ہیں کہلچے اتر کر آدمی اپنے ہاتھوں سے پی سکتا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس کا پانی بھی خشک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کنویں کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا پانی نہایت متبرک و شریف تھا۔ حضور ﷺ اس کنویں پر تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیتے اور وضو فرماتے۔ ایک روز فرمایا کہ ہم نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ہم نے بہشتی کنوؤں میں سے ایک کنویں پر صبح کی ہے یعنی صبح کے وقت وہاں گئے ہیں۔

چنانچہ آپ نے بِرْغَرَس پر صبح کی، اس کے پانی سے وضو کیا اور کھلی کر کے اس میں ڈال دی۔ اور تھوڑا سا شہد جو کوئی آدمی آپ کے لیے لایا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا۔ اور آپ ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ بعد وفات بِرْغَرَس کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی وصیت کے مطابق بِرْغَرَس کا پانی منگوایا گیا اور اسی سے غسل دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تبرکاً اس کنویں کا پانی منگواتے اور نوش فرماتے تھے۔

ابن ماجہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میرے انتقال کے بعد مجھے بِرْغَرَس کے پانی سے بھری سات مشکوں سے غسل دیا جائے۔ حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بقول رسول اللہ ﷺ اسی کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے۔

## جائے وقوع

یہ کنواں مسجد قبا کے مشرق میں تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ہے اور کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ المطری کے بیان کے مطابق اسے آٹھویں صدی ہجری میں دوبارہ کھودا گیا تھا۔ میں نے اس کی پیمائش کی تو اس کی گہرائی ۱۱ میٹر اور چوڑائی تین میٹر ہے۔ اس کا پانی شیریں ہے اور اس سے ۳۷۰۰۰ مربع میٹر کے ایک قریبی باغ کو سینچا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”بِرْغَرَس جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔“ سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور ﷺ ایک مرتبہ بِرْغَرَس کی منڈیر پر تشریف فرما تھے اور زبان پاک پر یہ الفاظ تھے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ پر بیٹھا ہوا ہوں، یعنی بِرْغَرَس پر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کنواں خراب ہوتا گیا ۷۰۰ ہجری میں اس کی مرمت کی گئی۔ علامہ سمہودی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ۸۸۲ھ میں اس کنویں کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی اور عوام اس کے متبرک پانی سے مستفیض ہوتے رہے۔



اس کنویں کا پانی رسول اللہ ﷺ کی حالت نزع سے قبل آپ ﷺ پر بہایا گیا، اور اس سے آپ ﷺ نے غسل فرمایا۔



برغرس کا اندرونی منظر



برغرس کی قدیم تصاویر



بر السقیاء (وہ مبارک کنواں جس کا پانی آپ ﷺ پیتے تھے)

بر السقیاء کا نام بیوت السقیاء بھی ہے۔ یہ پرانے مکہ مکرمہ کے پہلے راستے کی دائیں جانب واقع ہے۔ اور اس کے پڑوس میں مسجد السقیاء بھی ہے اور آج کل اسے محطۃ الحدید میں ملا دیا گیا ہے، جہاں سے حاجیوں کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ لیکن اب وہ راستے میں آچکا ہے اور اسے بھردیا گیا ہے۔ یہ کنواں ذکوان بن عبد قیس کا تھا۔ پھر اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے خرید لیا۔ حضور ﷺ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی، اس کنویں سے وضو فرمایا اور وہاں دعا فرمائی۔

آپ ﷺ کا میٹھا پانی طلب کرنا

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لیے بیوت السقیاء (ایک روایت میں بر السقیاء کے الفاظ ہیں) سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ اسے امام احمد، اسحاق، ابوداؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔



السقیاء ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ کے حرہ غربی میں واقع ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا راوی ہیں کہ ہم ایک بار ایک لڑائی کیلئے رسول ﷺ کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم حرہ السقیاء میں پہنچے تو آپ ﷺ نے وضو کیلئے پانی طلب فرمایا۔ آپ ﷺ نے وضو فرمایا قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور فرمایا:

”اے اللہ! آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی جب انہوں نے مکہ اور اس کے مکینوں کیلئے رحمت طلب کی۔ میں بھی مدینہ اور اس کے ساکنوں کیلئے اس کا طلبگار ہوں۔ لہذا آپ اس پر دگنی رحمت فرمائیے۔“

آنحضرت ﷺ نے اس جگہ دعا فرمائی اور اس جگہ بعد ازاں مسجد تعمیر ہوئی۔

## بِر بَضَاعَةِ

کتب تاریخ کے مطابق اس کنویں میں اتنا پانی تھا کہ اس کو خالی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضرت سہلؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ اس کنویں پر تشریف لائے اور اس کے پانی سے وضو فرما کر وہی پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ دوبارہ نکلوا کر اس سے کلی فرمائی اور اس پانی کو بھی کنویں میں گرا دیا یعنی اس کنویں اور اس کے پانی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ دو مرتبہ آپ ﷺ کا لعاب مبارک اور وضو کا پانی اس میں شامل ہوا۔ ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا مرتبہ آپ ﷺ کو بَر بَضَاعَةِ پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا، وضو فرمایا، اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس کنویں میں برکت کے لیے دعا بھی فرمائی۔

اب اس دعا اور لعاب مبارک کا معجزہ دیکھیں کہ سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ارشاد فرماتی ہیں:

”كنا نغسل المرضى من بثر بضاعة ثلاثة ايام فيعافون.“

ترجمہ: کہ ہم اپنے بیماروں کو اس کنویں کے پانی سے تین دن غسل دیتے اور وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے۔

ایک اور روایت کے مطابق:

”وكان اذا مرضى المريض في عهدہ ﷺ يقول اغسلوه من ماء بضاعة.“

ترجمہ: ”آپ ﷺ کے دور میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کا علاج یہ ہوتا کہ اسے بَر بَضَاعَةِ کے پانی سے غسل دیا جائے۔“

حضرت سہل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنے ہاتھوں سے اسی کنویں کا پانی لے جا کر آپ ﷺ کو پیش فرماتے تھے۔ یہ کنواں علاقہ الشامی میں ایک باغ میں موجود تھا۔ جہاں پر اب بڑی بڑی اونچی عمارت تعمیر ہو چکی ہیں۔ انہی عمارتوں میں ایک عمارت ”شرف زید“ کی ہے۔ جس کے اندر یہ کنواں واقع ہے جہاں تک رسائی ناممکن ہے۔

سید سہل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس میں لعاب دہن ڈالا تھا اور اپنے ہاتھ سے مجھے اس کا پانی بھی پلایا تھا۔ ابن زبالہ ابی اسیر

سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس کنویں کے لیے دعا برکت فرمائی۔ محمد کہتے ہیں اہل مدینہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو کہتا مجھے بَر بَضَاعَةِ سے غسل کراؤ۔ چنانچہ غسل کے بعد وہ صحت یاب ہو جاتا۔

ابن شیبہ نے سہل ابن سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اسی کنویں کا پانی رسول اللہ ﷺ کے پینے کے لیے لے جاتے تھے۔ سہل ابن سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی کنویں کا پانی پی کر یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ پانی پاک و صاف رہتا ہے اگر اس میں باہر کی کوئی آلودگی شامل ہونے کا احتمال نہ ہو۔

## کنویں کی موجودہ حالت

یہ کنواں الشامی کے علاقے میں تھا لیکن عمارتیں بنانے کے مقصد کی خاطر یہ باغات صاف کر دیے گئے۔ یہ بہذا نامی باغ کے وسط میں تھا جو آخر کار شریف شحات اور شریف ناصران دو بھائیوں کی ملکیت میں آیا جو شریف علی الحیار کے بیٹے تھے اور جنہوں نے اس کنویں کو وقف کر دیا۔

باغ کی جگہ پر کئی تعمیرات ہوئیں زید ابن شحات نے جو اس وقف کے متولی تھے ایک عمارت بنوائی اور اب وہ کنواں اس عمارت کے وسط میں ہے۔ انہوں نے اس کنویں میں ایک پمپنگ مشین بھی لگوائی تاکہ اس کا پانی عمارت کے سامنے ایک باغیچے کی سیرجائی کے کام آسکے۔

شرف زید نے لوگوں کو پہنچنے کی اجازت دی ہے جو اس کنویں کی زیارت کرنا چاہیں، اس کنویں کو ایک پختہ کمرے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جو خاص طور سے کنویں کی حفاظت کے لیے بہت مضبوط کیا گیا ہے۔ اس کی گہرائی ساڑھے دس میٹر ہے اور قطر چار پانچ میٹر کے درمیان ہے۔



مقام بَر بَضَاعَةِ۔



### بیر البقعة

یہ کنواں قباء کے راستہ میں جنت البقیع سے متصل ہے، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس تشریف لے گئے، اتفاق سے اس دن جمعہ کا مبارک دن تھا، آپ ﷺ نے اس کنویں پر سر مبارک دھویا، پھر غسل فرمایا۔ کسی مدنی شخص سے معلوم کر کے پتہ چل سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے، کیونکہ اب بقیع کی طرف سڑکیں اور عمارتیں بہت بن گئی ہیں۔ سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ شہداء احد اور ان کے بال بچوں کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن تشریف لائے تو مجھے فرمایا: تیرے پاس بیری کے پتے ہیں کہ انہیں پانی میں ملا کر سردھویا جائے۔ عرض کیا حضور ﷺ پتے حاضر ہیں۔ چنانچہ آب بصدہ کی طرف تشریف لائے، سر مبارک دھویا، اور سر کا دھونی بصدہ میں ڈالا۔ ابن نجار فرماتے ہیں یہ کنواں بقیع شریف کے قریب تھا، اس کی چوڑائی چھ یا سات ہاتھ تھی۔ (خلاصۃ الوفاء ص ۳۱۱)۔



### تصویر کنواں بصدہ کبریٰ مدینہ منورہ

یہ کنواں باب العوالی کے پاس البقیع کی سمت میں واقع تھا۔ روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک بار اس کے پانی سے سر مبارک دھویا اور وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے قریب ایک اور چھوٹا کنواں واقع ہے۔ ابوالیمن ابن الزین مراغی فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں نبی پاک ﷺ کے پرانے کنوؤں کو میں نے شمار کیا تو اسے سات پایا جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور وہ آریس غرس، رومہ، بضاعة، بصدہ، براء اور غصن ہے۔

## بئر حاء

یہ کنواں حرم نبوی ﷺ کے بالکل قریب باب المجیدی میں اصطفاء منزل کے پیچھے واقع ہے، مگر اب وہ ایک عمارت کے اندر آ گیا ہے اس وقت یہ کنواں باب عثمان کے سامنے ایک مکان میں ہے جس کی وجہ سے عام لوگ اس کے مبارک و شیریں مانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ حضور ﷺ کے زمانہ پاک میں اس کنویں کے ارد گرد بہت سے درخت تھے، آپ اکثر اوقات تشریف لاکران درختوں کے سایہ میں بیٹھتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔


سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ کے انصار میں سے حضرت ابو طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے باغات سب سے زیادہ تھے اور انہیں اپنے تمام باغات میں بئر حاء بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی شریف کے قریب ہونے کی وجہ سے حضور انور ﷺ اکثر وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ پانی نوش فرماتے پھر جب آیت نازل ہوئی:

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ.“

تو سیدنا ابو طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض پرداز ہوئے کہ مجھے بئر حاء بے حد پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں پسندیدہ چیز ہی خرچ کر کے نیکی کے کامل درجہ کو پہنچ سکتے ہو لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بئر حاء کو خیرات کرتا ہے۔

کنویں کی موجودہ حالت

یہ کنواں اس وقت بھی موجود ہے اس میں ایک پمپ لگا ہوا ہے لیکن وہ اب کارآمد نہیں ہے۔ اب یہاں اس باغ کے کوئی آثار نہیں ہیں جس کا ذکر المطری نے کیا ہے۔ اس کی بجائے یہاں وہ عمارت ہیں جو الکردی خاندان کی ملکیت ہیں، یہاں ایک چھوٹی سی غیر آباد مسجد ہے جو کنویں کے جنوب میں واقع ہے۔



جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے حدود حرم سے کچھ پہلے سڑک کے دائیں جانب واقع حدیبیہ کا تاریخی کنواں اس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے پانی کی سہولت کے پیش نظر اس کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا۔ آج بھی اس میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔

### بزرگسایا خانم

یہ کنواں مسجد قبا شریف کے قریب ہی دائیں طرف واقع ہے۔ نجدی حکومت نے اس کے اندر مٹی اور پتھر وغیرہ ڈال کر اس کا پانی خشک کروا دیا ہے، حالانکہ اس کا پانی نہایت شریں اور لطیف تھا کیونکہ اس میں آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ چونکہ لوگ اس کو تبرکاً پیتے اور اپنے ہمراہ لاتے تھے اور یہ ان کے نزدیک غالباً شرک تھا اس لیے اس کو بند کروا دیا ہے۔

حضور ﷺ نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اسی کی برکت سے اس کا پانی شریں اور لطیف ہوا تھا، ورنہ پہلے اس کا پانی میٹھا نہ تھا۔ بعض مرتبہ حضور اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام اس کنویں پر شریف لاتے اور اس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہتے۔

حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر باہر نکلے اور اپنے دل میں کہا کہ آج سارا دن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ مسجد میں آیا نبی کریم ﷺ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ ﷺ اس طرف نکل گئے ہیں۔ میں بھی آپ ﷺ کے بارے میں پوچھتے پوچھتے آپ کے پیچھے نکل پڑا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ بزرگسایا خانم میں داخل ہو گئے اور میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اس کا دروازہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے وضو فرمایا۔ میں اٹھ کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس حال میں کہ آپ ﷺ بزرگسایا خانم پر تشریف فرما تھے۔ اس کی منڈیر کے درمیان میں، پنڈلیاں مبارک نگی تھیں اور دونوں پاؤں مبارک کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ تو میں نے جا کر سلام عرض کیا۔ پھر میں واپس آ کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ آج کا دن میں رسول اللہ ﷺ کے لیے دربان رہوں گا۔

### صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشارت جنت

اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ابو بکر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”انذن له وبشره بالجنة.“

تَرْجَمَةً: ”انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دو۔“

میں آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اندر آ جاؤ اور رسول اللہ ﷺ تمہیں جنت کی بشارت بھی فرما رہے ہیں۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دائیں جانب منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکالیے اور اپنی پنڈلیاں بھی نگی کر لیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ کیے ہوئے تھے۔ پھر میں واپس لوٹا اور بیٹھ گیا میں نے اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑا تھا کہ وہ پیچھے سے مجھے آ ملے گا تو میں نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے وہ آ جائے۔ اس سے ان کی مراد اپنا بھائی ہے۔

### عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشارت جنت

اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاوے۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اور کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”انذن له وبشره بالجنة.“

تَرْجَمَةً: ”انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دو۔“ میں آیا۔ تو انہیں کہا اندر داخل ہو جاؤ اور رسول اللہ ﷺ نے تمہیں جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بائیں جانب منڈیر پر بیٹھ گئے اور کنویں میں پاؤں لٹکالیے۔

### عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشارت جنت


پھر میں واپس لوٹا اور بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرمائے تو وہ آ جائے۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاوے۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ ﷺ کو خبر دی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”انذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه.“

تَرْجَمَةً: ”انہیں آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ اس آزمائش اور مصیبت کے ساتھ جو انہیں پہنچے گی۔ میں واپس آیا اور انہیں کہا اندر آ جاؤ۔ اور رسول اللہ ﷺ تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اس آزمائش اور مصیبت کی شرط پر جو تمہیں پہنچے گی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور منڈیر کو بھرا ہوا پایا تو آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے۔“



بیرخانم جہاں حضور ﷺ کی انگوٹھی مبارک گر گئی تھی اور بہت کوشش کے بعد بھی نہ ملی۔



### بیرخانم کی قدیم تصویر


ارلیس کنواں پر قبہ بنا ہوا ہے اس کنویں میں آپ ﷺ نے اپنا لعاب ڈالا تھا جس کی برکت سے یہ میٹھا ہو گیا تھا لوگ برکت سمجھ کر اس کا پانی لے جاتے تھے حکومت سعودیہ نے اب اس کو بند کر دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ایک دن میں آپ ﷺ کو ڈھونڈ رہا تھا تلاش کیا تو میں نے آپ کو ارلیس کے کنویں پر پاؤں لٹکائے پایا۔

## وہ کنواں جس میں حضور اکرم ﷺ کی انگوٹھی مبارک گر گئی تھی

اور آپ کے خلاف فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اس کنویں میں پانی کمر تک تھا، آپ نے پانی کے ساتھ مٹی تک نکلوا دی اور تین دن تک اس کی تلاش جاری رکھی مگر انگوٹھی کا پتہ نہ چلا۔

۱۹۳۷ء تک لوگوں کو اس کنویں کی زیارت کا موقع ملتا تھا اور لوگ پاؤں لٹکا کر بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے، اس وقت تک اس میں پانی تھا اور استعمال میں بھی آتا تھا۔ پھر ۱۹۵۶ء میں بھی پانی تھا اور استعمال میں بھی آتا تھا۔

پھر ۱۹۶۳ء میں پانی خشک ہو چکا تھا، لوہے کی سیرھی سے مقامی بچے اس میں نیچے اتر جاتے تھے۔ پھر ۱۹۶۸ء میں تو کنواں سڑک کی توسیع میں آچکا تھا، پرانے جانے والے لوگ تو سمجھ جاتے تھے، نئے آدمی اس کی جستجو ہی نہیں کرتے تھے کہ حتیٰ کرا۱۹ء میں ایسا غائب کر دیا گیا کہ نشان تک باقی نہ رہا کہ کہاں تھا، اب وہاں سڑک بنی ہوئی ہے۔ (ازقاری شریف احمد)۔



اریس کا قدیم کنواں (۱۳۲۰ھ) قدیم تصویر

حضور اکرم ﷺ کی انگوٹھی مبارک جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا، آپ پہنا کرتے تھے۔ آپ کی وفات شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کو پہنا اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک دن وہ اسی کنویں مبارک میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے اور اس انگوٹھی کو انگلی میں پھرا رہے تھے کہ اچانک وہ اس کنویں میں گر گئی۔ تین روز تک کنویں میں اس کی تلاش کروائی سارا پانی باہر نکلوا یا مگر وہ نہ ملی۔ انگوٹھی مبارک گرنے کا اتفاق خلافت عثمانیہ کے چھٹے برس میں ہوا تھا۔

انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ فتنوں کا سیلاب اٹھ آیا۔ اور اسلامی مملکت کا شیرازہ تار تار ہو کر بکھر گیا۔ اس مقدس انگوٹھی میں انسانی اور اک سے ماورا کچھ ایسے اسرار پنہاں تھے جو گمشدگی کے بعد ظاہر ہونے لگے جس طرح سیدنا سلیمان عَلَيْهِ السَّلَام کی انگوٹھی گم ہوتے ہی مملکت افراتفری کا شکار ہو گئی تھی۔ سیدنا عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے لیے بھی فتنے جان لیوا ثابت ہوئے۔

مورخ ابن النجار نے کنویں کی پیمائش یوں بیان کی ہے ۲۱ فٹ گہرا اور ۸ فٹ چوڑا جب کہ پانی پانچ فٹ گہرا تھا اور جس کی منڈیر پر حضور اقدس ﷺ اور آپ کے خلفاء بیٹھے تھے، وہ ۴ فٹ بلند تھی۔ ۱۳، ۱۳۱۳ء میں صفی الدین السلامی نے اس کی سیرھیوں کی تجدید کرائی۔ بعد ازاں حکومت عثمانیہ نے بھی اس کی اصلاح و مرمت کرائی، مگر ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ء میں اس کا پانی خشک ہو چکا تھا۔

آپ ﷺ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”اے عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ایک دن یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے براریس میں گرے گی، اس کے بعد تمہارے خلاف فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔“ چنانچہ ایک روز وہ انگوٹھی آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی

## بئر رومہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں

ہیں۔ ۵۰ھ میں اس کنویں کو ایک بار پھر تعمیر کیا گیا اور لوگ اس کے پانی سے سیراب ہوتے رہے۔

۱۳۹۲ھ، ۱۹۷۲ء سے کنواں اور اس کے گرد و پیش واقع باغات اور کھیتی وغیرہ اوقاف مسجد نبوی کے زیر اہتمام ہیں۔ گائے، مرغیاں اور خرگوش بھی پائے جاتے ہیں اور ان کے لیے چارہ اور خوراک بھی انہی کھیتوں میں اگائی جاتی ہے۔

امام مراغی امام مطری کا قول نقل کرتے ہیں کہ مذکورہ کنواں عرصہ سے خراب پڑا تھا۔ پھر بھی خستہ حال گرے پڑے تھے بعد کے کسی دور میں صفائی کر کے تعمیر و مرمت کیا گیا اور قد آدم کے برابر بلند منڈیر بنائی گئی۔ تو پھر خراب ہو جانے پر ۱۳۴۹ھ میں قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن محمد بن المحب الطبری قاضی مکہ المشرقہ نے اس کی تجدید کرائی اور پانی جاری کرایا۔

جس وقت رحمت کائنات ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بئر رومہ کے سوا تمام کنویں کھارے تھے۔ اور اس کنویں کا مالک پانی قیمتاً فروخت کرتا تھا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بئر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اسے اس کے صلہ میں جنت ملے گی۔ اس پر میں نے وہ کنواں خرید کر امیر، غریب اور مسافر سب کے لیے وقف کر دیا۔ (ترمذی)

**جائے وقوع** السہودی کے بیان کی رو سے یہ کنواں وادی العقیق کے وسط اور مسجد قبلتین کے شمال میں تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابن النجار کے بیان کے مطابق اس کی گہرائی ۸ میٹر اور چوڑائی ۶ میٹر تھی۔ المطری کے بیان کی رو سے مکہ معظمہ کے قاضی محمد ابن المحب الطبری نے اسے ۱۳۵۲ھ میں ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

یہ کنواں جس میں اب پانی نہ ہونے کے برابر ہے ایک باغ کے وسط میں واقع ہے اور وادی العقیق کے کنارے بڑے بڑے سیاہ پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، یہ باغ مسجد نبوی کے اوقاف کی ملکیت ہے اور وزارت زراعت و آبپاشی کو پٹے پر دیا ہوا ہے اور محکمے نے اس باغ کو زراعتی تجربات کا سینٹر بنا رکھا ہے۔

رسول پاک ﷺ کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں جب پانی کی شدید قلت ہو گئی اور مسلمان پانی کے محتاج ہونے لگے تو اس وقت بئر رومہ (رومہ کا کنواں) ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ مسلمانوں کو اس کا پانی نہایت مہنگے داموں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ مسلمان اس وقت نہایت تنگی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے لیے ”بئر رومہ“ کا پانی خریدنا نہایت مشکل تھا۔ رسول اللہ ﷺ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی خوشحالی اور ان کی سربابی کے لیے یہ کنواں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔

اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کنویں کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عملی سخاوت کا ایک اور مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک تھا:

”جس نے اس کنویں کو خریدا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک نہر عطا فرمائیں گے۔“

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ ﷺ کے ہر حکم کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا کرتے تھے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور شدید گرمی کی وجہ سے جب اس میں پانی کی کمی ہو گئی تو ایک بار پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من حصر بئر رومہ فله الجنة.“

کہ جس نے بئر رومہ کھدوایا اس کے لیے جنت کی بشارت۔ تو پھر ایک بار یہ عظیم سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں ہی آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کنویں کو کھدوایا اور جنت کی عظیم سعادت کے مستحق ٹھہرے۔ انہوں نے یہودی سے منہ مانگی رقم یعنی تقریباً ۲۵ ہزار درہم میں وہ کنواں خریدا اور ہدیہ (مفت) مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے اللہ کی مصلحت کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بد بختوں نے اپنے محسن پر اسی کنویں کا پانی بند کر دیا۔ بعد میں آپ مسجد النبوی ﷺ میں شہید کیے گئے۔

یہ نہایت مقدس جگہ ہے، اسلامی تاریخ کا ایک جھروکہ ہے، زائرین اگر پرائیویٹ گاڑیوں سے مسجد قبلتین سے واپس ہوتے ہوئے شمال کی جانب کچے راستے پر چلیں تو یہ کنواں نظر آتا ہے۔ وہاں سعودی حکومت نے ”بئر عثمان“ کے نام سے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے، عربی میں ”بئر“ کنویں کو کہتے





برسیدنا عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (برِ رومہ)

وہ خشک کنویں جہاں سے معجزانہ طور پر آپ ﷺ کی دعا سے پانی جاری ہو گیا۔  
برِ رومہ۔ ایک روایت کے مطابق ستر انبیائے کرام نے اس کنویں کا پانی پیا ہے۔



عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے کنویں کا منظر جسے آپ نے  
یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔



یہ کنواں مدینہ کے زرخیز علاقے میں العقیق وادی کے قریب واقع ہے یہ کنواں مزینہ کے ایک آدمی نے کھودا تھا اور پھر اس نے رومہ الغفاری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ کنواں مدینہ منورہ کے شیریں ترین پانیوں میں سے تھا اور نبی اکرم ﷺ اس کا پانی بے حد پسند فرماتے تھے۔

روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ اس کنویں کا پانی مسلمانوں کیلئے حاصل کرنا چاہتے تھے مگر مالک دینے پر راضی نہ تھا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے علم میں آئی تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔



طوبیٰ کا کنواں۔ حضور ﷺ فتح مکہ کی رات یہاں رہے اور صبح اس کنویں کے پانی سے غسل فرما کر مکہ شہر میں داخل ہوئے۔

عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا معمول تھا کہ وہ ذی طوبیٰ میں رات گزارتے پھر صبح کو غسل کر کے مکہ مکرمہ داخل ہوتے، اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔



اس کنویں کا پانی کھارا تھا آپ ﷺ نے اس میں اپنا  
لعاب دہن ڈالا جس کی برکت سے یہ میٹھا اور فرحت بخش ہو گیا۔



کنواں عھن مدینہ منورہ۔



برالعھن نامی کنویں کا اندرونی منظر

## بَر ذروان

حضور سید عالم ﷺ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ موئے مبارک نکال لیے گئے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کا بھی انکار کر دیا کہ نبی پر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا انہوں نے جادو کو نبوت کے منافی سمجھا، اگر بیماری زخم تکلیف نبوت کے منافی نہیں تو جادو کیسے ہو گیا۔ بات یہ تھی لوگ حضور ﷺ کو جادو گر کہتے تھے۔ لبید اور اس کی بچیوں نے تجربہ کیا، کہ پتہ کریں یہ جادو گر ہے یا نبی، تو جادو کیا جادو گر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اگر یہ معمولی اثر بھی نہ ہوتا تو وہ سمجھ جاتے، یہ جادو گر ہے اثر اس لیے ہو گیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے جادو گر نہیں ہے۔

چند کافروں نے حضور ﷺ کے موئے مبارک لے کر جادو کر کے دبا دیے تھے۔ جس کا اثر طبع انور پر یہ ہوا کہ ایک کام فرما کر دریافت فرماتے فلاں کام کر لیا گیا ہے۔ آپ آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے حاضر ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، حضور ﷺ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم کی لڑکیوں نے جادو کیا ہے۔ پہلے نے کہا کیسے اور کہاں؟ دوسرے نے کہا بالوں میں جادو کیا گیا ہے، بَر ذروان میں پتھر کے نیچے دبا دیے گئے ہیں۔



مقام بَر البوصۃ

## بَر زرع

ابن زبالہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک مرتبہ بنی خطمہ کے ہاں تشریف لائے، اور ایک بوڑھی اماں کے گھر نماز ادا فرمائی۔ پھر بنی خطمہ کی مسجد میں تشریف لائے پھر ان کے کنویں پر گئے جو مسجد کے صحن میں تھا، اس سے وضو فرمایا اور لعاب دہن ڈالا۔



جب حضور ﷺ تبوک پہنچے تو وہاں موجود چشمے میں پانی بہت کم تھا، آپ ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں کا دھوون اس چشمے میں ڈالا تو وہ جوش مار کر پھوٹ پڑا اور تیس ہزار پر مشتمل لشکر اسلام اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ یہ قلعہ ترکوں نے اسی چشمے کے گرد تعمیر کیا ہے۔

نام سے مشہور ہوا۔ مسجد نبوی ﷺ کے صحن میں جانب مشرق ایک مختصر احاطہ میں باغ سیدہ فاطمہؓ ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا جس کے اوپر قبہ بنا ہوا تھا۔ اس کنویں کو بئر النبی ﷺ بھی کہتے تھے۔

قاضی محمد سلیمان منصور پوری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اپنے سفر نامہ حجاز میں بیان کرتے ہیں کہ کنواں تو پہلے سے موجود تھا لیکن اس میں آپ ﷺ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، فرماتے ہیں کہ اس کا پانی ایسا بامزہ اور اتنا شیریں تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا۔

ابن جبیر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اور ابن بطوطہ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے بھی اپنی کتابوں میں اس کنویں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ عوام اسے کوثر کا کنواں اور اس کے پانی کو آب کوثر سے یاد کرتے تھے۔ کتاب الرحلة الحجازية (ص ۲۵۷) کے مطابق اہل مدینہ اس کنویں کا پانی امراء و حکام کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ بعد ازاں اس بابرکت کنویں کو بند کر دیا گیا اور بستان سیدہ فاطمہ الزہراء کو بھی منادیا گیا۔

### حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا کنواں

تاریخ مدینہ منورہ کی اکثر کتب میں ”ذوالحلیفہ“ کے مقام پر کنوؤں کا ذکر ملتا ہے:

”ذوالحلیفہ بہا عدة آباد والماء فيها كثير.“  
ذوالحلیفہ میں کثرت سے کنویں اور ان میں پانی کی بھی کثرت ہے یہی کنویں بعد میں آبار علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علامہ سمودی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے بھی وفاء الوفاء میں بئر علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا ذکر کیا ہے:

”بذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي ابن ابي طالب.“

ترجمہ: ”کہ ذی الحلیفہ میں ایک کنواں بئر علی کے نام سے عوام میں مشہور ہے۔“

انہی میں سے ایک کنویں کے قریب آپ ﷺ نے غسل فرما کر احرام باندھا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کنویں ختم ہوتے گئے اور صرف ایک کنواں باقی رہ گیا جو بئر علی کے



اس جگہ عہد عثمانی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ میں حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا کنواں تھا یہ جگہ میقات کے قریب واقع ہے۔

بئر علی

## بِر القراضہ

یہ واقعہ حضور ﷺ سے عرض کیا گیا۔ حضور ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ اس جگہ تشریف لائے۔ اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا اور دعا برکت فرمائی۔ اس سال اس پانی کی برکت سے یہاں کے پھلوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اب پھلوں سے قرض خواہوں کو ادا ایگی کر دی گئی۔

ابن زبالہ جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو قرض خواہوں نے اپنے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قرض خواہوں سے کہا آپ بِر القراضہ لے لیں انہوں نے انکار کر دیا۔ (شاید اس کی مالیت کم تھی)



بِر غرس کی جدید تصویر اب یہاں اطراف میں تعمیرات بھی ہو چکی ہیں۔

عبد الحمید بن جعفر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم ﷺ نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تو آپ نے یہاں خیمہ لگایا۔ یہاں کی مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ اس کنویں کا پانی نوش فرمایا۔



بِر غرس کی جدید تصاویر اکتوبر 2000

### بئر متسیرب (بئر الیہوب)

یہ کنواں ”الحجیش“ کے علاقے میں مکہ جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ یہ کنواں پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک ویرانے میں واقع ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنی سپاہ کے ساتھ غزوہ بدر کیلئے تشریف لے جاتے ہوئے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے اور اس میں پانی کی وافر مقدار ہے جو اس تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے۔



مہر نبوی (انگوٹھی)



وہ کنواں ہے جس میں حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ سے آپ ﷺ کی انگوٹھی گر گئی تھی۔



### بئرِ عہن

عوالی مدینہ میں ایک باغ واقع ہے۔ رسول اللہ ﷺ یہاں تشریف لائے اور وضو کر کے نماز ادا فرمائی۔ ان متبرک کنوؤں کا پانی رسول اللہ ﷺ نے استعمال فرمایا اور اپنا لعاب مبارک اور وضو کا بچا ہوا پانی ان میں ڈالا ہے۔ تاکہ جب تک بھی یہ کنویں باقی رہیں رسول اللہ ﷺ کا بچا ہوا پانی امت کو نصیب ہوتا ہے اور ہر ایک ان کی خیر و برکت سے سرفراز ہو۔ یہ کنواں قبا کے شرقی جانب باغ میں واقع ہے۔

### مزید اور (۱۳) انمول کنویں


ان مذکورہ کنوؤں کے علاوہ مکہ و مدینہ میں بے شمار متبرک کنویں موجود ہیں۔ جن میں سے ۱۳ کنوؤں کی تفصیل پڑھنے کے لیے احقر کی کتاب مسجد نبوی کا تصویری الہم کا مطالعہ کریں۔

ایک غزوہ میں حضور ﷺ کے معجزے کے طور پر جب چشمے کا پانی فوارے کی مانند ابلنے لگا تو اسے ذخیرہ کرنے کیلئے قریب ہی تین حوض تعمیر کیے گئے۔ یہ تینوں آج تک موجود ہیں.....



# باب نمبر 6

مکہ و مدینہ کی حضور ﷺ  
سے منسوب مشہور مساجد



## مکہ اور مدینہ کی مشہور مساجد (یعنی مقام النبی ﷺ)

ابن النجار متوفی ۶۳۳ھ لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک (اموی خلیفہ) نے مدینہ منورہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو لکھا ہے کہ جس جگہ کی صحیح نشاندہی ہو جائے کہ وہاں نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی وہاں مسجد تعمیر کر دی جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بڑے اہتمام سے نشاندہی کر کے ان مساجد کی تعمیر کروادی۔ بعد ازاں امراء، حکام اور عام مسلمان ان تاریخی مساجد کی تعمیر و تجدید، مرمت و توسیع میں حصہ لیتے چلے آئے ہیں۔ آخری صدیوں میں شاہان عثمانیہ ترکیہ نے ان مساجد کی تجدید اور مرمت کا بہت کام کیا خصوصاً سلطان سلیمان خان عثمانی نے اپنے دور حکومت ۹۱۶-۹۴۸ھ میں مدینہ منورہ کی مساجد کی از سر نو تجدید کی۔

### مساجد تبوک

مدینہ منورہ کے راستے میں بیس مساجد ہیں جن میں سے ہر ایک کو رسول اللہ ﷺ کے رکوع و سجود کا شرف حاصل ہے۔ بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ ہم نے اختصار کی غرض سے صرف ان کے نام لکھ دیے ہیں۔

- ۱۔ مسجد تبوک۔ ۲۔ مدران کی گھاٹیوں پر واقع مسجد۔
- ۳۔ ہذرات الزراب۔ ۴۔ مقام اخضر۔ ۵۔ مقام خطمی۔
- ۶۔ جبالی۔ ۷۔ برآء۔ ۸۔ شق تارہ۔ ۹۔ ذی الحلیفہ۔
- ۱۰۔ ذی الحدفا۔ ۱۱۔ شوق۔ ۱۲۔ صدر غازی۔ ۱۳۔ حجر۔
- ۱۴۔ معبد قزح۔ ۱۵۔ وادی القرئی۔ ۱۶۔ قریہ بنی عذرہ۔
- ۱۷۔ رقعہ۔ ۱۸۔ ذی المروہ۔ ۱۹۔ فیفاء الفحلتین۔
- ۲۰۔ ذی شب۔

جس خاک پہ اصحاب رضی اللہ عنہم کے سجدوں کے نشان ہیں وہ ہے مرے اسلاف کی تاریخ کا حصہ ان مساجد کے بارے میں لوگ افراط و تفریط (کمی و زیادتی) میں مبتلا ہیں۔ ایک گروہ تو بعض مساجد کے نشانات ختم کر دینے کا ذہن رکھتا ہے۔ ”اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ انہی ہدایت عطا فرمائے“ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ تاریخی نشانات ہیں جنہیں ہمارے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اور ان کیلئے بھی جو ہمارے بعد آئیں گے۔ غور کرنے والا طالب علم اور تحقیق کرنے والا مورخ اس کے ہر حصے میں اسلام و مسلمانوں کے تاریخی صفحات و اوراق محفوظ پائے گا۔ اور اپنی آنکھوں سے اسلام کے عظیم سپوتوں اور بہادروں کے کارناموں کو زندہ و پائندہ محسوس کرے گا اور بعض غزوات اور انصار کے قبائل کے ٹھکانوں کی معلومات حاصل کر سکے گا۔

### مختلف ادوار میں تاریخی مساجد کی تعمیر

بعض مساجد تو ایسی ہیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں تعمیر ہو چکی تھیں۔ ان میں بعض مساجد ایسی ہیں جن میں آپ ﷺ نے نماز ادا فرمائی۔ بعض ایسی ہیں کہ آپ ﷺ نے وہاں نماز ادا فرمائی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس جگہ کو مسجد قرار دے دیا۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں نبی اکرم ﷺ یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے نماز ادا کی لیکن وہاں مسجد نہ تھی چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس جگہ مسجد تعمیر کروادی اور پہلے سے بنی ہوئی مسجدوں کو از سر نو تعمیر کروایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سنہ ۸۷ھ تا ۹۳ھ میں مدینہ منورہ کے حاکم مقرر کیے گئے۔ انہی مساجد کی معلومات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور یہی اس کا موضوع ہے۔

### مسجد قبلتین

حضور ﷺ نے جب مدینہ سے ہجرت فرمائی تو آپ ﷺ سترہ ماہ تک اپنے معمول کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ ﷺ کی شدید خواہش تھی کہ نماز کا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی ذکر کیا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رخ یہود کے قبلہ سے پھیر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک بندہ ہوں آپ ﷺ اپنے رب سے درخواست کیجئے۔

آپ ﷺ دعا کرتے رہے اور ہر نماز کے بعد چہرہ آسمان کی طرف اٹھالیتے کہ شاید اب حکم ربی آجائے۔ ہجرت کے اٹھارویں مہینہ میں یعنی شعبان دو ہجری میں بدر کے معرکہ سے ایک ماہ قبل سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

”قد نرى قلب وجھک فی السماء فلنولينک قبله ترضها فول وجھک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره“

ترجمہ: تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لو ہم اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم عین حالت نماز میں اسی مسجد میں نازل ہوا تھا۔ اسی لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ لیکن ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ اس روز بشر بن براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے، ظہر کا وقت آ گیا، حضور ﷺ نے اپنے اصحاب کو دو رکعتیں پڑھائیں تیسری رکعت میں یکا یک یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہی کعبہ کی طرف پھر گئے۔

اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی خوب منادی کرائی گئی۔ خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے حکم سنتے ہی سب کے سب کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ بہر حال اس مسجد میں کچھ عرصے پہلے تک دو محرابیں تھیں مگر اب تھوڑے عرصے پہلے بیت المقدس کی طرف کے رخ والا محراب بند کر دیا گیا ہے۔

### مسجد قبلتین کی جائے وقوع

یہ مسجد مدینہ منورہ کے شمال غربی جانب بنی سلمہ کے مکان کی سطح زمین پر تعمیر کی گئی، اس کے اطراف میں وادی العقیق کے باغات ہیں جو جانب غرب دور تک چلے گئے ہیں۔

### مسجد قبلتین کی تعمیر

رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں یہ مسجد پتھروں، لکڑی کے لٹھوں اور کھجور کی شاخوں و پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ مورخین کے بقول ۸۹۳ھ (۱۴۹۱ء) میں شاہین جمالی نے اس مسجد کی اصلاح و تجدید کا کام کرایا اور اس میں ایک نئی چھت ڈلوائی۔ پھر ۹۵۰ھ (۱۵۴۶ء) میں سلطان سلیمان عثمانی نے بھی اس کی تجدید میں حصہ لیا۔

اس کے بعد ملک عبدالعزیز نے مسجد کو از سر نو تعمیر کرایا، اس کے رقبے کو وسعت دی، مینار بنوائے اور اس میں پختہ زینے تعمیر کرائے۔ مسجد کا طول ۹ میٹر اور عرض ۴.۵ میٹر ہے۔ مسجد کے جنوبی حصے میں ایک محراب بنی ہوئی ہے جو غالباً اسی جگہ ہے جہاں دوران نماز رسول اللہ ﷺ پر قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا تھا۔


تاریخ میں سب سے زیادہ توسیع خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔

روشنی کے باوجود، نور بکھیرتی ہوئی یہ مسجد خصوصاً رات کے وقت وہ سماں پیدا کرتی ہے کہ آنکھیں ہی نہیں بلکہ روح تک منور ہو جاتی ہے۔ توسیع کے بعد مسجد کا مجموعی رقبہ ۳۹۲۰ مربع میٹر ہو گیا ہے۔ جبکہ پرانی مسجد کا رقبہ ۴۲۵ مربع میٹر تھا۔ موجودہ توسیع شدہ مسجد کی دو منازل میں دو ہزار مرد اور چار سو خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔

مسجد کی توسیع و تعمیر کے حوالے سے خادم الحرمین شریفین نے حکم دیا کہ اس مقدس اسلامی شعائر کی حفاظت کی جائے اور اسے انقلابی تبدیلیوں کے ساتھ نہایت خوش نما انداز سے بنایا اور سنوارا جائے۔ خادم الحرمین شریفین کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے بن لادن کمپنی نے اس عظیم الشان منصوبے کو بڑی تندہی، جانفشانی اور ماہرانہ انداز سے مکمل کیا۔ مسجد کی تعمیری منصوبہ بندی اور پلاننگ کے لیے اسلامی فن تعمیر اور عصر حاضر کے عظیم آرکیٹیکٹ انجینئر ڈاکٹر عبدالواحد الوکیل کی خدمات حاصل کی گئیں۔



اس مبارک مسجد میں آپ ﷺ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ظہر ادا کر رہے تھے کہ نماز ہی میں آپ ﷺ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔



## مسجد اقصیٰ مسجد حرام کی طرف قبلہ کی تبدیلی

### بیت المقدس:-

بیت المقدس یا بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ اسے یورپی زبانوں میں Jerusalem (یروشلم) کہتے ہیں۔ ”بیت المقدس“ سے مراد ”مبارک گھر“ یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی جنگ میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر بیت المقدس 31 درجے 45 دقیقے عرض بلد شمالی اور 35 درجے 13 دقیقے طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت الحم اور الخلیل اس کے جنوب میں ہیں اور رام اللہ شمال میں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صیہون (ZION) ہے جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صیہونیت قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے برکت والی سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620ء میں نبی کریم ﷺ جبریل کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔

### مسجد اقصیٰ کی تاسیس:-

حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام (961 ق م) کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔

### ہیکل سلیمانی کی تباہی:

ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 ق م میں شاہ بابل (عراق) بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور وہ ایک لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس شہر کو مردہ (ویران) پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر کبھی پھر آباد ہوگا؟ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ سو سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔


بخت نصر کے بعد 539 ق م میں شہنشاہ فارس کوروش کبیر (سائرس اعظم) نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرودا اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے تھے۔

یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70ء میں یروشلم شہر اور اسراء۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی (کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ ہی کہا گیا ہے) خلیفہ عبدالملک نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی اور خلیفہ ولید بن عبدالملک (705ء تا 715ء) نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین کی اور ابو جعفر منصور نے اس کی مرمت کرائی صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا گیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے کئی کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان (Templum Solomonis) رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کونٹیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنالیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187ء میں شہر بیت


المقدس فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کی عبادت کے تمام نشانات سے پاک کیا اور حراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حوالہ اٹلس سیرت انبی

## مسجد قبلتین


یہ مسجد مبارک وادی عقیق میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً پون میل کی مسافت پر ہے۔ مساجد فتح یا مساجد  
خمسہ بھی اس کے قریب ہی واقع ہیں۔ بزرگوار (سیدنا عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کا کنواں (مدینہ منورہ سے  
جاتے ہوئے اس مسجد شریف کے دائیں جانب ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کی عمارت بھی یہاں سے بالکل سامنے  
دکھائی دیتی ہے۔ حضور سید عالم ﷺ نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی ہے۔ یہ مسجد مقدس بنو سلم کے نام سے متعارف  
تھی کہ یہاں قبیلہ بنو سلم آباد تھا۔



مسجد قباء



مسجد قبلتین (یعنی دو قبلوں والی مسجد)



مسجد قبلتین، مدینہ منورہ کے مغرب میں جرہ غریبہ میں ایک بلند مقام پر وادی عتیق اور بئر رومہ کے نزدیک واقع ہے۔ عہد رسالت میں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ یہاں آباد تھے۔ اس قبیلہ کی ایک مسلمان خاتون ام بشر تھیں۔ رحمت اللعالمین ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ام بشر مومنین اور کفار کی ارواح کے متعلق سوالات پوچھنے لگیں۔ اس اثنا میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔

### مسجد قبلتین کا فضائی منظر

#### مسجد قبلتین:

اسے ”مسجد بنی سلمہ“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو سلمہ کے محلے میں واقع ہے۔ اس مسجد کو ”مسجد قبلتین“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف (منہ کر کے) پڑھی گئی تھی۔ کچھ نماز بیت المقدس کی طرف اور کچھ بیت اللہ کی طرف۔ مسجد قبلتین بئر رومہ کے قریب ہے۔ 893ھ میں الشجاعی شاہین الجمالی نے اس کی تجدید کرائی۔ مسجد کا داخلی حصہ قبة دار ہے جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔

پھر عثمانی سلطان سلیمان عالیشان نے 950ھ، 1543ء میں اس کی تعمیر نو کی۔ (تاریخ المدینۃ المنورہ)

### مسجد قبلتین کا فضائی منظر



مسجد قبلتین کے مینار کا منظر۔

## مسجد جن جہاں ۱۲ جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا

فرمادی، کہ اسی دوران جنات جہنم درجہ درجہ جمع ہونے لگے حتیٰ کہ آپ ﷺ میری نظر سے اوجھل ہو گئے اور آپ ﷺ کی آواز بھی مجھ تک پہنچنا بند ہو گئی پھر وہ آپ ﷺ کے پاس اس طرح متفرق ہونے لگے جس طرح بادل چھٹتے ہیں۔ جبکہ جنات کی ایک جماعت بیٹھی رہی اور آپ ﷺ ان کے ساتھ فجر تک بات چیت میں مشغول رہے پھر آپ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: میں نے ان کو ہڈی اور گوہر توشہ کے طور پر دیا ہے، لہذا تم لوگوں کو ہڈی اور گوہر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔

بعض روایات میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ پرانی ہڈی پر جنات کو اس کی اصل شکل میں لگا ہوا گوشت مل جائے گا اور گوہر پر اس کی اصل شکل میں چارہ دستیاب ہوگا، یہ آپ ﷺ کا معجزہ اور رہتی دنیا تک جنات پر اس رحمۃ اللعالمین ﷺ ذات کا احساس ہے اور پرانی ہڈی اور گوہر سے استنجا کرنے سے ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ اس سے جنات کی خوراک آلودہ ہو جاتی ہے اور ان کو اذیت پہنچتی ہے، بعض لوگ ان اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں کرتے تو جوابی طور پر جنات انہیں پریشان کرتے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب جنوں کا آسمان پر جانا روک دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جنات کے وفد بھیجے۔ جو وفد حجاز میں بھیجا گیا وہ مقام نخلہ پر پہنچا تو وہاں حضور سید عالم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز فجر ادا فرما رہے تھے، جنات کے وفد نے جب قرآن حکیم سنا تو کہنے لگے: واللہ! یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان

رکاوٹ بنا ہے۔ ”انا سمعنا قرآن عجبا۔“

اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اس مقام پر ان آیات کا نزول ہوا۔

وہ جگہ جہاں حضور ﷺ کے ہاتھوں پر ۱۲ جنات نے اسلام قبول کیا۔



حرم شریف سے نکل کر محلہ شعب عامر کی طرف آئیں تو سرخی مائل ٹانگوں سے بنی دوسرٹوں کے بیچ میں ایک مسجد نظر آتی ہے، یہ مسجد جن ہے جو محلہ شعب عامر و محلہ سیمانہ کے درمیان سڑک پر واقع ہے۔ یہاں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جن حاضر ہوئے، آپ ﷺ سے قرآن سنا، اسلام قبول کیا اور بیعت سے مشرف ہوئے جسے قرآن نے سورہ جن میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اے نبی! کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر (جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے) کہا ”ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔“

یہ مسجد معلاہ جاتے ہوئے بائیں جانب ہے اور کرا سنگ پل سے متصل ہے، اس کو ”مسجد جن“ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اس موقع پر آپ ﷺ کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تھے آپ ﷺ نے ان کے لیے زمین پر ایک خط حد فاضل کے طور پر کھینچ دیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل نبوت کے دسویں سال طائف سے واپسی پر مقام نخلہ میں بھی کچھ جنات نے آپ ﷺ سے ملاقات کی تھی۔


۱۳۲۱ھ میں مسجد جن کی تجدید ہوئی، اس مسجد کا دوسرا نام مسجد حرس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں اپنے صحابہؓ سے فرمایا:

”تم میں سے جو شخص جنات کے معاملہ کو دیکھنا چاہے وہ آجائے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی حاضر نہ ہوا، لہذا ہم مکہ میں ایک جگہ معلاہ پہنچے تو آپ ﷺ نے اپنے پاؤں مبارک سے ایک دائرہ کھینچا اور مجھ سے فرمایا کہ ”اس میں بیٹھ جاؤ۔“ آپ ﷺ تھوڑا آگے چلے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع



وہ جگہ جہاں حضور ﷺ کے ہاتھ پر ۱۲ اجنات نے اسلام قبول کیا



نئی مسجد جن



نصیبین سے آئے ہوئے جنوں نے اس مقام پر آپ ﷺ سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے تھے۔ یہ مسجد اسی جگہ تعمیر کی گئی ہے۔

## ایک صحابی جن

ابن جوزی نے اپنی کتاب الصفوہ میں اپنی سند کے ساتھ سہل بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس پر ایک خوبصورت قیمتی جبہ ہے۔ اس کے سلام پھیرنے پر انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا تو اس جبہ پر تعجب کر رہا ہے، یہ جبہ سات سو برس سے میرے پاس ہے اسی جبہ میں میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، اسی میں پیارے محمد رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے، اور کہا! میں انہیں جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی۔

سفر طائف میں ملنے والے یہ جن مقام نصیبین کے تھے۔ نوجن تھے اور جب انہوں نے اپنی قوم کو اطلاع پہنچادی تو تین سو فوراً اسلام لانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بارہ ہزار جنات نے اسلام قبول کیا تھا۔

ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک شخص سواد بن قارب سے گزرا۔ قبل از اسلام اس کے قبضہ میں جن تھا جو اسے غیب کی خبریں بتانے میں مدد دیتا تھا۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تم سے زمانہ کہانت کی باتیں تو نہیں پوچھوں گا مگر اتنا بتا دو کہ تمہارے دوست جن نے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ سواد نے کہا تو سنئے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ایک رات میں نیم خوابی میں تھا کہ میرے مطیع جن نے میرے پاؤں جھنجھوڑے اور کہا:

”لم یا سواد بن قارب واسمع مقالتي واعقل ان كنت تعقل. انه قد بعث رسول من لوى بن غالب يدعوا الى الله والى عبادته ثم انشاء بقول“

اٹھو سواد بن قارب اور میری بات سنو اور عقل مند ہو تو عقل سے کام لو۔ بلا شبہ لوی بن غالب میں رسول ﷺ کی بعثت ہو چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قلم کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قلم کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جن جموں جموں کر یہ شعر پڑھنے لگا:

عجب للجن ولطه بها

وشد العيس بالنا بها

میں جنوں کے دور دراز سفر کے لیے بور یا بستر باندھنے پر تعجب کر رہا ہوں۔

تھوی الی مکة تبغی الهدی

ما صادق الجن ککذبها

اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو تو مکہ معظمہ کی طرف جلدی چلو اور یاد رکھو سچا جن جھوٹے جن کی طرح ناقابل اعتماد نہیں ہوتا۔

وارحل الی الصفوة من هاشم

لیس قداما کانا فابها

جا جا جلدی اور ایک بار بنو ہاشم کے اس چہرہ جمیل کو دیکھ تو سہی ویسا جمال تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔

میں نے اسے کہا:

”دعی انام“ چل بھاگ! مجھے سونے دے۔ لیکن دوسری رات اس نے پھر

میرے پاؤں ہلائے اور وہی الفاظ دہرائے:

وارحل الی الصفوة من هاشم

بین راجیها واهجارها

بنو ہاشم کے عظیم صفت، اللہ کے منتخب نبی ﷺ کی زیارت سے اپنا دل روشن کر لے۔

تیسری رات بھی اس نے یہی عمل کیا۔ تینوں راتیں اس نے یہ شعر ضرور پڑھا:


عجبت الجن وتحاسها

واشدها لعيس باحلاسها

میں حیران ہوں میری جنات کی برادری جلد سے جلد مکہ مکرمہ جانے کی تیاری کر رہی ہے، ایک ایک اپنے اونٹوں کے کجاوے کتے نظر آتا ہے اگر تو عقل مند ہے ہدایت چاہتا ہے تو اٹھ جلدی کر۔

سواد بن قارب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے تیز رفتار سواری کا انتظام کیا اور پھر رات دن ریت کے طوفانوں کی پروانہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو ہادی برحق رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور اسلام قبول کر لیا۔





نصیبین (الجزیرہ) سے جنوں کی آمد



### قدیم مسجد جن

قبرستان جنت المعلیٰ کے قریب سوق معلیٰ میں یہ مسجد واقع ہے، اس کو مسجد بیعت اور مسجد حرس بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر جنات سے بیعت لی تھی اس وقت یہ مکہ کی آبادی سے باہر کھلی جگہ تھی اب اسی بیعت کی جگہ پر خوبصورت مسجد تعمیر ہے جو مسجد جن کہلاتی ہے۔

### ابلیس کے پڑپوتہ کی حضور ﷺ کے پاس آمد

بیہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جبکہ وہ مکہ جا رہے تھے ایک سانپ مرا ہوا دیکھا، انہوں نے ایک کپڑے میں اسے کفن دے کر دفن کر دیا تو غیب سے کسی کہنے والے کی آواز سنی:

”اے سرق! اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے فرمایا تھا کہ اے سرق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تم ایک خالی میدان میں وفات پاؤ گے پھر تم کو میری امت کا بہترین شخص دفن کر دے گا۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا تم کون ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ عرض کیا میں جنوں میں سے ایک شخص ہوں اور یہ سرق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہے۔ اور جنات میں سے جن جن لوگوں نے حضور ﷺ سے بیعت کی تھی ان میں سے میرے اور اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرمایا تھا کہ اے سرق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تم ایک خالی میدان میں وفات پاؤ گے اور تم کو میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھے ایک سانپ قتل ہوا پایا۔ کسی نے اپنی چادر کے ٹکڑے میں اس کو کفن دیا اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو چار عورتیں اسے پوچھتی ہوئی آئیں اور انہوں نے ان کو بتایا کہ کافر جنوں نے مسلمان جنوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور اس کو قتل کر دیا تھا اور یہ شخص اس جماعت میں سے تھا جنہوں نے حضور ﷺ سے قرآن شریف سنا تھا پھر اپنی قوم کو تبلیغ کرنے گئے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے دو سانپوں کو لڑتے دیکھا ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کی خوبصورتی اور خوشبو پر انہیں بڑا تعجب ہوا۔ کسی نے کفن دے کر دفن کر دیا تو ایک جماعت کو سلام کرتے ہوئے سنا۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ مقتول ان لوگوں میں سے تھا جو حضور ﷺ پر ایمان لے آئے اس کو ایک کافر نے قتل کر دیا ہے۔

کئی سندوں سے یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے یہ حدیث منقل

ہے کہ ابلیس کا پڑپوتہ ہامہ بن بہم بن لاقیس بن ابلیس، حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تہامہ کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اس نے بتایا کہ جن دنوں قابیل نے ہابیل کو قتل کیا وہ بچہ سا تھا اور یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت نوح غلبیہ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت نوح غلبیہ علیہ السلام نے جب قوم کو بددعا دی تو اس نے عرض و معروض بھی کیا تھا جس پر وہ بھی رو پڑے تھے اس کو بھی رلا دیا تھا۔ اور یہ کہ ہابیل کے خون میں شریک تھا تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔

حضرت نوح غلبیہ علیہ السلام نے چند چیزیں کرنے کا حکم دیا تھا جن میں یہ بھی تھا کہ وہ وضو کرے اور دو سجدے کرے۔ اس نے فوراً ایسا کر لیا تو آپ نے بشارت دی کہ اس کی توبہ کی قبولیت آسمان سے نازل ہوگی۔

اس پر ہامہ ایک سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں رہا اور یہ کہ ہود غلبیہ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا تھا اس نے یعقوب غلبیہ علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے اور یوسف غلبیہ علیہ السلام سے تو گہری دوستی تھی اور وہ لوگوں سے گھائیوں میں ملتا تھا اور آج بھی ملتا ہے۔

اور موسیٰ غلبیہ علیہ السلام سے بھی ملا اور اس کو انہوں نے کچھ تورات سکھائی تھی اور حکم دیا تھا کہ ان کی جانب سے حضرت عیسیٰ بن مریم غلبیہ علیہ السلام کو اگر اس کی ملاقات ہو تو سلام پہنچادے اور یہ کہ وہ عیسیٰ غلبیہ علیہ السلام سے بھی ملا تھا اور ان کو موسیٰ غلبیہ علیہ السلام کا سلام پہنچادیا تھا اور عیسیٰ غلبیہ علیہ السلام نے بھی اس کو حکم دیا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہو تو سلام پہنچادے۔

حضور ﷺ یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا: عیسیٰ غلبیہ علیہ السلام پر بھی سلام جب تک دنیا باقی رہے، اور اے ہامہ! تجھ پر بھی ادائے امانت کے لیے سلام۔ پھر ہامہ نے حضور ﷺ سے قرآن سیکھنے کی درخواست کی اور آپ نے اسے قرآن سکھایا اور فرمایا: اے ہامہ! تم کو کوئی حاجت ہو تو ہم کو مطلع کرنا اور زیارت کرنا نہ چھوڑنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں ہے۔

اس جگہ حضور ﷺ کے حکم پر درخت چلتا ہوا آپ ﷺ کی خدمت میں آیا تھا۔

### درخت والی مسجد

ازرقی (متوفی ۲۳۳ھ ۸۵۸ء) کہتے ہیں کہ مسجد شجرہ مسجد جن کے مقابل واقع ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مسجد اسی جگہ پر بنائی گئی ہے جہاں سے آپ ﷺ نے درخت کو بلایا تھا، اس وقت آپ ﷺ مسجد جن کے قریب تشریف فرما تھے درخت چل کر آیا جب آپ ﷺ نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا، فاکہی مؤرخ کا بھی یہی قول ہے کہ مسجد شجرہ مسجد حرس (مسجد جن) کے مقابل ہے یہاں ایک درخت تھا جس کو رسول اللہ ﷺ نے بلایا تو وہ حاضر خدمت ہوا۔ ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ مقام حجون میں رنجیدہ تھے آپ ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آج مجھے ایسی کوئی نشانی دکھا دیجئے کہ پھر مجھے اپنی قوم کے جھٹلانے کی پرواہ نہ ہو تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ شہر کی جانب سے ایک درخت زمین چیرتا ہوا آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور سلام عرض کیا پھر آپ ﷺ نے اس کو واپس جانے کو کہا تو وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اب مجھے پرواہ نہیں کہ میری قوم مجھے جھٹلائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ حجون میں تھے کہ مشرکین نے آپ ﷺ کی دعوت کو جھٹلایا تو آپ ﷺ نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! آج مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے کہ پھر مجھے کسی کے جھٹلانے کی پرواہ نہ ہو، آپ ﷺ سے کہا گیا کہ درخت کو اپنے پاس بلائیے تو وہ درخت چل کر آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور سلام عرض کیا، آپ ﷺ نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج کے بعد مجھے پرواہ نہیں کہ یہ قوم مجھے جھٹلائے۔

ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معجزہ نبوی مقام حجون (معلاتہ) میں پیش آیا، اور یہ درخت مسجد شجرہ کی جگہ پر اور مسجد جن کے سامنے قریب ہی تھا، آپ ﷺ مسجد جن کی جگہ یا اس کے قریب تشریف فرما تھے کہ جنات نے آپ ﷺ سے ایسا معجزہ طلب کیا جو آپ ﷺ کی نبوت کی واضح دلیل ہو، چنانچہ آپ ﷺ سے یہ کھلا ہوا معجزہ ظاہر ہوا جس کے بعد جنات نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ فاکہی کی روایت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔

ماضی قریب کے مؤرخین نے مسجد شجرہ کے محل وقوع کا تعین نہیں کیا، متقدمین کی تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد جن کے قریب ہی تھی۔ مدینہ کی تاریخی مساجد۔



مسجد شجرہ

وہ جگہ جہاں آپ ﷺ نے گوشت نوش فرمایا تھا۔




مسجد الشیخین

وادی قناتہ کی طرف جاتے ہوئے مقام شیخین کے قریب اس مسجد میں رسول ﷺ نے غزوہ احد میں شامل ہونے سے پہلے جمعۃ المبارک کی نماز ادا فرمائی۔ پھر عصر، عشاء اور صبح کی نماز کے بعد چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس جگہ آپ ﷺ نے گوشت نوش فرمایا تھا جس کو میں بنا کر لائی تھی پھر آپ ﷺ احد کی طرف روانہ ہوئے شیخین مدینہ منورہ اور جبل احد کے درمیان دو بستیوں کا نام ہے۔



قدیم مسجد شیخین یا مسجد بدائع

وہ مبارک جگہ جہاں حضور ﷺ نے ایک رات قیام فرمایا بعد میں اس جگہ مسجد بنا دی گئی۔



مشر بہ ام ابراہیم کے گرد احاطے کا قلمی خاکہ (یوسف البکری)



مشر بہ ام ابراہیم کے ارد گرد احاطہ کا منظر

### مسجد مشربہ ابراہیم

عوالی میں واقع باغات اور درختوں میں گھرا ہوا مشربہ ام ابراہیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا جہاں ام ابراہیم ماریہ قبطیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مسکن تھا۔ یہیں رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ چونکہ یہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی یا لونڈی کا گھر تھا اس لیے اس میں آپ ﷺ کے نماز ادا کرنے میں شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں آپ ﷺ کا ذاتی باغ بھی تھا۔

معروف مساجد میں سے ایک مشربہ ام ابراہیم ابن النبی ﷺ بھی ہے۔ ام ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا تھیں۔ مقوقس شاہ اسکندریہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ، ان کی بہن سیرین اور ایک ان کا قریبی رشتہ دار حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے سیرین حضرت حسان بن ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو عطا فرمادی اور ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور انہیں اپنے لیے لونڈی کی حیثیت سے رکھا اور اپنے مال صدقہ میں بالا خانہ میں انہیں سکونت عطا کی۔

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ گھوڑے سے گر پڑے۔ جس کے سبب آپ ﷺ کی پنڈلی یا کندھا کچھ زخمی ہو گیا اور آپ ﷺ نے اپنی ازواج سے ایک ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ اپنے مشربہ (کمرے) میں تشریف فرما ہوئے، اس کی سیڑھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے پاس عیادت کے لیے حاضر ہوتے اور آپ ﷺ انہیں بیٹھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ الحدیث اسے حضرت امام بخاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے روایت کیا ہے۔

آج کل اس مسجد کے کوئی آثار نہیں ہیں، یہ بنو قریظہ کے شمال میں حرہ شرقیہ کے نزدیک باغات کے درمیان واقع تھی، اب صرف ایک چار دیواری ہے، قبلہ سے شمال کی جانب ۱۶ فٹ اور شرقاً غرباً ۲۱ فٹ ہے

اس جگہ حضور ﷺ نے فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا



### مسجد الرایۃ

عربی میں ”رایۃ جھنڈے کو کہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں وہ مقام جہاں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا وہاں یہ مسجد قائم ہے۔ ۱۰ رمضان ۸ ہجری کو فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ نے یہاں علم یعنی جھنڈا نصب کیا اور حکم فرمایا کہ مکہ کے جن لوگوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی انہیں ہر طرح کی معافی ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا انتہائی تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ جس پر آج کی دنیا بھی محو حیرت ہے کہ ایسا شخص جو ہمیشہ دشمن اسلام رہا لیکن جب وہ مغلوب ہوا تو رسول ﷺ نے انتقام لینے کی بجائے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی بخش دیا۔ عفو و درگزر کی یہ اعلیٰ مثال تاریخ انسانیت میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ”مسجد الرایۃ“ مکہ کے محلہ شعب عامر میں مسجد الحرام کے پانچ مرکزی دروازوں میں سے ایک ”باب الفتح“ سے نہایت قریب ہے۔ ”باب الفتح“ کی وجہ تسمیہ بھی یہی مسجد اور فتح مکہ کا واقعہ ہے۔



اس جگہ آپ ﷺ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا

اس مبارک جگہ آپ ﷺ نے سجدہ شکر کیا تھا اور اسی جگہ آپ کو امت پر درود پڑھنے کے فضائل بتائے گئے اور یہ کہا کہ جس نے آپ ﷺ پر ایک بار سلام بھیجا رب کریم خود اس پر سلام بھیجے گا۔





### مسجد سیدنا ابوبکر صدیق

اس جگہ نبی کریم ﷺ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے انتقال پر ان کیلئے نماز جنازہ ادا فرمائی آنحضرت ﷺ نے یہ نماز عید الفطر بھی اسی مقام پر ادا فرمائی۔

### مسجد سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (صدیق اکبر

### رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی رہائش گاہ)

یہ مسجد شریف سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی طرف منسوب ہے۔ یہ مقدس مسجد محلہ مسفلہ میں واقع ہے۔ اسی مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا رہائشی مقام تھا۔ ہجرت کی اجازت مل جانے پر حضور پر نور ﷺ اسی مکان میں تشریف لائے اور صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے اجازت کا ذکر فرمایا۔ فوراً صدیق اکبر

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی حضور ﷺ! میں بھی۔ فرمایا:

تو بھی، اسی مکان کو مسجد میں بدل دیا گیا۔

علامہ ابن جبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بھی اپنی کتاب میں اس مسجد کے مکان اور محل وقوع کا ذکر فرمایا ہے کہ بہت سرسبز علاقہ میں واقع ہے۔ آج کل یہ مسجد شریف دو منزلہ

ہے، مدرسہ فرقانیہ بھی یہیں قائم ہے۔

یہ مسجد حقیقت میں مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد ہے جہاں نبی کریم ﷺ اور دیگر مسلمان ہجرت سے پہلے باجماعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اصل میں یہ جگہ حضرت ابوبکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قیام گاہ تھی اور چونکہ اسلام لانے والوں میں آپ سب سے پہلے بالغ مسلمان تھے اس لیے یہ شرف بھی آپ ہی کے مکان کو حاصل ہوا کہ جب وحی کے ذریعہ نبی کو ہجرت کا حکم نازل ہوا تو آپ نے اپنے رفیق خاص کے ہمراہ اسی مکان سے ہجرت فرمائی تھی اور بعد میں اس مکان کو مسجد کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔

### مسجد منارتین:

وادی رفیقین سے وادی عقیق کی طرف جاتے ہوئے  
بائیں طرف اس مسجد کے آثار آج بھی موجود ہیں۔  
رسول اللہ ﷺ نے یہاں بھی نماز ادا فرمائی۔




### مسجد کبش

منیٰ میں جمرہ عقبہ کے عقب میں جبل شبیر کے دامن میں  
ایک مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ  
تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل  
علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے لے  
گئے تھے۔ اور بیٹے کو زمین پر لٹا کر ان کے گلے پر چھری  
پھیرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں  
ایک مینڈھا آ گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی  
پوری ہو گئی۔ اس مقام پر ایک مسجد قائم ہے جسے ”مسجد  
کبش“ کہتے ہیں۔




اس جگہ حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی

### مسجد عروہ کی قدیم تصویر



اس جگہ حضور ﷺ نے آرام فرمایا تھا



### مسجد المعرس:

یہ مسجد وادی شفیقہ کے مشرق کی طرف وادی بطحی کے درمیان واقع ہے۔ ”عمرہ، حج یا غزوات سے واپسی پر رسول اللہ ﷺ اکثر رات کے وقت یہاں آرام فرماتے اور صبح مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا قصد فرماتے۔“ عربی میں عرس کے معنی شب کو آرام فرمانے کے ہیں..... رسول اللہ ﷺ کے یہاں آرام فرمانے کی نسبت سے اس مسجد کا نام ہی المعرس مشہور ہو گیا۔




مسجد معرس کے آثار (مدینہ منورہ) یہ مسجد وادی حقیق میں ہے۔

لاٹھی سے چراغ جیسی روشنی



مسجد النور

یہ مسجد نور اس لیے کہلاتی ہے کہ سعید ابن حضیر ایک سیاہ رات آپ ﷺ کے ہمراہ اس جگہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اندھیرے کے سفر کی وجہ سے واپسی میں آپ ﷺ کے معجزہ کی برکت سے ان کی لاٹھی چراغ کی مانند روشن ہو گئی تھی۔



مسجد عمر بن الخطاب

مسجد عمر ابن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

مسجد المصلیٰ کے جنوب میں اونچی سڑک نمبر ۲ سے متصل ایک بڑی مسجد عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے نام سے منسوب ہے۔ اس مسجد کے سامنے ٹریفک کنٹرول کا مینار واقع ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل تمام کتابوں میں اس مسجد کا ذکر نہیں ملتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد ابن درہ کے قدیم مکان کی جگہ تعمیر کی گئی تھی۔ چونکہ حضرت عمر ابن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خلیفہ دوم نے اپنے زمانہ خلافت میں اس جگہ نمازیں ادا فرمائی تھیں اس لیے یہ مسجد ان کے نام سے منسوب ہو گئی۔

### مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب

رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیے جانے کے بعد اس مسجد میں نماز عید الفطر کی امامت فرمائی تھی۔

### مسجد کی جائے وقوع

یہ مسجد، مسجد المصلیٰ کے شمال اور رہائشی علاقے العریضیہ کے شمالی حصے کی جانب واقع ہے۔ یہ شارع العینیہ کے بالمقابل ہے جو مسجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمة کے درمیان مغربی حصے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سڑک کا پہلی عالمی جنگ کے بعد ترکی عہد حکومت میں حاکم مدینہ فخری پاشا نے افتتاح کیا تھا۔ الطیار گلی کے اختتام پر واقع آل ایساب اور آل کرد کے مکانات اسی سڑک کی طرف کھلتے ہیں۔ یہ دونوں مکانات غالباً حکیم ابن العداء کے قدیم مکان کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔

مسجد نبوی کی توسیع کے دوران اس شاہراہ کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ توسیع کے لیے حاصل کردہ زمین پر دھوپ سے حفاظت کے لیے ٹین کی چادریں لگادی گئی تھیں۔ توسیع کا کام مکمل ہونے تک لوگ ان کے نیچے نمازیں ادا کرتے تھے۔

### مسجد کی تعمیر تجدید

مسجد المصلیٰ اور مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس مسجد کی بھی ۹۳-۹۱ھ (۷۱۳-۷۱۱ء) میں امویوں کے عہد حکومت میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم مدینہ منورہ نے اصلاح و تجدید کرائی تھی، پھر ترکی حکومت کے دوران زین الدین ضیغم المصری حاکم مدینہ منورہ نے ۸۸۱ھ (۱۴۷۹ء) میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ اس مسجد کی موجودہ شکل سے واضح ہوتا ہے کہ عثمانی عہد حکومت میں بھی اس کی از سر نو تعمیر کرائی گئی تھی۔


جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ مناخہ کے علاقے میں مختلف مقامات پر نماز عید ادا فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک وہ جگہ بھی تھی جس جگہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب واقع ہے۔ ابن زبالہ اور ابن شیبہ دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے جہاں نماز عید ادا فرمائی وہ حکیم ابن العداء کے مکان کا صحن تھا۔

ایک دوسری روایت میں ابن شیبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے العداء ابن خالد کے مکان کے اندر ایک مسجد میں جس کی پشت پر مذبح تھا سب سے پہلے نماز عید ادا فرمائی تھی۔ السمہودی کے بقول یہ العداء کے بیٹے حکیم کا مکان تھا جو مسجد المصلیٰ کے غرب میں تھا۔

غالباً المناخہ کے علاقے کی یہ مسجد جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز عید الفطر کی امامت فرمائی تھی وہی مسجد ہے جسے اب مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے موسوم کیا جاتا ہے۔

### مسجد کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہونے کا سبب

یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی سبب سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر کے اپنے لیے ایک ذاتی مسجد تعمیر کرائی ہو۔ یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد المصلیٰ میں نماز عید الفطر مستقل ادا فرمانے سے پہلے اس مسجد میں نماز عید ادا فرمائی تھی۔ تاہم متعدد مورخین کے بیان کے مطابق اس مسجد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب



وہ جگہ جہاں آپ ﷺ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی

مسجد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما (جدید تصویر)

### مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جا کر سکتے ہیں۔  
مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ دراصل وہ جگہ (مکان) در ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہونے والی قتل و غارت گری سے دلبرداشتہ ہو کر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہائش اختیار کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر صلوٰۃ التہجد بھی ادا کی ہے۔ یہ مسجد مسجد نبوی ﷺ سے ۲۹۰ میٹر اور مسجد غمامہ سے ۱۲۲ میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے مینار ۲۶ میٹر بلند ہیں۔

مسجد نبوی سے اگر آپ قبلہ رخ آگے کی جانب چلیں تو کافی دور تک خوبصورت ٹائیلوں سے مزین فرش ہے۔ اس فرش کو عبور کر جائیں تو سڑک کے قریب آپ کو مسجد ملے گی۔ یہاں ایک بات ذکر کرنا نہایت ضروری ہے کہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب ایک دوسرے کے نہایت نزدیک ہیں اور آپ کو ایک مسجد سے دوسری مسجد صاف نظر آئے گی اور ۲۹۰ میٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی بھی نظر آئیگی۔ گویا ان تمام مساجد کی زیارت زائرین کسی بھی وقت پیدل



مسجد سیدنا علی بن ابی طالب (قدیم تصویر)

### مسجد ابی ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (مسجد سجدہ)

آج کے دور تک معروف مساجد میں سے ایک مسجد حضرت ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بھی ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کے شمال میں واقع ہے جبکہ مسجد نبوی شریف کے مشرق میں شارع ابی ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہے۔ یہی سڑک چلتے ہوئے ایئر پورٹ کے راستہ سے اس مسجد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس جگہ فی الحقیقت کھجوروں کا باغ تھا۔ اور اسے اسوفا کہا جاتا تھا۔ مسجد بننے کی اصل یہ ہے کہ اس جگہ حضور ﷺ نے سجدہ شکر ادا فرمایا تھا۔ اس وقت جبکہ حضرت جبرائیل عَلَيهِ السَّلَام نے آپ ﷺ کو یہ بشارت دی تھی کہ امت میں سے جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بھی اس پر رحمت فرمائے گا اور جس نے آپ ﷺ پر ایک بار سلام بھیجا رب کریم بھی اس پر سلام فرمائے گا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے چلا گیا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ نخلستان میں داخل ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ شاید رب کریم نے آپ ﷺ کی روح مقدس کو قبض کر لیا ہے۔

حضرت عبدالرحمن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کو دیکھنے کے لیے آیا کہ اتنے میں آپ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا: اے عبدالرحمن! تجھے کیا ہوا؟ تو جواباً میں نے ساری کیفیت بیان کی۔ تو پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:


”ان جبریل علیہ السلام قال لی: الا

ابشرک؟ ان اللہ عزوجل یقول لک: من صلی علیک صلیت علیہ، ومن سلم علیک سلمت علیہ.“ رواہ احمد برجال ثقات۔“  
تَرْجَمًا: ”حضرت جبرائیل امین عَلَيهِ السَّلَام نے مجھے کہا کیا میں آپ ﷺ کو بشارت نہ دوں؟ بے شک رب کریم آپ کو فرما رہے ہیں: کہ جو آپ ﷺ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر اپنی رحمت فرماؤں گا اور جو آپ ﷺ پر سلام پیش کرے گا میں بھی اس پر سلام فرماؤں گا۔“

علامہ سمودی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے قول کے مطابق وہ سجدہ والی مسجد ”مسجد ابی ذر“ ہی ہے جو کہ سجدہ والے مقام پر تعمیر ہوئی۔ یہ روایت احمد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ثقہ رواۃ سے نقل کی ہے۔

ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مسجد کی جائے وقوع

یہ مسجد بستان الجیری کے شمال مشرقی جانب شارع ابو ذر کے شروع میں سڑکوں کے پارہ ۱۵ میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو سعودی حکومت نے از سر نو تعمیر کرایا ہے۔ شمال و جنوب کی جانب یہ مسجد چھوٹے چھوٹے باغیچوں سے گھری ہے۔



مسجد ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قدیم اور جدید منظر

وہ جگہ جہاں آپ ﷺ کو درود پڑھنے کے فضائل کو امت پر درود پڑھنے کے فضائل بتائے گئے اور یہ کہا کہ جس نے آپ پر ایک بار سلام بھیجا رب کریم خود اس پر سلام بھیجے گا۔

اس مبارک جگہ آپ ﷺ نے سجدہ شکر کیا تھا اور اسی جگہ آپ



۱۳۱۲ھ کے ساتھیوں نے مکہ کی پہلی بار گھومتی ہوئی۔ طواف کے شروع میں  
۱۳۱۲ھ۔ یہ طواف مکہ سے گزرتے ہوئے "طواف" کہتے۔

اس نقشے میں طواف کے ساتھیوں کا طریقہ دکھایا گیا ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں بنائی گئی بھوسہ پنی سے طواف کے پتھر کی ابتدا اور اس پر انتہا ہوگی۔ طواف کے شروع میں  
"استقبال اور اتنا" ہوگا پھر یہ پتھر میں حجر اسود کے ساتھیوں سے گزرتے وقت "استلام" کیا جائے گا۔ حج و عمرہ کے طواف (نہ کہ طواف) میں "بسم اللہ" اور "بسم اللہ" بھی ہوتا ہے۔ اس طواف  
پہلے پتھروں میں اور اصطحاب پورے ساتھیوں میں۔ طواف مکمل ہوتے ہی اصطحاب ختم کر دینا چاہیے۔

### مسجد میقات (یا مسجد ذوالحلیفہ)

کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے تھے تو اس کیکر کے  
درخت کی چھاؤں میں آرام فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
ﷺ مسجد الشجرہ کے وسطی ستون کے قریب نماز ادا  
فرماتے تھے۔ جو اس کیکر کی جگہ تعمیر کیا گیا تھا جس کے  
نیچے رسول اللہ ﷺ آرام فرماتے تھے۔

#### مسجد کی جائے وقوع

یہ مسجد ذوالحلیفہ اس پختہ سڑک کی جانب مشرق میں واقع ہے جو  
مکہ معظمہ اور جدہ تک گئی ہے۔ مرکزی سڑک سے مسجد کی طرف  
رہنمائی کے لیے ایک پختہ ذیلی سڑک بھی خصوصی طور پر تعمیر کی گئی  
ہے۔ یہ سڑک بستان آل اسعد کے شمال مغربی جانب وادی عقیق  
کے مغربی کنارے سے ہو کر گزرتی ہے۔ شیخ حافظ ابوالبقاد کا کہنا  
ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کوچ کے لیے جانے والوں کو اس  
مسجد کی حدود کے اندر ہی احرام باندھ لینا چاہیے۔

اسے شجرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس درخت کی جگہ بنائی  
گئی ہے جس کے سایہ تلے نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ  
جاتے وقت قیام فرماتے تھے۔

جدید توسیع کے بعد اس مسجد میں ۵ ہزار نمازیوں کی  
گنجائش ہے مسجد کا کل رقبہ ۹۰ ہزار مربع میٹر ہے۔  
(دروازے کیکر کی لکڑی کے اور ملحقہات ہیں) اور ساری  
مسجد ایر کنڈیشن ہے۔ ۵۱۲ بیت الخلاء ہیں، ۵۶۶ غلسخانہ  
۳۸۴ وضو کی ٹوٹیاں ۵۰۰ کاروں کی پارکنگ ہے۔ تعمیر  
کے کل اخراجات ۲۰ کروڑ ریال ہوئے ہیں۔

یہ مسجد ذوالحلیفہ کے علاقے میں ایک درخت کیکر سے  
منسوب ہے جس کی چھاؤں میں رسول اللہ ﷺ  
تشریف فرما ہوتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا  
ہے۔ ابن زبالہ کے بقول رسول اللہ ﷺ جب حج و عمرہ



## مسجد عتبان اس مقام پر حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی

حضرت عتبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے حریرہ تیار کیا اور کھانے کیلئے پیش کیا۔ مزید کہا کہ خاندان کے افراد کافی تعداد میں گھر میں جمع ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا مالک بن خدیش یا ابن خدیش کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اسکے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس طرح نہ کہو کیا تو نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہے ”لا اله الا الله“ اور اس سے اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کی رضا چاہتا ہے؟

تو اس نے جواباً عرض کی اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر کہا ہم تو اس کا تعلق اور محبت منافقین کے ساتھ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے آگ پر اسے حرام قرار دیا ہے چس نے اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کی رضا ہتے ہوئے ”لا اله الا الله“ کہا۔ (متفق علیہ)

ایک صحابی آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نایاب ہوں اس لیے آپ کی مسجد میں آ نہیں سکتا، آپ میرے گھر چلیں اور میرے لیے نماز کی جگہ متعین کر دیں چنانچہ آپ ﷺ عتبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گھر گئے اور نماز کی جگہ متعین فرمائی اور صحابہ کے ساتھ وہاں نماز بھی ادا کی۔

اس وقت بنی سالم بن عوف میں دو مسجدیں تھیں ایک یہ اور دوسری وہ جس میں حضرت عتبان بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کا ذکر صحیحین میں موجود ہے۔

حضرت محمود بن ربیع انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت عتبان بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ان عالی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جملہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے میدان بدر میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی) حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میری بینائی کمزور ہو گئی حالانکہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔

جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے گھروں کے درمیان ایک ولوی ہے جو پانی سے بھر جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے ان کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا۔ یا رسول اللہ ﷺ! میری دلی آرزو ہے کہ آپ میرے ہاں قدم رنجہ فرمائیں اور میرے گھر ایک نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی جائے نماز بنا لوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: ان شاء اللہ میں عنقریب آؤں گا۔

حضرت عتبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ پھر ایک صبح حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دن چڑھتے ہی تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے گھر میں داخل ہونے کو کہا تو میں نے دیدہ و دل بچھا دیے۔ پس جونہی آپ اندر داخل ہوئے تو بیٹھنے سے قبل ہی فرمایا:

”این یحب ان اصلی من بیتک؟“

ترجمہ: تو اپنے گھر کی کون سی جگہ پسند کرتا ہے کہ میں نماز ادا کروں۔ تو میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ وہاں کھڑے ہوئے، بکیر فرمائی تو ہم بھی صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی اور سلام پھیر دیا۔







مسجد عتبان بن مالک  
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (قريب سے)



مسجد عتبان بن مالک  
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا اندرونی منظر



مسجد عتبان بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: جہاں  
رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی۔



### مسجد عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا


اس بنا پر مکہ معظمہ میں قیام پذیر کوئی مسلمان عمرہ کرنا چاہے تو اسے احرام باندھنے کے لیے تعیم آنا پڑتا ہے۔ وہ عمرہ کی نیت کے لیے اس مسجد میں نوافل ادا کرنے کے بعد عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہوا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے۔

یہ مسجد تعیم میں ہے۔ مسجد حرام سے تقریباً ۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر مدینہ منورہ جانے والی سڑک پر واقعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے اسم گرامی سے منسوب ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں عمرہ کے لیے مکہ معظمہ سے تعیم جا کر احرام باندھنے کا حکم دیا تھا۔




منیٰ میں مسجد خیف۔

### مسجد عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا




منیٰ میں موجود اس مسجد کے عقب میں ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ پر آپ ﷺ آرام فرما رہے تھے کہ سورۃ مرسلات نازل ہوئی۔

اس جگہ حضور ﷺ نے آرام فرمایا تھا۔



مسجد المستراح: روایت ہے کہ یہاں رسول اللہ ﷺ نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت کچھ دیر آرام فرمایا۔ قریب ہی بنو حارثہ کے مکانات تھے۔ غزوہ احزاب میں جو خندق کھودی گئی وہ یہاں سے شروع ہو کر مسجد فتح تک چلی جاتی ہے۔



۲۰۰ سال پرانی مسجد مستراح کی (قدیم تصویر)



وہ جگہ جہاں حضور ﷺ کی ۲ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائیں

### مسجد اجابہ کا جدید و قدیم منظر

جنت البقیع سے شمال کی جانب ”بتان سان“ ہے اس کے پاس ہی مسجد اجابہ ہے۔ یہ مسجد عمارتوں اور آبادی میں گھری ہوئی ہے مسجد اجابہ کو مسجد بنو معاویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر بنو معاویہ کا قبیلہ آباد تھا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ اس جگہ تشریف لائے، نماز ادا فرمائی اور دیر تک اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے رہے۔ طویل دعا سے فارغ ہونے کے بعد رحمت دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں تین دعائیں کی تھیں۔

۱۔ اے اللہ! تو میری امت کو اجتماعی قحط سالی کے عذاب سے تباہ

نہ کرنا۔

۲۔ اے اللہ! تو میری امت کو اجتماعی طور پر غرق نہ کرنا۔

۳۔ اے اللہ! تو میری امت کو باہمی اختلافات اور خانہ جنگی میں مبتلا نہ کرنا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تین دعاؤں میں سے پہلی دو دعائیں قبول فرمائی ہیں مگر تیسری قبول نہیں فرمائی۔ محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسجد میں آپ ﷺ کی نماز پڑھنے کی جگہ (موجودہ) محراب سے دائیں جانب دو گزر کے فاصلے پر ہے۔




### مسجد اجابہ کا محل وقوع

منیٰ جاتے ہوئے دائیں ہاتھ ثنیہ اذخر میں واقع ہے۔

علامہ قطب الدین رجبی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ہمارے دور میں یہ مسجد ویران اور منہدم ہو چکی ہے البتہ اس میں ایک پتھر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اجابہ ہے اور اسے ۷۲۰ھ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد

ازاں منہدم ہو گئی۔


اس کے قرب و جوار میں کچھ آبادی ہو گئی تھی وہ لوگ اس میں نماز پڑھتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ مگر آبادی کے اضافہ کی وجہ سے اس میں توسیع اور تعمیر نو کی ضرورت تھی۔



### مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن طالب


یہ مسجد مدینہ میں مناخہ کے علاقہ میں ہے۔ اس جگہ آپ ﷺ نے نماز عید ادا فرمائی تھی اور اسی جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرہ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔

اس جگہ حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ مسجد بنی قریظہ جو یہود بنی قریظہ کی خوفناک عہد شکنی اور اس کے برے انجام کی یاد دلاتی ہے۔ حضور ﷺ نے یہود کے محاصرہ کے وقت اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ (فتح الباری: جلد ۷ صفحہ ۴۲)۔



### مسجد بنی قریظہ قدیم






### مسجد سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اس مسجد کے مقام پر بھی آپ ﷺ نے نماز عید ادا فرمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے یہ مسجد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہو گئی۔ یہ مسجد اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ اس کو شہر مدینہ کی توسیع میں شامل کر دیا گیا ہے۔ موجودہ مسجد مسی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شارع الامیر عبدالحسن (شارع قربان) پر باب السلام سے ۶۰ میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مذکورہ بالا تبرک و تاریخی مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تعمیر بالکل قریبی دور میں ہوئی ہے اور اس کو شیخ محمد حسین ابوالعلاء نے تعمیر کروایا ہے۔ اس مسجد کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں سوائے اس کے کہ یہ مسجد برائے عبادت ہے۔ کچھ زائرین کو اس مسجد کی طرف بھی بغرض زیارت جاتے دیکھا گیا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اصل مساجد جن کا آپ ﷺ سے تعلق تھا ان کو تو گرا دیا گیا ہے لیکن اسی نام سے دوسرے مقامات پر نئی مساجد تعمیر کروادی گئی ہیں۔



مسجد الفسح، جہاں ایک غزوہ اختتام کے بعد حضور ﷺ نے زخمی ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ یہ مسجد اس غار کے پاس ہے جہاں حضور ﷺ نے آرام فرمایا تھا۔ اوپر کونے میں اس مسجد کا محراب نظر آ رہا ہے جو پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا۔




یہ خوبصورت مساجد چوک کے اس میدان میں واقع ہیں، جہاں عالم اسلام نے پڑاؤ کیا تھا۔ پہلے خلیفہ اول جانشین رسول حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور دوسرے خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے نام نامی سے منسوب ہے۔ یہ دونوں مساجد اس مقام پر تعمیر کی گئی ہیں۔


### مسجد بنی ساعدہ

ابن شیبہ عباس بن سہیل سے راوی ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ نے مسجد بنی ساعدہ میں نماز ادا فرمائی۔ عبدالمعمر بن عیاض اپنے والد سے راوی ہیں حضور سید دو عالم ﷺ سقیفہ بن ساعدہ کے ڈیرے میں تشریف فرما تھے کہا آپ کو سہیل بن سعد نے پیالہ میں دودھ پلایا۔ حضور ﷺ نے مزید طلب فرمایا۔ انہوں نے مزید پیش کیا فرمایا پہلا پیالہ اچھا تھا عرض کی گئی حضور ﷺ ایک ہی شے ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضور ﷺ سید عالم ﷺ کا بیٹھنا حدیث جو نبیہ سے ثابت ہے۔ اسی سقیفہ بنی ساعدہ میں اکثر نے سیدنا ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ (خلاصۃ والوفاء صفحہ ۲۸۲)۔

پاکستانی ہوٹل سے سیدھے شارع سیسی پر مین اڈہ کی طرف چلیں تو بائیں ہاتھ کی طرف خوبصورت باغیچہ ہے۔ مدینہ منورہ کے متعدد باسیوں نے بتایا سقیفہ بنی ساعدہ اسی جگہ پر ہے۔ و صلی اللہ علی حبیبہ سید الانبیاء محمد والہ وہ صحبہ وسلم۔








### مسجد سقیا

مدینہ منورہ کے مغربی نواح میں ایک کنواں ہے جو ”بئر سقیا“ (جو سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وقاص کا تھا) کے نام سے مشہور ہے۔ باب عنبر یہ کے قریب آج کل وہاں قبۃ الروس کے نام سے مشہور منزل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب ہم اس کنویں میں (سقیا) کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ کے ساتھ ہم نے بھی اس کنویں کے پانی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ ﷺ نے دعا فرمائی۔

### قبولیت دعا کی انمول جگہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بدر کو نکلے تو ہمارے پاس ستر اونٹ تھے اور ہم دو تین یا چار افراد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے، میں اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ امیر تھا، اور پیدل چلنے پر سب سے سخت اور سب سے زیادہ تیر انداز تھا میں نہ جاتے ہوئے سوار ہوا اور نہ آتے ہوئے۔ ہم مدینہ المنورہ سے سقیا کی طرف روانہ ہوئے تو رسول اکرم ﷺ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ پیدل ہیں انہیں سوار کر، یہ ننگے ہیں انہیں لباس دے، یہ بھوکے ہیں انہیں سیر کر دے، یہ غریب ہیں انہیں غنی کر دے اپنے فضل و کرم سے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم واپس ہوئے تو ہر خواہش مند کے یہاں سواری تھی ذخیرہ خوراک تھا۔ وفاء الوفاء۔



یہ مبارک مسجد ہے جس میں آپ ﷺ نے نماز پڑھائی مسجد سقیا (دوران مرمت) پس منظر میں بلد یہ کا دفتر ہے۔

یہ مسجد مدینہ کے شمال میں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى نے تعمیر کیا۔


اس جگہ حضور ﷺ نے نماز عید الاضحیٰ ادا فرمائی تھی۔

مصلے عید اس مقام پر حضور ﷺ نے نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ اور نماز استسقاء پڑھی ہے۔ اب وہاں ایک عظیم الشان مسجد ہے۔



وہ جگہ جہاں آپ ﷺ کے ہاتھ پر صحابہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے موت پر بیعت کی

وادی منیٰ میں ”مسجد البیعة“ جہاں بیعت اولیٰ ثانیہ ہوئی اور نبی کریم ﷺ نے انصار صحابہ سے ہر مشکل میں ثابت قدمی اور کفر کیلغار کے مقابلے میں جمے رہنے کا عہد لیا تھا۔ حالات نے ثابت کیا کہ ان وفا شعاروں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور مسلمانوں کیلئے لائق فخر اور قابل تقلید مثال قائم کی۔ مسجد میں نصب تختی کے مطابق اسے سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے ۱۴۴ھ میں تعمیر کیا۔




مسجد حدیبیہ

مسجد سبق یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ ﷺ کے زمانے میں آپ ﷺ کی نگرانی میں گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ جہاد کی نیت سے ہوتا تھا اس جگہ یہ مسجد تعمیر کرادی گئی۔



### مقام مسجد سبق


مسجد نبوی شریف کے شمال مغرب میں ۵۲۰ میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، نویں صدی ہجری میں یہ مسجد اس میدان میں بنائی گئی جہاں آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں گھڑسواری کی تربیت ہوتی تھی۔ مسجد کی موجودہ بلڈنگ شاہ فیصل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى کے زمانہ میں تعمیر ہوئی اور اس کی مرمت شاہ فہد کے زمانہ میں ہوئی۔ واضح رہے کہ گھڑسواری یہاں سے شروع ہو کر دو منزلوں پر مکمل ہوتی، پہلی منزل قبیلہ بنو زریق کی بستی اور دوسری منزل مقام حفیاء تھی۔



### مسجد بنی انیف:

وادی قباء کے گردونواح میں ہی بئر عذق کے قریب صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے ساتھ آپ ﷺ نے نماز ادا فرمائی۔

اس جگہ حضور ﷺ نے عبادت فرمائی تھی۔




### مسجد دار سعد بن خیشمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

حضرت سعد بن خیشمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا یہ گھر آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے قبل ہی اسلام کا مرکز بن گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی کبھی اس میں نماز جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے آئے تو حضرت کلثوم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے مکان میں قیام فرمایا، اور اس دوران آپ ﷺ سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گھر میں بھی تشریف لاتے جو کہ مسجد قبا کے جنوب میں تھا۔ بعد میں وہ گھر مسجد قبا کی توسیع میں شامل ہو گیا۔



آج سے 1400 سال پہلے اس جگہ پر سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا گھر تھا آپ ﷺ کا یہاں نماز پڑھنا ثابت ہے۔


اس جگہ آپ ﷺ نے دعا کی اور خوب بارش ہوئی



### 200 سال قبل کی مسجد غمامہ (قدیم تصویر)


عربی میں ”غمامہ“ بادلوں کو کہتے ہیں ایک مرتبہ جب مدینہ النبی میں سخت قحط پڑا اور پانی کی کمیابی ہو گئی تو آقائے نامدار سیدنا محمد ﷺ نے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعائیں مانگیں اور نماز استسقاء ادا کی۔ ان کے ہمراہ ان کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جو اس وقت نہایت کم سن تھے۔ آپ کے دعا کرتے ہی آسمان پر ابر چھا گیا۔ اور خوب بارش ہوئی اسی مناسبت سے اس مقام پر آج کل جو مسجد قائم ہے۔ اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں۔





### سب سے پہلے قرآن کہاں پڑھا گیا؟

مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت یہاں ہوئی دافع بن مالک نامی صحابی نے بیعت عقبہ کے دوران آپ ﷺ سے ملاقات کی اور قرآن سیکھا اور بعد میں اپنے قبیلہ زریق میں آ کر اس کی تلاوت کی برزادان نامی کنواں بھی اسی بستی میں تھا اس کنویں میں لبید بن اعصم نامی جادوگر نے پتلا دفن کر دیا تھا جبریل علیہ السلام کے بتانے پر آپ ﷺ نے نکلوا دیا۔





### مسجد بنی بیاضہ

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں: عبدالرحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے باب کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بن مالک کو ان کی آخری عمر میں مسجد میں لے جایا کرتا تھا کیونکہ وہ ناپینا ہو چکے تھے۔ جب وہ یعنی (کعب) اذان کی آواز سنتے تو کہتے اللہ سعد بن زرارہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پر رحم کرے جنہوں نے جمعہ کے لیے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور اس وقت ہم چالیس آدمی تھے۔ (بنی بیاضہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے)۔

### بنو ساعدہ

خزرج کا مشہور قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی مسجد نبوی شریف کی شمال مغرب سمت تھی۔ اس میں ایک جگہ سقیفہ بنی ساعدہ تھی جس کا محل وقوع اب مسجد نبوی کی دوسری سعودی توسیعی عمارت سے ۲۰۶ میٹر کے فاصلہ پر موجود باغیچہ میں ہے۔

آنحضرت ﷺ اس سقیفہ میں تشریف لائے، پانی پیا اور نماز پڑھی۔

### مسجد بنو ساعدہ

ابن شیبہ نے عباس ابن سہل کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی تھی یہ مسجد بنو ساعدہ کے اس مکان کے قریب تھی جہاں مسلمانوں نے آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے خلیفہ منتخب ہونے پر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بیعت و اطاعت کی تھی۔ اس مسجد کی قدیم جگہ مثلث السطانیہ پر ہے۔ جہاں اس وقت ایک پبلک لائبریری اور ایک لیکچر روم بنا ہوا ہے۔

مدینہ منورہ کے مشرقی بازار بصر بضاء کے پاس سہل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بن سعد کا گھر تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے سہل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پانی مانگا، انہوں نے پیش کیا۔ یوم ثقیفہ کے دن صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ یہیں جمع ہوئے تھے۔ اس مسجد کی جگہ پر آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔

### مسجد بنی عبد الاشہل

اس مسجد میں حضور ﷺ نے بنی عبد الاشہل کو نماز مغرب پڑھائی اور اس کے بعد مغرب کی سنتیں گھروں میں ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا تذکرہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔

بنی عبد الاشہل کے ایک فرد محمود بن لبید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

”اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للصبح بعد المغرب.“

مغرب کے بعد یہ دو رکعتیں نفل نماز اپنے گھروں میں ادا کیجئے) یہ روایت امام احمد، ابن شیبہ اور ابن خزیمہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

حضرت ثابت بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی عبد الاشہل کی مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ آپ ﷺ اپنے اوپر کمر لپے ہوئے تھے اور کنکریوں کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے (حالت سجدہ میں) اپنے دست مبارک کمر پر ہی رکھتے تھے۔ یہ روایت اسی طرح ابن ماجہ، ابن شیبہ اور ابن خزیمہ نے نقل کی ہے۔

ام عامر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بنت یزید بن سکن سے روایت ہے کہ آپ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ آپ ﷺ بنی عبد الاشہل کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ نے گوشت تناول فرمایا پھر آپ ﷺ اٹھے، نماز ادا فرمائی لیکن وضو نہ کیا۔ (روایت احمد، طبرانی)۔





### مسجد بنی حارثہ

بنی حارثہ کی بستی میں واقع اسی مسجد میں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی اور شہید خیر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہیل کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہیل کے مقدمہ کا فیصلہ کیا۔

### بنو حارثہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہی کے ہاں قیام کیا، اور نبی ﷺ نے اسی قبیلہ کے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کا بھائی بنایا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آنحضرت ﷺ کی شادی مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی۔ روایت کی بابت روایت ہے کہ اسی قبیلے میں ان کے قیام کے دوران ہوئی۔ (صحیح بخاری حدیث نمبر ۳۸۹۴)۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبیلے کی خاتون حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ آپ کا انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامی بیٹی پیدا ہوئی۔


اسی قبیلے کے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فوت ہو جانے کے بعد گفتگو کی۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے کے چشم و چراغ تھے، شاعر رسول ﷺ تھے۔ غزوہ موتہ کے امیر تھے وہیں شہید ہوئے۔

انہی میں سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آخری وقت میں فرمایا: اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم ﷺ کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا:


جزاک اللہ عنّا خیرا۔ اور میری قوم کو سلام کہنا اور پیغام دینا کہ: خدا را بیعت عقبہ کی رات آنحضرت ﷺ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا۔ اللہ کی قسم تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر تم میں ایک فرد بھی زندہ ہو اور رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچے۔

انہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ ﷺ سے میراث کی بابت پوچھنے آئیں تو سورہ نساء کی نمبر ۱۱ اور بعد والی آیات نازل ہوئیں۔



### مسجد فصیح کی ایک قدیم تصویر

یہودی قبیلے بنو نضیر کی مسلسل سازشوں سے تنگ آ کر آنحضرت ﷺ نے کیا جو کچھ روز جاری رہا۔ بالآخر آنحضرت ﷺ نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ اس دوران صحابہ رضی اللہ عنہم نے جہاں آپ ﷺ کی امامت میں نماز ادا فرمائی وہاں مسجد بنا دی گئی جو مسجد بنو نضیر کہلائی۔ اس دوران شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جن حضرات کے پاس اس کی کچھ مقدار بھی تھی انہوں نے سب انڈیل دی۔ یہ اقدام اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کی اعلیٰ مثال ہے۔




### مسجد فضیح

یہ محلہ عوالی کے مشرق میں واقع ہے۔ جب حضور ﷺ نے یہودی قبیلہ بنو نضر کا ان کی غداری کی وجہ سے محاصرہ کیا تو آپ ﷺ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ فضیح کھجور سے کشید کی ہوئی شراب کو کہتے ہیں۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم آنے سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کچھ ساتھیوں کے ساتھ نوشی میں مشغول تھے کہ اللہ کی طرف سے شراب حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ تو انہیں اس حکم کی اطلاع ملی تو انہوں نے شراب کے سارے مٹکے توڑ ڈالے (اس روز مدینہ کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی) یہ واقعہ اسی جگہ پر پیش آیا اس لیے اس کا نام مسجد فضیح پڑ گیا۔ بعض حضرات نے اس کا نام مسجد شمس بتایا ہے اس لیے کہ اونچائی پر ہے اور دوسری جگہ کی نسبت یہاں طلوع پہلے نظر آتا ہے۔ مسجد قبا سے مشرق کی طرف یہ پون میل ہے بغیر چھت کے کالے پتھروں کی ایک چار دیواری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا، حضور ﷺ کو علم ہوا تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور ڈوبتا سورج ٹھہر گیا، بعض کہتے ہیں کہ پلٹ آیا۔ یہ دعا اسی جگہ فرمائی جہاں مسجد شمس بھی کہا جاتا ہے۔ سورج کے ٹھہر جانے یا پلٹ آنے کا واقعہ صحیح ہے لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ دراصل مقام مہبا کا ہے جو خیبر کے شہروں میں سے ایک ہے۔

### مسجد کی طرز تعمیر

المطری کے بقول یہ مسجد، مسجد قبا کی طرز پر بنائی گئی تھی۔ اس کے اندر ۱۶ ستون تھے جو امتداد زمانہ سے بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس کی عمر ابن عبدالعزیز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے از سر نو تعمیر کرایا تھا۔ ان کا موجودہ طول ۱۹ میٹر اور عرض ۴ میٹر ہے۔ اس کے اندر پانچ گنبد اور ایک محراب ہے۔



وہ جگہ جہاں حضور ﷺ نے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنانے کا حکم دیا


یہ تصویر بنو ظفر کی بستی کی ہے یہ اس وقت شارع ملک عبدالعزیز کے دائیں طرف پیہ کی بلڈنگ کے قریب ہے۔  
 یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں ایک موقع پر حضور ﷺ تشریف لائے اور عبد اللہ بن مسعود کو قرآن سنانے کا حکم دیا۔ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن سنا تا رہا اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے آنسو بہتے رہے حوالہ صحیح بخاری ۳۸۸۲۔  
 اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور بعد میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ کا پورا قبیلہ بنو عبد الاشہل مسلمان ہو گیا۔





ابن شیبہ عبد اللہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور سید عالم ﷺ عموماً اسی مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے۔ ابو زبالہ ایوب بن صالح دیناری رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی دینار میں نکاح فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیمار ہو گئے تو حضور ﷺ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں نماز ادا فرمائیں آپ ﷺ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور نماز ادا فرمائی۔ و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد والہ و صحبہ وسلم۔





بنو حرام میں آپ ﷺ نے پہلی بار آرام فرمایا تھا

مسجد بنو حرام کا جدید قدیم منظر

### غار بنی حرام


چونکہ یہ غار جبل سلع میں بنو حرام کی گھاٹی میں واقع ہے اس لیے اس غار کا یہ نام ہے۔

### محل وقوع

احمد عباسی متوفی گیارہویں صدی کا بیان ہے کہ یہ غار پہاڑ کی گھاٹی کے اوپر سلع کی بلندی سے نیچے ہے اس کے نیچے دائیں جانب مسجد بنی حرام ہے اور غار کے اوپر بڑا سا پتھر ہے جیسے مکان پر چھت ہوتی ہے۔ اور اس کے مغرب کی جانب چھوٹا سا طاقتی ہے جہاں مساجد کو جانے والے نظر آتے ہیں۔

### غزوہ خندق کے دوران رات کو اس میں قیام فرمانا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کے دوران رات کو نبی اکرم ﷺ اس غار میں قیام فرماتے تھے۔ ابن شیبہ نے عبد الملک بن جابر بن عتیک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غار کے پاس چھوٹے سے چشمہ سے وضو فرمایا ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آپ ﷺ اس غار کے اندر تشریف لے گئے۔ طلبہ بن خراش کا بیان ہے کہ خندق کے دوران صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی شب خون کی خوف سے نبی اکرم ﷺ کو بنی حرام کی غار میں لے جاتے اور آپ ﷺ اس میں رات گزارتے۔ صبح ہوتے ہی نیچے تشریف لاتے پہاڑ کے اوپر غار کے پاس آپ ﷺ نے ذرا سی کھدائی کی جس سے چھوٹا سا چشمہ رواں ہو گیا جو تاحال موجود ہے۔



قبیلہ بنو حرام کا علاقہ

# باب نمبر 7

حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے مبارک مزارات



## حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے مبارک مزارات


### ازواج مطہرات


مذہب	سن نکاح	عمر نکاح	حضور کی عمر وقت نکاح	مدت خدمت پیغمبر	سن وفات	کل عمر	مدفن
(۱)	۲۵ میلاد النبی	۳۰ سال	۲۵ سال	تقریباً ۲۵ سال	۱۰ نبوت	۶۵ سال	مکہ
(۲)	۱۰ نبوت	۵۰ سال	۵۰ سال	۱۳ سال	۱۹ ہجری	۷۲ سال	مدینہ
(۳)	۱۱ نبوت، رخصتی ۱ ہجری	۹ سال	۵۳ سال	۹ سال	۱۷ رمضان ۵۷۰ ہجری	۶۳ سال	مدینہ
(۴)	شعبان ۳ ہجری	۲۲ سال	۵۵ سال	۸ سال	جمادی الاوّل ۳۱ ہجری	۵۹ سال	مدینہ
(۵)	۳ ہجری	تقریباً ۳۰ سال	۵۵ سال	۳ مہینے	۳ ہجری	تقریباً ۳۰ سال	مدینہ
(۶)	۴ ہجری	۲۶ سال	۵۶ سال	۷ سال	۶۰ ہجری	۸۰ سال	مدینہ
(۷)	۵ ہجری	۳۶ سال	۵۷ سال	۶ سال	۲۰ ہجری	۵۱ سال	مدینہ
(۸)	شعبان ۵ ہجری	۲۰ سال	۵۷ سال	۶ سال	ربیع الاوّل ۵۶ ہجری	۷۱ سال	مدینہ
(۹)	۶ ہجری	۳۶ سال	۵۸ سال	۶ سال	۲۳ ہجری	۷۲ سال	مدینہ
(۱۰)	جمادی الاخرہ ۷ ہجری	۱۷ سال	۵۹ سال	۳ سال ۹ ماہ	رمضان ۵۰ ہجری	۵۰ سال	مدینہ
(۱۱)	ذیقعدہ ۷ ہجری	۳۶ سال	۵۹ سال	۳ سال ۳ ماہ	۵۱ ہجری	۸۰ سال	سرف

آنحضرت کی حیات میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ وفات پاگئیں اور بعد وصال سب سے پہلے حضرت سوڈہ (۱۹ھ) اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ نے (۶۰ھ) میں وفات پائی۔ حضرت ماریہ قبطیہ مصر سے ۶ھ میں آئیں۔ حضور ان سے ازواج کا سا سلوک فرماتے۔ ام ولد کی حیثیت حاصل تھی۔ ۱۶ھ میں مدینہ میں وفات پائی۔

### حضور ﷺ کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک


دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود حضور ﷺ کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک۔





حضور ﷺ کی زوجہ ام حفصہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا کی قبر مبارک

دمشق میں حضرت حفصہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا بنت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار۔ یہ مزار دمشق کے قبرستان اہل بیت میں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔



ام حفصہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا کا مزار مبارک



ام حفصہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا کے مزار مبارک







قبر مبارک ام حفصہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا



ام حفصہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے مزار کا اندرونی منظر



اس کمر میں ام حبیبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر مبارک ہے



مزار مبارک کی اندرونی دیوار کا منظر




حضور ﷺ کی زوجہ ام حفصہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر مبارک



دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود حضرت ام حبیبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا زوجہ رسول ﷺ کی قبر مبارک بعض روایات کے مطابق آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا جنت البقیع میں مدفون ہیں (واللہ اعلم)




حضرت ام حبیبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا  
کی قبر مبارک کے کمرہ کا منظر



حضور ﷺ کی زوجہ ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر مبارک



دمشق میں حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے مزار کا منظر




ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا زوجہ رسول اللہ ﷺ کے مزار کے دروازے کا منظر





### جنت المعالی:

مکہ مکرمہ کا مشہور اور تاریخی قبرستان "جنت المعالی" کہلاتا ہے یہ اب مکہ کی آبادی میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں نبی کریم ﷺ کے خاندان اجداد و زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور صاحبزادہ قاسم، طاہر اور طیب کی آخری آرام گاہیں ہیں، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہیں آسودہ خواب ہیں جن میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مدفون ہیں قبرستان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے درمیان سے سڑک نکالی گئی ہے یہی سڑک آگے کی طرف منیٰ کو چلی جاتی ہے۔





قبر مبارک ام المؤمنین ام میمونہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - مقبرہ المعلاة - مکہ المکرّمہ۔




آپ ﷺ کے خاندان کی اکثریت یہاں مدفون ہے۔



### مقام سرف

سرف وہ مقام ہے جہاں رسول اکرم ﷺ نے سنہ ۷ھ میں ام المؤمنین حضرت میمونہ ؓ سے نکاح کیا اور کچھ دیر قیام فرمایا۔ پھر یہیں سنہ ۵۱ھ میں حضرت میمونہ ؓ کی وفات ہوئی، آپ ﷺ کی قبر طریق ہجرہ پر مکہ مکرمہ سے ۲۰ کلومیٹر پہلے دہنی جانب ہے۔ ابن ہشام۔



اب یہ مقبرہ گرا دیا گیا ہے۔  
مقام سرف (النوارية) میں ام المؤمنین سیدہ  
میمونہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مزار مبارک جو اب مسمار  
کر دیا گیا ہے

### حضور ﷺ کی زوجہ ماریہ قبطیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر مبارک

نجاشی: یہ حبشی زبان کے لفظ ”نجوس“ بمعنی بادشاہ کی تعریب ہے۔ نجوس شاہان حبش کا لقب تھا۔ ان کا زمانہ پہلی صدی ق م سے چھٹی صدی ہجری تک یعنی تقریباً 1200 سال رہا۔ عہد نبوی میں یہاں نجاشی اصمہ حکمران تھا جو عیسائی تھا۔ سب سے پہلا نجاشی جس نے 330ء میں عیسائیت قبول کی، اس کا نام اذینہ تھا۔ مکہ سے حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قیادت میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان اصمہ کے دربار (اکسوم) میں پہنچے تو اس نے حضرت جعفر طیار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی زبانی دین اسلام کی باتیں سنیں اور قریش مکہ کے وفد کا مطالبہ مسترد کر کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ اصمہ نے اسلام قبول کر لیا اور چند سال بعد جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم ﷺ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔



مدینہ کے قریب حضرت ماریہ قبطیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے مکان کی چار دیواری کہا جاتا ہے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا میں دفن ہیں۔



مدینہ منورہ کے نواح میں حضرت ماریہ قبطیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ام ابراہیم کا مکان جہاں قیام پذیر رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مسجد اور آپ کی قبر وہیں ہے جہاں آپ زندہ رہیں اور وفات پائی۔ ماریہ مقوقس بادشاہ نے حضور ﷺ کے لیے تحفہ میں بطور باندی بھیجا تھا ان سے ایک بچہ حضرت ابراہیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پیدا ہوئے۔

ازواج مطہرات نمبر ۷، ۸، ۹، ۱۰ جنت البقیع میں دفن ہیں

جنت البقیع میں جوازواج مطہرات مدفون ہیں انکے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

۸۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

۷۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

۱۰۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دفن ہیں۔

۹۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔



جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے مقبروں پر مزار موجود ہیں اب ان کو گرا دیا گیا ہے (قدیم تصویر)  
۱۔ جہاں حضور ﷺ کی صاحبزادیاں اور ۶ سے زائد ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین قبروں میں محواستراحت ہیں۔

۳۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

۲۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

۱۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔


۴۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہیں۔ ۵۔ اس کے علاوہ ۶ سے زائد بیویاں یہاں مدفون ہیں۔ ۶۔ آپ ﷺ کے بیٹے ابراہیم بھی یہاں مدفون ہیں



جنت البقیع میں موجود ۶۷ ازواج مطہرات کی قبریں۔  
جنت البقیع سے متعلق مزید تفصیل پڑھنے کے لیے اسی کتاب کا باب ”مبہرک قبرستان کا مطالعہ کریں۔“




SALAH HAMIDAN AL-SABDI



### حضور ﷺ کی بیٹی فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا گھر مبارک

حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے مکان کے باہر ایک محراب تہجد کہتے ہیں۔ یہ مکان مسجد نبوی میں حجرہ سیدہ چھوٹا سا احاطہ، اس کے درمیان چھوٹی محراب ہے اسے عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور مدرسۃ الصفہ کے درمیان ہے۔



اس بکس میں حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا جبہ محفوظ ہے یہ جواہرات سے مزین بکس استنبول کے توپ کاپی نامی میوزیم میں محفوظ ہے۔



### حضور ﷺ کی والدہ بی بی آمنہ کی قبر مبارک

حضور ﷺ کی عمر شریف چھ برس کی تھی۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ گئیں۔ ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بنو نجار کا خاندان حضور ﷺ کا دھیال تھا، وہاں ایک مہینہ رہیں۔ جب واپس آنے لگیں تو مقام ابواپر بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ کیسا حسرت ناک منظر تھا، سفر کی حالت، نہ کوئی اپنا نہ پرایا، باپ۔ کی شفقت سے تو واقف بھی نہ تھے، ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ہاں بی بی آمنہ کی وفادار لونڈی ام ایمن ساتھ تھیں، انہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور مکہ معظمہ واپس ہوئیں۔ دادا نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ہاتھ میں لی اور ایسی محبت و شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی کہ آپ ماں باپ کی محبت بھری گود بھول گئے۔

الابواء: مدینہ سے مکہ کی شاہراہ پر جحفہ سے ۲۳ میل دور ابواء واقع ہے۔ مستورہ ابواء سے ۲۸ کلومیٹر مغرب میں ہے۔ آج کل اسے خریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابواء میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ابواء کا علاقہ ۱۲ کلومیٹر لمبا اور ۳ کلومیٹر چوڑا ہے۔ شمال کی جانب سے اسے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے اور جنوب میں تقریباً ۵۰۰ میٹر تک سیاہ ٹیلے ہیں۔ تاریخ مکہ۔ المکرمہ کے مطابق ابواء کی آبادی ۵ ہزار ہے۔ ابواء مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے تقریباً نصف میں وادی و دان کا ایک گاؤں ہے۔ و دان اور ابواء میں ۶ تا ۸ میل کا فاصلہ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پیش آنے والے غزوہ کا نام غزوة الابواء یا غزوة الودان مشہور ہے۔ (تاریخ مکہ)



ابواء کے قریب حضور ﷺ کی والدہ حضرت آمنہ کا مزار مبارک۔

## باب نمبر 8

تاریخ جنت البقیع  
۱۰ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کا قبرستان

یہ قبرستان مسجد نبوی ﷺ کے مشرقی سمت میں ہے۔ باب جبرائیل علیہ السلام سے نکل کر سڑک پر آئیں تو سامنے مقبرہ بقیع کا احاطہ نظر آتا ہے یہ بڑے ادب کی جگہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں دس ہزار صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ آرام فرما رہے ہیں۔ اولیاء اور صالحین کی تعداد کا تو کیا کہنا ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی شقی شمالی گوشہ کے قریب مدفون ہیں۔ یہیں پر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر مبارک ہے۔

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو چھوڑ کر تمام امہات المؤمنین یہیں آرام فرما ہیں۔ حضور ﷺ کی تینوں صاحبزادیاں حضرت زینب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، حضرت رقیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسی مقام ادب پر محو استراحت ہیں۔ حضرت عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، حضرت امام حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، حضرت عقیل بن طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، حضرت حلیمہ سعدیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، حضور ﷺ کی پھوپھیوں کے مزارات بھی اسی احاطہ کے اندر ہیں۔

جنت البقیع کی مشرقی دیوار سے باہر ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے مزارات ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، حضرت عبدالرحمن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بن عوف، حضرت سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بن وقاص، حضرت عبداللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بن مسعود، حضرت اسد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بن زرارہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہستیوں کے مزارات کی نشاندہی بھی موجود ہے۔

وہ شہدائے احد جو مدینہ میں آخر جاں بحق ہوئے ان کے مزار بھی احاطہ میں موجود ہیں۔ امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قبر بھی باب جبرائیل کے سامنے والے دروازے کے قریب ہے۔

حضور ﷺ اکثر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور زیارت فرماتے تھے۔ وصال سے کچھ دن پہلے آسودگان بقیع کا خیال آ گیا۔ جوش محبت سے آدھی رات کو اٹھ کر قبرستان میں تشریف لائے اور بڑے سوز سے دعا فرماتے رہے پھر قبروں میں سوئے ہوئے روحانی دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

”انا بکم ملا لاحقون۔“ میں اب جلد تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔


## فضائل جنت البقیع

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ: قیامت کے دن جنت البقیع سے ستر ہزار آدمی جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مثل روشن ہوں گے اٹھ کر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا: کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، پھر عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پھر اہل بقیع اور اہل مکہ عنہم۔

حضرت کعب احبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع پر ملائکہ موکل ہیں کہ جب یہ بھر جاتی ہے تو وہ اس کے کنارے تھام کر جنت الفردوس میں جھٹک دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ مقبرہ جنت البقیع اور مقبرہ عسقلان ان دونوں مقبروں کی روشنی آسمان پر ایسی ہے جیسے زمین پر آفتاب و ماہتاب کی۔

لغوی اعتبار سے بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف درختوں کی جڑیں پائی جاتی ہوں لیکن یہ بقیع جو عرف عام میں جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے مدینہ طیبہ کا وہ واحد قبرستان ہے جو زمانہ رسالت سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ بقیع دراصل وہ مستطیل خطہ ہے جو مدینہ کی فصیل کے باہر مشرق میں واقع ہے یہ باب جمعہ کے نزدیک ہے۔ یہ طول میں ایک سو پچاس میٹر اور چوڑائی میں ایک سو میٹر ہے یہ قبرستان چار دیواری سے گھرا ہوا ہے اس کے صدر دروازہ پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چار دیواری عثمانیہ کے عہد کی یادگار ہے۔


جنت البقیع مدینہ منورہ کا انتہائی حسین منظر



### اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و دیگر مسلمان

مورخین کے تذکرے میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خاندان کے لوگ جنہوں نے آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں یا وصال کے بعد انتقال کیا جنت البقیع میں دفن ہیں۔ قاضی عیاض نے اہل ممالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تقریباً دس ہزار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ باقی دوسرے اسلامی ملکوں کے مختلف علاقوں میں دفن ہیں۔


جنت البقیع میں حضور ﷺ کے بیٹے ابراہیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبر ہے اور 4 سا جہزادیوں کی قبر مبارک ہے۔



## جنت البقیع میں مدفون صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام مبارک

- |   |  |
|---|--|
| ۱۹..... ام المؤمنین سیدة ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا        | ۱..... حضرت فامہ بن اسرار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا          |
| ۲۰..... ام المؤمنین سیدة زینب بنت جحش رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا   | ۲..... حضرت ابی سعید الخدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ         |
| ۲۱..... ام المؤمنین سیدة زینب بنت خزيمة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا | ۳..... حضرت سعد بن معاذ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ             |
| ۲۲..... ام المؤمنین سیدة سوده رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا           | ۴..... حضرت اسعد بن زرارة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ           |
| ۲۳..... ام المؤمنین سیدة حفصہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا           | ۵..... حضرت منیس بن حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ           |
| ۲۴..... ام المؤمنین سیدة صفیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا           | ۶..... حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ        |
| ۲۵..... ام المؤمنین سیدة ام حبیبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا       | ۷..... حضرت عبدالرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ        |
| ۲۶..... ام المؤمنین سیدة عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا    | ۸..... حضرت عثمان بن مظعون رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ          |
| ۲۷..... سیدة رقیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                       | ۹..... حضرت سعد بن وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ             |
| ۲۸..... سیدة ام کلثوم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                   | ۱۰..... حضرت امام نافع شیخ القراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ   |
| ۲۹..... سیدہ زینب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                       | ۱۱..... حضرت امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ              |
| ۳۰..... امام جعفر صادق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                   | ۱۲..... سیدة اروی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                  |
| ۳۱..... امام محمد باقر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                   | ۱۳..... سیدة عاتکہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                 |
| ۳۲..... امام زین العابدین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                | ۱۴..... سیدة صفیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                  |
| ۳۳..... سیدنا امام حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                   | ۱۵..... حضرت سلیمان بن حارث رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ         |
| ۳۴..... سیدنا عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                       | ۱۶..... حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ |
| ۳۵..... سیدة فاطمہ زہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                | ۱۷..... حضرت عقیل بن ابی طالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ       |
|   | ۱۸..... ام المؤمنین سیدة جویریہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا    |






مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع: پہلے یہ شہر سے باہر تھا مگر اب چونکہ مسجد نبوی تقریباً اس تمام رقبے تک وسیع ہو چکی ہے جہاں مدینہ شہر تھا، اس لیے یہ قبرستان مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہو گیا ہے۔ سنت کے مطابق بنی ہوئی قبریں بہار دے رہی ہیں۔

مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع: پہلے یہ شہر سے باہر تھا مگر اب چونکہ مسجد نبوی تقریباً اس تمام رقبے تک وسیع ہو چکی ہے جہاں مدینہ شہر تھا، اس لیے یہ قبرستان مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہو گیا ہے۔ سنت کے مطابق بنی ہوئی قبریں بہار دے رہی ہیں۔

اب قبروں پر کوئی نام یا کتبہ موجود نہیں لیکن اہم قبروں کے گرد چوکور اینٹوں سے احاطہ کھینچا ہوا ہے جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں کوئی اہم صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ یا صحابیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مدفون ہے۔ زیارات کرانے والے اکثر معلم یا پولیس اہلکار ان قبروں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔




جنت المعلىٰ میں حضرت ابو طالب اور حضرت عبدالمطلب کے مزارات مبارکہ






وہ مبارک جگہ جہاں روز قیامت آپ ﷺ سب سے  
پہلے جائیں گے




### جنت البقیع

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، اور میں دونوں حرموں کے درمیان سے اٹھوں گا۔

جنت البقیع میں آپ ﷺ کے خاندان کی اکثریت مدفون ہے اب یہ مزارات گرا دیے گئے ہیں۔




یہاں حضور ﷺ کے صاحبزادیوں میں سے ۱..... فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ۲..... زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ۳..... ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔  
 ۴..... رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ ۶ سے زائد بیویاں یہاں مدفون ہیں۔  
 آپ ﷺ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں مدفون ہیں۔



جنت البقیع میں موجود حضور ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد کی قبر۔




مکہ مکرمہ کے تاریخی قبرستان ”جنت المعلىٰ“ میں سنت کے مطابق بنی ہوئی قبریں۔ تمام مسلمانوں کو اپنے علاقوں کے قبرستان اسی مسنون طریقے کے مطابق بنانے چاہئیں۔ یہاں آ کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کرنا چاہیے۔



جنت المعلىٰ میں حضور ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب اور حضرت عبدالمطلب کے مزارات۔




دمشق کے قریب حضور اکرم ﷺ کی صاحبزادی زینب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بنت محمد ﷺ کی قبر مبارک۔



مزار کے اندر قبر حضرت زینب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بنت محمد ﷺ

## مدینہ منورہ کی وادیوں کا نقشہ

یوں تو مدینہ الرسول ﷺ کے قرب و جوار میں بہت سی وادیاں ہیں۔ تاہم اس زمانہ سے لے کر آج تک جن کا نام مورخین مدینہ الرسول ﷺ بیان کرتے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔



## وادی بطحان

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”ان بطحان علی ترعة من ترع الجنة.“

ترجمہ: یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے۔

اس مبارک وادی کے فضائل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں ایک حوض یا ایک دروازے پر بنایا ہے جیسا کہ اس کی مٹی کو شفا بنایا۔

وادی بطحان حرہ شرقیہ کے جنوب سے شروع ہو کر مسجد قبا کے مشرق تک جاتی ہے۔ پھر شمال کی جانب تریہ صعیب تک ہے، جو طریق قربان کے مشرق میں ہے۔ پھر مسجد بلال اور مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغرب تک

وادی بطحان ڈیم

پھیلی ہوئی ہے اور پھر وہاں سے صبح تک اور اسے وادی ابی جیدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا اکثر حصہ تو اب ڈھانپ دیا گیا ہے۔


حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: ”وادی بطحان جنت کے تالابوں میں سے ایک حوض پر ہے۔“



## وادی بطحان

آپ ﷺ کا ارشاد ہے وادی بطحان جنت کی نہروں میں سے ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ وادی بطحان جنت کی زمینوں میں سے ہے۔

## وادی عقیق



حضرت ہشام بن عروہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ وادی عقیق میں آرام فرماتے تھے تو آپ ﷺ کو کہا گیا بے شک آپ مبارک وادی میں ہیں۔  
حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا آپ وادی عقیق میں تھے۔ کہ ایک رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز ادا کیجئے اور فرمادے کہ جو حج میں شامل ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

بخاری میں اس وادی کا ذکر یوں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آنحضرت ﷺ اور حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس ندی میں اتر کر وضو فرمایا تھا۔  
حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ یہ وادی مجھ سے پیار کرتی ہے۔  
وادی عقیق مدینہ منورہ کی سب سے اہم ہے۔ اس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دعا کرنے کا حکم دیا تھا آپ ﷺ اس وادی میں خاص طور پر آ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ ﷺ اس وادی میں سیر کیلئے تشریف لائے تو واپسی میں انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا کہ اے انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لوٹے میں اس وادی سے پانی بھر لے اس وادی کو ہم سے پیار ہے اور ہمیں اس سے ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ ﷺ نے سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بن اکوع سے فرمایا کہ اگر تو وادی عقیق میں شکار کیلئے جاتا تو میں بھی جاتا۔



بعض روایات میں آتا ہے کہ خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس وادی کے خوشگوار موسم، میٹھے پانی اور زرخیز زمین کی وجہ سے اس وادی میں منتقل ہونے کی خواہش اور تمنا کی۔ (دیکھئے اخبار مدینۃ الرسول لاسن البخار)



## وادی عرنہ

یہ مکہ کی ایک وادی ہے، مسجد نمرہ کا اگلا حصہ اسی وادی میں ہے۔ یہ حدود عرفات اور حدود حرم دونوں سے باہر حل میں واقع ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اس وادی میں مشہور ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ وادی بھی ایک جداگانہ شان رکھتی ہے۔



## وادی عقیق پر فرین کا پل

سنن ابوداؤد کی روایت کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی بطحان کی مٹی میں شفاء رکھی ہے۔ (ابوداؤد

(۲۱۳/۴) رقم ۳۸۸۵

مسند بزار کی روایت کے مطابق اس وادی بطحان میں جنت کی برکات میں سے برکت اتاری گئی ہے۔

(معالم المدینہ المنورہ ۲/۶۱۳)

## ٹوپ کا پے میوزیم میں موجود حضور اکرم ﷺ کے نادر تبرکات نبوی ﷺ

خلیفہ سلطان محمد ثانی نے خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں تقریباً 600 سال قبل ٹوپ کا پے نامی محل تعمیر کروایا بعد میں خلیفہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس محل میں چند کمرے حضور ﷺ کے تبرکات کیلئے مخصوص کر دیئے جس میں دنیا بھر سے حضور ﷺ کے مستند تبرکات کو رکھنے اور جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کیلئے بڑی فراغ دلی سے بعد کے حکمرانوں نے بھی دولت خرچ کر کے اس کو مزید سونے اور جواہرات سے مزین بکس میں محفوظ کیا اب یہ محل ٹوپ کا پے نامی میوزیم کے نام سے ترکی میں موجود ہے۔




ٹوپ کا پے ترکی میوزیم کا بیرونی اور اندرونی منظر جس میں حضور ﷺ کے بے شمار تبرکات خلافت عثمانیہ سے محفوظ ہیں



ٹوپ کا پے میں موجود تبرکات نبوی ﷺ کا خوبصورت منظر




ٹوپ کا پے میوزیم میں موجود حضور ﷺ کے درجنوں بال مبارک خوبصورت بکس میں موجود ہیں



ٹوپ کا پے میوزیم میں موجود تبرکات نبوی ﷺ کا خوبصورت نظارہ

ٹوپ کا پے میوزیم میں موجود  
تبرکات نبوی ﷺ میں سے حضور ﷺ  
کی تلوار اور دندان مبارک کا نظارہ



مسجد حسینی قاہرہ (مصر) میں موجود حضور ﷺ  
کے 4 تبرکات ان یکسوں میں موجود ہیں  
(۱) حضور ﷺ کا بال مبارک  
(۲) حضور ﷺ کا عصا  
(۳) حضور ﷺ کی سرمدانی وغیرہ وغیرہ


ٹاپ کا پے اور دیگر جگہوں پر موجود حضور ﷺ کے بال مبارک کا دیدار



اس باکس میں حضور ﷺ کی داڑھی مبارک کا بال موجود ہے (ٹاپ کا پے)



حضور ﷺ کے بال مبارک (ٹاپ کا پے)



حضور ﷺ کے بال کا حسین نظارہ (ٹاپ کا پے)




حضور ﷺ کی داڑھی مبارک کے بال مبارک کا نظارہ




زیر نظر بکس میں حضور ﷺ کے بال مبارک محفوظ ہیں۔  
اس کی اونچائی 5.5 سینٹی میٹر 9 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہے



مسجد حسینی قاہرہ میں موجود حضور ﷺ  
کا بال مبارک اس بکس میں موجود ہے



حضور ﷺ کی داڑھی مبارک کا بال



حضور ﷺ کا بال مبارک



حضور ﷺ کا بال مبارک



حضور ﷺ کا انمول نورانی بال مبارک



حضور ﷺ کا بال مبارک



حضور ﷺ کا بال مبارک

حضور ﷺ کے مبینہ نعلین مبارک کا دیدار



یہ نقش نبی ﷺ ٹوپ کا پے میوزیم میں محفوظ ہے

یہ نقش نبی ﷺ  
ٹوپ کا پے میوزیم  
میں محفوظ ہے





مسجد حسینی قاہرہ میں موجود حضور ﷺ کے عصا مبارک کا منظر



ٹاپ کاپے میں موجود ہیرے جواہرات سے مزین قرآن مجید کا بکس



حضور ﷺ کا خط مبارک کا عکس جو مقوقس بادشاہ کو بھیجا تھا



حضور ﷺ کی مہر مبارک کا خوبصورت نظارہ




حضرت فاطمہؓ کی جاہ نماز جو خلافت عثمانیہ سے ٹاپ کاپے میں محفوظ ہے



حضرت فاطمہؓ کی شادی کا جوڑا جو خلافت عثمانیہ سے ٹاپ کاپے میں محفوظ ہے



ٹاپ کا پے میں موجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منسوب قرآن مجید کا نظارہ




ٹاپ کا پے میں موجود حضور ﷺ کا لکڑی کا پیالہ جس کو خلافت عثمانیہ میں سونے کے خول سے مزین کر دیا گیا ہے اور اس پر قرآنی آیات بھی لکھ دی گئی ہیں

ٹاپ کا پے میں موجود سونے کے بکس میں موجود حضور ﷺ کے بال مبارک







جواہرات سے مزین بکس میں حضور ﷺ سے منسوب نعلین کا ٹکڑا، حضور ﷺ کی قمیض کا ٹکڑا، حضور ﷺ کی قبر کے پردہ کا ٹکڑا، حضور ﷺ کی قبر مبارک کی مٹی موجود ہے




جواہرات سے مزین اس ڈبے میں حضور ﷺ کی قبر مبارک کی مٹی محفوظ ہے (ٹاپ کا پے)

اس بکس میں حضور ﷺ کا جبہ مبارک محفوظ ہے جو کہ ہرے رنگ کے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے





حضور ﷺ کی قبر مبارک پر پچھی چادر مبارک کا نظارہ (ٹاپ کا پے)



خانہ کعبہ کے دروازہ اور روضہ نبوی ﷺ کا قدیم پردہ




حضور ﷺ کے روضہ مبارک پر لگے پردہ کا ٹکڑا (ٹاپ کا پے)



حضور ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کے گھر کے دروازہ اور حضور ﷺ کے روضہ مبارک کے دروازہ کا قفل اور چابی




خانہ کعبہ کی اندرونی دیوار پر لگے پردہ کا خوبصورت نظارہ



خانہ کعبہ کی قدیم کنجی جو کہ ٹاپ کا پے میں محفوظ ہے




حضرت خدیجہؓ کے گھر کے آثار جو کہ اب مسمار کر دیئے گئے ہیں



حضرت خدیجہؓ کے مکان کا منظر جس میں وہ جگہ جہاں حضرت فاطمہؓ کی ولادت ہوئی




خدیجہؓ کے گھر میں موجود حضور ﷺ کے کمرہ کا نظارہ



حضرت ایوبؓ کا وہ مبارک گھر جس میں ہجرت مدینہ کے وقت حضور ﷺ نے قیام فرمایا تھا



حضرت خدیجہؓ کے گھر میں موجود حضور ﷺ کی نماز پڑھنے کی جگہ



حضرت خدیجہؓ کا گھر جس میں حضور ﷺ نے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا (اب یہ جگہ مسمار کر دی گئی ہے)




حضرت خدیجہؓ کے گھر کی مسمار کئے جانے سے قبل لی گئی تصویر



آپ ﷺ کے گھر میں موجود مہمان خانہ جس میں آپ ﷺ وفود سے ملاقات فرمایا کرتے تھے




حضرت خدیجہؓ کے گھر میں موجود حضور ﷺ کے کمرہ میں بنا ہوا پانی کا حوض جس میں آپ ﷺ وضو فرمایا کرتے تھے



خانہ کعبہ اور اطراف کی عمارتوں کی جدید تعمیر کیلئے سعودی حکومت کی طرف سے بنایا ہوا ماڈل



آپ ﷺ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے اس گھر کے آثار جہاں آپ ﷺ نے اپنا بچپن گزارا



مکہ مکرمہ میں موجود حضور ﷺ کی ولادت گاہ پر بنی اسلامی لائبریری کا اندرونی منظر

محبوب ﷺ کے اشارہ پر چاند کے دو ٹکڑے

زیر نظر تصویر میں چاند کے درمیان ایک سفید پٹی اندرونی گہرائی تک نظر آرہی ہے جو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ شق القمر اس وقت ہوا جب کافروں نے آپ ﷺ سے کہا کہ معجزہ دکھاؤ تو آپ ﷺ نے جبل ابوقیس نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا جس سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ نشان اب بھی چاند پر موجود ہے۔





جنت البقیع میں کسی خوش نصیب شخص کی قبر کیلئے بنائے جانے والے گارے کا منظر



جنت البقیع میں موجود حضور ﷺ کی زوجہ ام المومنین حضرت صفیہؓ کی قبر مبارک



جنت البقیع میں موجود حضور ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کی قبر مبارک



جنت البقیع میں موجود حضور ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ کی قبر مبارک

غزوات النبی ﷺ کا تصویری اہم



ٹوپ کاپی میں موجود آپ ﷺ کی تلوار مبارک



ٹوپ کاپی میں موجود آپ ﷺ کی تلوار مبارک



ٹوپ کاپی میں موجود آپ ﷺ کی تلوار مبارک



ٹوپ کاپی میں موجود آپ ﷺ کی تلوار مبارک کے غلاف کا منظر



# غزوہ بدر

کے رمضان ۲ھ

مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان بدر نامی ایک گاؤں ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہیں پر حق و باطل سے جنگ چھڑ گئی۔ ۱۲ رمضان المبارک ۲ھ کو مسلمانوں کو مٹھی بھر جماعت فقط ۳۱۳ آدمی، قریش کے ایک ہزار بہادروں سے مقابلے کیلئے نکل کھڑے ہوئے، اور لطف یہ کہ ان مسلمانوں کے پاس قابل ذکر کوئی سامان نہیں، پورے ہتھیار نہیں اور کافر پورے سامان سے لیس ہو کر آئے تھے۔

مسلمان شہادت کے شوق سے سرشار ہو کر اور کفار غلبہ حاصل کرنے کیلئے بے تاب، غرض کھسان کی لڑائی ہوئی۔ حضور ﷺ صف بندی فرما کر خیمہ میں تشریف لائے اور اللہ کے حضور میں سر پہ بکھو ہو کر مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعا فرمائی، عرض کیا: "اے مجھو حقیقی اگر تیرے یہ بندے جام شہادت پی گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہیگا۔ پروردگار ان کو اپنے فضل و کرم سے فتح عنایت فرما۔"

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی شرکت اور دعاؤں کی برکت سے نیز مسلمانوں کے خلوص نیت بہادری و جفاکشی کی بدولت بڑی شاندار فتح عطا فرمائی۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے اس لڑائی میں مارے گئے۔ جیسے عقبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور بہت سے کافر گرفتار ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے۔

اب ان قیدیوں کو قتل کر کے مسلمان اپنی تکالیف کا پورا پورا بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن حضور ﷺ کی شان رحمت نے کسی طرح یہ گوارا نہ فرمایا کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ چنانچہ امیروں سے فد یہ لے کر ان کو رہا کیا اور غریبوں کے ذمہ یہ فدیہ مقرر ہوا کہ وہ مسلمانوں کے دس لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس لڑائی میں کافروں کو ہار ماننا پڑی۔ بڑی طرح شکست کھائی، عقبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل اور امیہ بن خلف کی موت نے ان کی کمر توڑ دی، ان کی ہمت پست کر دی، ان کے حوصلے فنا کر دیئے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق کے آگے باطل کی ہار ضروری ہے۔


اس غزوہ میں مسلمانوں کے سردار ہمارے آقائے نامدار ﷺ تھے، اور کفار کا سردار، ابو جہل تھا جو موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس جنگ میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قید ہوئے، اور چودہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں چھ مہاجر تھے اور آٹھ انصار۔

مسلمان کامیاب با مراد اپنے آقائے نامدار سرکار دو عالم ﷺ کے ساتھ خوشی خوشی مدینہ طیبہ واپس ہوئے، لیکن عین اسی وقت حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں وفات پا گئیں۔

اسی سال عید الفطر، رمضان المبارک کے روزے، عید کا فطرہ، بقر عید کی نماز، قربانی اور زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے۔

## غزوہ تبوک رجب ۹ھ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آخری غزوہ کے مقام کا منظر



۹ھ میں آپ کو یہ خبر ملی کہ جنگ موتہ کے ہارے ہوئے لوگ اور روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے مقابلہ کیلئے تبوک میں ایک زبردست فوج تیار کی ہے، یہ خبر سن کر حضور ﷺ نے بھی مسلمانوں کو فوج تیار کرنے کا حکم فرما دیا۔

ان دنوں مدینہ طیبہ میں سخت گرمی تھی اور کھجوریں باغوں میں پک کر تیار ہو گئی تھیں اور یہی مسلمانوں کی آمدنی تھی، لیکن اللہ کے یہ مخلص بندے اللہ کیلئے جان و مال سمیت حاضر ہو گئے۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے گھر کا سارا سامان حضور ﷺ کے قدموں پر لا ڈالا۔ حضرت عمر فاروق ﷺ نے گھر کا آدھا سامان پیش خدمت کیا۔ حضرت عثمان غنی ﷺ نے دس ہزار اشرفیاں اور تین سواونٹ سامان سے لدے ہوئے حاضر خدمت کئے۔

غرض تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے دل کھول کر اسلام کی خدمت کی۔ آخر رجب ۹ھ میں ہمارے نبی ﷺ تیس ہزار فوج لے کر میدان تبوک میں تشریف لائے، لیکن یہاں پہنچ کر خبر غلط معلوم ہوئی۔ چنانچہ پندرہ بیس روز کا قیام فرما کر آپ ﷺ واپس تشریف لائے۔ یہ آپ ﷺ کا آخری غزوہ تھا۔




تبروک میں موجود قلعہ کا منظر



حضور ﷺ جب تبروک پہنچے تو وہاں موجود چشمے کا پانی بہت کم اور لشکر اسلام کیلئے نا کافی تھا۔ آپ ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں پر پانی ڈال کر اس چشمے میں اٹھیل دیا۔ مہجراتی طور پر رس کر آنے والا پانی فوارے کی طرح اٹھنے لگا اور جتنے دن مسلمان وہاں قیام پذیر رہے، سب کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ تصویر میں نظر آنے والے حوض اسی چشمے کے قریب تعمیر کئے گئے ہیں۔ ساتھ ہی موجود کھجور کا باغ نظر آرہا ہے۔ یہ بھی حضور ﷺ کی پیش گوئی کا مصداق ہے۔ اس وقت یہاں پھیل میدان تھا۔ آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوتی تو تم اس جگہ کو ہجرت لکھو گے۔ کھجور کے بلند و بالا درخت آپ کے فرمان مبارک کی تصدیق کر رہے ہیں۔



علامہ میرٹھیؒ نے لکھا ہے، تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے آپ ﷺ نے ایک صحابیؓ سے کہا تھا کہ تبوک میں ایک چشمہ ہے تم اسکا پانی جمع کرنا پناہمت، صحابہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چشمہ سے قطرہ قطرہ پانی آ رہا تھا اس کو جمع کیا گیا۔ آپ ﷺ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ اہل پڑا، صحابہؓ کے ۳۰ ہزار پر مشتمل مبارک جماعت مجاہدین دن رات اس سے سیراب ہوئے حضرت میرٹھیؒ نے لکھا ہے کہ الحمد للہ میں نے بھی اس چشمہ کی زیارت کی ہے یہ اب تک جاری ہے۔



جدید تبوک شہر کی آبادی۔ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور، دشوار گزار علاقے میں واقع یہ شہر اس غزوے کا شاہد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات نازل ہوئیں۔



تبوک کا ایک قبرستان جس میں سنت کے مطابق قبریں بنی ہوئی ہیں۔ نہ ان پر کوئی پختہ تعمیر ہے نہ جھنڈے لگے ہیں اور نہ چادریں وغیرہ چڑھی ہوئی ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی کی قبر بھی ہے۔



تبوک میں موجود سعودی چھاؤنی کا منظر




تبوک کی ایک عالیشان مسجد۔ یہ شہر اہل ایمان کے جہاد کیلئے جوش و خروش اور منافقین کی کم ہمتی، بزدلی اور قتال فی سبیل اللہ سے جی چرانے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غزوہ تبوک کا سارا واقعہ ہی جہاد کے حوالے سے کئی سبق آموز امور پر مشتمل ہے۔ اس کے مطالعے سے جہاد کے متعلق وہ بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں جو آج دین سے دوری اور غیروں کی غلامی کے باعث ہمارے ذہنوں میں لگ چکی ہیں۔



یہ تبوک کی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ”ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم اس جگہ کو سرسبز پاؤ گے“

## اس جگہ کو آپ ﷺ کے قدم مبارک چومنے کا شرف حاصل ہے

آپ ﷺ ۳۰ ہزار صحابہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں اس جگہ یعنی قوم شمود کی تباہ شدہ بستی سے گزرے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے چہرہ پر کپڑا ڈالو اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیئے نہ کانوں میں داخل ہو۔



قصر الدیوان: تبوک کے راستے میں واقع حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی میں قبیلے کے سردار کی نشست گاہ عبرت کا نشان بنی ہوئی یہ عمارت اقتدار پرست حکمرانوں اور دنیا کی محبت میں گرفتار انسانوں کو دنیا سے دل نہ لگانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی اہمیت یاد دلا رہی ہے۔

(۱) غزوہ تبوک حضور ﷺ کا آخری غزوہ ہے۔ (۲) تبوک ملک شام کے شہر کا نام ہے یہ آج کل سعودیہ میں شامل ہے۔ (۳) قرآن اس غزوہ کو ساعہ العسرة (مشکل گھڑی) کے نام سے یاد کرتا ہے۔ (۴) اس میں صحابہ سارا سال انتظار کے بعد پکی ہوئی فصل کو چھوڑ کر نکلے۔ (۵) یہ غزوہ اس لئے ہوا کہ ہر قتل شام کے راستے سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ (۶) اس میں رومی فوجی ۳۰ ہزار مسلمانوں کا سن کر بھاگ گئے۔ (۷) آپ ﷺ ۲۰ روز تک تبوک میں ٹھہرے۔



تبوک میں قائم مسجد الرسول ﷺ: یہ اس جگہ قائم کی گئی ہے جہاں غزوہ تبوک میں امام المجاہدین ﷺ کا خیمہ تھا۔ تبوک کی جنگ سخت ناموافق حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزیمت و استقامت کی لائق رشک مثال کے طور پر جانی جاتی ہے۔



غزوہ تبوک میں موجود مسجد تبوک



## غزوة حنین 8 ہجری


یا رسول اللہ ﷺ۔ پھر حضرت عباسؓ نے لاکارا۔ "اے انصار تم وہی ہو جنہوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی تھی، آؤ آگے بڑھو۔" یہ سنا تھا کہ تمام اسلامی سپاہی پلٹ پڑے اور میدان میں اس جوش سے بڑھے اور ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ کائی کی طرح چھٹ کر رہ گئے، پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، آن کی آن میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ کافر بھاگ کر طائف میں جمع ہو گئے، یہاں ثقیف کا قبیلہ بہت زور آور تھا۔

حنین کی لڑائی میں مال غنیمت بہت ملا تھا۔ حضور ﷺ نے قریش کے نو مسلموں کو بہت کچھ عطا فرمایا، انصار کو خیال ہوا کہ یہ حضور ﷺ کے وطن کے لوگ ہیں آپ نے ان کو اتنا کچھ دے ڈالا اور ہم محروم رہ گئے۔ آپ ﷺ نے جب یہ سنا تو فرمایا۔ "اے انصار یوں! کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول ﷺ کو لے جاؤ۔" انصار یہ سن کر خوشی میں چیخ اٹھے، کہنے لگے۔ "ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ ہم کو اس کا ڈر تھا کہ وطن والوں پر جو یہ بخششیں ہو رہی ہیں ایسا نہ ہو حضور ﷺ بھی وطن اور وطن والوں کی محبت میں آکر انہیں لوگوں کے ساتھ ہو لیں، بس آپ ﷺ ہمیں مل گئے اب ہمیں کچھ نہیں چاہئے۔"

فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور یہ بھی بات ہے کہ قریش کے ڈر سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ڈرتے تھے۔ لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب کوئی روک ٹوک ہی نہ رہی، کعبہ کی چھت پر اسلامی جھنڈا کچھ کر ہر شخص کفر کا پھندا نکال کر اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گیا مگر ہاں ثقیف و ہوازن کے قبیلے بڑے زبردست قبیلے تھے، وہ کسی سے دب کر رہنا نہ چاہتے تھے چنانچہ ہوازن کے قبیلے کے سرداروں نے لوگوں سے مل جل کر سب کو لڑائی پر آمادہ کیا اور ایک بڑی فوج حنین کے میدان میں لا آئی۔

حضور ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو شوال 8ھ میں بارہ ہزار فوج کے ساتھ میدان میں پہنچ گئے، اس فوج میں نو مسلم بہت تھے، جن کے دلوں میں ابھی ابھی ایمان داخل ہوا تھا، اچھی طرح جگہ بھی نہیں پکڑنے پایا تھا۔

ہوازن کے لوگ تیر چلانے میں بے مثل تھے، ان کی پہلی ہی بازو سے مسلمان تڑپتے ہو گئے اور اک دم ان کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر ہمارے سرکار وہ عالم ﷺ اپنی جگہ پر قائم تھے، آپ نے دائیں بائیں انصار کو آواز دی، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ ﷺ (حاضر ہیں




غزوة حنین کے تاریخی مقامات



اس ٹنکی کے کنویں میں حضور اکرم ﷺ نے کلی فرمائی تھی

جامع مسجد جعرانہ: غزوہ حنین میں فتح کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ مال غنیمت ”جعرانہ“ نامی مقام میں جمع کر دیا جائے اور خود آپ ﷺ طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے جو کفر پر عظیم فتح کی یاد دلاتی ہے۔ دائیں طرف وہ ٹنکی نظر آرہی ہے جس کے ذریعے اس کنویں کا پانی مسجد اور قریبی آبادی کو فراہم ہوتا ہے جو حضور ﷺ کے لعاب دہن سے میٹھا ہوا۔



غزوہ حنین میں شہید ہونے والے صحابہ کا قبرستان

# غزوہ بدر

کے رمضان ۲ھ

مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان بدر نامی ایک گاؤں ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہیں پر حق و باطل سے جنگ چھڑ گئی۔ ۱۲ رمضان المبارک ۲ھ کو مسلمانوں کو مٹھی بھر جماعت فقط ۳۱۳ آدمی، قریش کے ایک ہزار بہادروں سے مقابلے کیلئے نکل کھڑے ہوئے، اور لطف یہ کہ ان مسلمانوں کے پاس قابل ذکر کوئی سامان نہیں، پورے ہتھیار نہیں اور کافر پورے سامان سے لیس ہو کر آئے تھے۔

مسلمان شہادت کے شوق سے سرشار ہو کر، کفار غلبہ حاصل کرنے کیلئے بے تاب، غرض سمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضور ﷺ صاف بندی فرما کر خیمہ میں تشریف لائے اور اللہ کے حضور میں سر پہ سجود ہو کر مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعا فرمائی، عرض کیا: "اے معبود حقیقی اگر تیرے یہ بندے جام شہادت پی گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ بیگا۔ پروردگار ان کو اپنے فضل و کرم سے فتح عنایت فرما۔"

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی شرکت اور دعاؤں کی برکت سے نیز مسلمانوں کے خلوص نیت بہادری و جفاکشی کی بدولت بڑی شاندار فتح عطا فرمائی۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے اس لڑائی میں مارے گئے۔ جیسے عقبہ، شیبہ، ابو جہل، اُمیہ بن خلف اور بہت سے کافر گرفتار ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے۔

اب ان قیدیوں کو قتل کر کے مسلمان اپنی تکالیف کا پورا پورا بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن حضور ﷺ کی شان رحمت نے کسی طرح یہ گوارا نہ فرمایا کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ چنانچہ امیروں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا اور غریبوں کے فتنہ یہ فدیہ مقرر ہوا کہ وہ مسلمانوں کے دس لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس لڑائی میں کافروں کو ہار ماننا پڑی۔ بڑی طرح شکست کھائی، عقبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل اور اُمیہ بن خلف کی موت نے ان کی کمر توڑ دی، ان کی ہمت پست کر دی، ان کے حوصلے فنا کر دیئے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق کے آگے باطل کی ہار ضروری ہے۔

اس غزوہ میں مسلمانوں کے سردار ہمارے آقائے نامدار ﷺ تھے، اور کفار کا سردار، ابو جہل تھا جو موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس جنگ میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قید ہوئے، اور چودہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں چھ مہاجر تھے اور آٹھ انصار۔

مسلمان کامیاب با مراد اپنے آقائے نامدار سرکارِ دو عالم ﷺ کے ساتھ خوشی خوشی مدینہ طیبہ واپس ہوئے، لیکن عین اسی وقت حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں وفات پا گئیں۔


اسی سال عید الفطر، رمضان المبارک کے روزے، عید کا فطرہ، بقر عید کی نماز، قربانی اور زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے۔

### غزوہ بدر اکبری


یوم الفرقان، یوم التقی الجمعان  
۱۷ رمضان ۲ھ  
۶۲۴م

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٍ مَرُضُوصٍ ﴾  
(الصف: ۴/۶۱)

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾  
(آل عمران: ۱۲۳/۳)



میدان بدر میں رسول اللہ ﷺ کے آرام کرنے کا مقام




ایک نادر تصویر جس میں بدر کی آبادی، باغ اور قبرستان کے ساتھ مندرجہ ذیل مقامات بھی نظر آرہے ہیں۔ (۱) شہداء بدر کی قبور۔  
 (۲) مسجد العریش: عریش کے معنی سائبان کے ہیں۔ حضور ﷺ کیلئے اس جگہ سائبان تانا گیا تھا جہاں سے آپ ﷺ معرکہ کی کمان کر رہے تھے۔  
 (۳) چوک شہدائے بدر: اس چوک میں لگے کتبے میں بدر کے ۱۴ مہاجر و انصار شہداء کرام کے اسماء گرامی تحریر ہیں۔  
 (۴) یہ بیت الخلاء اس جگہ کے قریب ہیں جہاں مشرکین کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈالی گئی تھیں۔



بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس حوض سے سیراب ہوتے رہے

مسجد عریش: بدرے ار رمضان یوم الفرقان ہے اس دن حق و باطل کے اولین معرکے میں اللہ تعالیٰ نے فرزند ان تو حید کو بت پرستوں پر فتح مبین عطا فرمائی۔ بدر کے میدان میں حضور ﷺ کیلئے ایک اونچی جگہ سائبان بنایا گیا تھا جہاں سے آپ ﷺ مجاہدین اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد العریش نامی یہ خوبصورت مسجد اسی جگہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ فرزند ان اسلام کیلئے فتح و نصرت اور مشرکوں کیلئے رسوائی و ذلت کا پیغام لاتا رہے۔ آمین ثم آمین




بدر کا قبرستان۔ دائرے میں دکھائی گئی چار دیواری میں شہداء بدر آرام فرما ہیں۔ قبرستان کی دیوار کے ساتھ بدر کی زرخیز زمین میں اُگے ہوئے خوبصورت درخت اور پس منظر میں آنے والے دائرے میں مسجد العریش نظر آرہی ہے۔ اے اللہ! جہاد کے مقدس فریضے کی ابتدا کرنے والی ان عظیم ہستیوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد اور مجاہدین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین



میدان جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے آرام فرمانے کی مقدس جگہ کے پاس




میدان جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے آرام فرمانے کی مقدس جگہ کے پاس




غزوة بدر کا چشمہ اور مسجد عریش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس چشمہ سے پانی پیا تھا






بدر کے شہداء یہاں آرام فرما ہیں



بدر کا 1400 سال پرانا کنواں اور میدان بدر



مسجد بدر: وہ مقام جہاں غزوہ بدر ہوا




شہداء بدر کی یاد میں ان کے اسماء سے مزین کتبہ



مسجد عریش کے سامنے میدان جنگ کا ایک حصہ جہاں اب کھجوروں کا باغ ہے



اس کنویں کا مقام جسے رسول اللہ ﷺ نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر باقی رہنے دیا



میدان بدر میں صحابہ کی قبر پر لگے ہوئے دو کتبات

## شہید کے فضائل

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:


شہید کو شہادت کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے  
جتنی کسی کو چوہنی کے کانٹے کے وقت ہوتی ہے  
(نسائی لالیسی 2963/2)

شہید کیلئے اللہ کے ہاں چھ انعام ہیں


- شہید ہوتے ہی اسکے ماں گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔
- عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔
- اسکے سر پر عزت کا ایراتاج رکھا جاتا ہے جس میں لگا ہوا ایک یا قوت دینا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔
- (قیامت کے دن) اسے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائیگا۔
- (جنت میں) ہونی آنکھوں والی (۴۲) حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔
- اور وہ اپنے شہداء (۴۰) عزیز واقارب کی سفارش کرے گا۔



بدر کا میدان کارزار، ایک صاحب دل نے پتھر پر یہ شعر لکھ کر مسلمانوں کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین اور شہادت کا شوق دلانے کی کوشش کی ہے۔  
لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا باقيا  
اگر دنیا کسی کیلئے ہمیشہ رہتی تو رسول اللہ آج زندہ ہوتے




غزوہ بدر کا پرانا کنواں جس میں مقتولین قریش کے لاشے ڈالے گئے



غزوہ بدر میں مارے جانے والے مشرکین کو حضور اکرم ﷺ کے حکم پر ایک کنویں میں ڈلوادیا گیا۔  
زیر نظر تصویر ان حمام کی ہے جو اس کنویں پر بنائے گئے۔

بدر کے قدیم شہر کا ایک حصہ



مشرقی اور مغربی الصدمہ کے پہاڑوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ کی بدر سے مدینہ منورہ کو واپسی کا راستہ

# غزوة اُحد

## شوال ۳ھ

بدری کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، لیکن فینک و غنضب، بغض و عناد کی آگ بھڑک رہی تھی، اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، ایک سال تو انہوں نے جیسے تیسے گزار لیا۔ اس کے بعد بدلہ لینے کی ٹھان لی اور تین ہزار آدمیوں کا لشکر بڑے زور و شور سے تیار کیا۔

حضور ﷺ نے جب یہ خبر سنی تو آپ ﷺ نے بھی ایک لشکر تیار کیا۔ مسلمان کو بظاہر بے سرو سامان تھے لیکن ارادے کے سچے، ایمان کے پکے، اللہ اور رسول ﷺ پر جان دینے والے وہ بھلا کفار کو کیا خاطر میں لاتے، وہ دشمنوں کی کثرت سے ذرا بھی نہ گھبرائے، گھبرانا کیسا بلکہ ذوق و شوق میں سینہ تان کر نکل آئے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر سب سے پہلے میں ٹار ہو جاؤں۔

قریش نے مدینہ طیبہ پہنچی کر اُحد پہاڑ کے پاس بڑی شان سے اپنا پناؤ ڈالا۔ حضور شوال ۳ھ میں جمعہ کی نماز پڑھ کر ایک ہزار مسلمانوں کو لے کر اُحد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ عین وقت پر منافقوں نے دھوکا دیا، اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر حیلہ بہانے سے نکل گئے، اب صرف ۷۰۰ سات سو مسلمان رہ گئے۔ مسلمانوں نے اُحد پہاڑ کے دامن میں اس طرح اپنی فوجیں اتاریں اور صفیں مرتب کیں کہ مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی اور تھمی، ڈرتھا کہ دشمن اسی طرف سے آکر پیچھے سے حملہ نہ کر بیٹھیں، اس لئے حضور ﷺ نے پچاس تیر انداز اس پہاڑی پر مقرر فرما دیئے اور ان کو حکم دیا کہ ہم کو فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے نہ جلتا۔

دفعۃً کفار کی عورتیں بدر کے مقتولوں کا مرثیہ درد بھرے الفاظ میں پڑھتی ہوئی نکلیں، بس پھر کیا تھا، کفار مکہ آپے سے باہر ہو گئے۔ حضرت حمزہ، حضرت علیؓ اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور ان کفار کی صفیں اُلٹ دیں۔ آخر کار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے زبردست حملوں سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگ نکلے۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اب مسلمانوں کا وہ دست بھی جس کو آپ نے پہاڑی کی حفاظت کیلئے مقرر کیا تھا، گھائی کی گمرانی اس خیال سے چھوڑ کر کرباب توجیح ہو گئی ہے بنتے میں کوئی حرج نہیں، پہاڑی سے اتر آیا، ان کے سردار عبد اللہ بن جبیرؓ نے بہت رو کا حضور ﷺ کا حکم یاد دلایا، مگر وہ نہڑ کے۔

خالہ بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی تاک میں لگے ہوئے تھے، جیسے ہی پہاڑی خالی ہوئی فوراً ایک دست کے ساتھ پہاڑی کی پشت سے آکر بے خبری میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔

مسلمان بالکل بے خبر مال غنیمت میں مشغول تھے، اک دم سے حملہ ہوا تو بدحواس ہو گئے اور اس بدحواسی میں اپنے ہی لوگوں پر پلٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت نضیب بن عمیرؓ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ یہ صورت میں حضور ﷺ کے بہت مشابہ تھے، ان کا شہید ہونا تھا کہ کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد ﷺ (شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی جان پر بنا دی، ان کے رہے رہے ہوش جاتے رہے۔ دوسری طرف لیکن چند صحابہؓ حضور ﷺ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ جس کی وجہ سے کفار کو موقع نہ ملا۔

پھر ایک بد بخت کافر جس کو لوگ بہت بہادر سمجھتے تھے مجمع کو چیر کر حضور ﷺ تک پہنچ گیا اور چہرہ مبارک پر ایسی تلوار ماری کہ خود کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا، آپ چہرہ مبارک سے خون پھٹتے جاتے تھے اور ان کی ہدایت کی دعا فرماتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ کیا شان کر تھی اللہم صل علی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم۔ اس لڑائی میں ستر (۷۰) مسلمان شہید ہوئے۔



وادی اُحد کا ایک دلفریب منظر، پس منظر میں مدینہ منورہ کی آبادی نظر آرہی ہے۔ اوپر بائیں طرف اس وادی میں واقع کھجور کے باغات کو قریب سے دکھایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُحد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ جب تم یہاں سے گزرو تو اس کے درختوں میں سے کھاؤ اگر چہ کانٹے دار درخت کیوں نہ ہو“۔ (مصنف عبدالرزاق: ج ۹ ص ۲۶۹، مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۱۳، ۱۴)



یہ مسجد حضور ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جگہ بنائی گئی ہے



## جنگ اُحد کا تاریخی منظر



- 1۔ اُحد دیند کے پہاڑ کا نام ہے 2۔ ۷۳ سوال ۳۔ ۳۰ میں یہاں معرکہ ہوا
- 3۔ کفار کی تعداد ۳ ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد ۷۰۰ تھی
- 4۔ انہیں ۷۰ صحابہ شہید ہوئے کفار کے ۲۳ آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کو آپ ﷺ کا خطا و اجتہاد اٹھم عدولی کی وجہ سے کھست ہوئی


## جبل عینین یا جبل رماة

یہ ایک چھوٹا سا سرخی مائل پہاڑ ہے اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ؑ کی قبر کے جنوب میں ہے اور اس پہاڑ اور قبر کے درمیان وادی قناتہ ہے یہ درمیانی فاصلہ تقریباً ۶۲ میٹر ہے۔ پہاڑ کے مشرقی حصہ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا تذکرہ احادیث میں بھی ملتا ہے۔ یہ مسجد کھلی ہوئی ہے اور ناتراشیدہ چونے کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ لمبائی میں ۵ میٹر اور ۹۰ سینٹی میٹر ہے۔ اس پہاڑ پر لوگوں کی آمد و رفت ہنوز جاری ہے۔ تقریباً ہر طرف اہل مدینہ کے مکانات اور دکانیں بنی ہوئی ہیں۔


جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے عم محترم امیر حمزہ ؑ اسی مسجد کی ایک جگہ زخمی ہو کر گرے تھے۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہیں حضور علیہ السلام نے آپ کیلئے دعائے مغفرت بھی فرمائی تھی۔ جبل عینین ہی وہ پہاڑ ہے جہاں پیغمبر علیہ السلام نے جنگ احد کے موقع پر صحابہ میں سے پچاس تیر اندازوں کی ایک جماعت کو متعین کیا تھا اور کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہٹنے کی تاکید فرمادی تھی اس لئے اس پہاڑ کا نام جبل رماة (تیر اندازوں کا پہاڑ مشہور ہو گیا اور آج تک اسی نام سے موسوم ہے۔

### رسول اللہ ﷺ کی شجاعت اور استقلال

جب مسلمان اس افراتفری اور مصیبت سے دوچار تھے، رسول اللہ ﷺ اس وقت جبل الرماہ کے شمال جنوب والے درے میں مصروف جنگ تھے۔ آنحضرت ﷺ کے بہت سے ساتھیوں نے (معاذ اللہ) ساتھ چھوڑ دیا تھا اور دشمن اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حملے کا سارا زور حضور ﷺ کی طرف لگائے ہوئے تھا۔ مگر آنحضرت ﷺ ایک پہاڑ کی مانند ثابت قدم تھے آپ تمام پیغمبروں کی طرح استقلال، بہادری اور ثابت قدمی کا مجسمہ تھے۔ آپ کا عزم غیر متزلزل تھا اور آپ ﷺ دشمن کے حملوں سے بے خوف ہو کر دندان شکن جواب دے رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے تیر چلا رہے تھے کہ اچانک کمان ٹوٹ گئی۔ آپ کے چہرے مبارک اور سر مبارک پر زخم آئے۔ آپ کا ہونٹ مبارک کٹ گیا اور سامنے کے چار دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک خون میں نہایا ہوا تھا اور مقدس نگاہیں دھندلا گئی تھیں۔








غزوہ اُحد کے موقع پر حضور ﷺ نے تیر اندازوں کے دستہ کو جبل عینین پر کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا

مسجد عینین: یہ مسجد مبارک سیدنا حمزہ ؓ کے مزار کے جانب واقع ہے۔ جس پہاڑ پر یہ واقع ہے اسے جبل الرماة کہتے ہیں۔ جنگ اُحد کے موقع پر تیر انداز بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ ؓ کو وحشی نے اس مقام پر تیر مارا۔ اس کے نشانات منہدم ہو چکے ہیں۔

سیدنا جابر ؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اُحد کے دن نماز ظہر پل کے نزدیک جبل عینین پر پڑھی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے جماعت صحابہؓ کے ساتھ نماز صبح مقام قنطرہ میں ہتھیاروں سمیت ادا فرمائی تھی۔

غزوہ اُحد میں شہید ہونے والے صحابہؓ کے مزارات میں  
حضور ﷺ کے چچا امیر حمزہؓ کا مزار مبارک نمایاں ہے



## سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ﷺ ابن عبدالمطلب

ہجرت کے تیسرے سال ۶۲۵ھ میں جنگ اُحد لڑی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ ﷺ ابن عبدالمطلب شہید ہوئے، وہ اسلام کیلئے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ اس لئے ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح غذا فراہم کرتا ہے جس طرح تمہیں کرتا ہے۔“

جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت امیر حمزہ ﷺ کی لاش دیکھی جو بری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کر دی گئی تھی، تو نہایت آزرده ہو کر فرمایا کہ: اب اس سے زیادہ دلی اذیت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوگی۔

ابن اسحاق کے بیان کے مطابق جب رسول ﷺ بنی عبدالاشہل کے مکان کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں سے عورتوں کے رونے پینے اور بین کرنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ جو جنگ اُحد میں شہید ہونے والے اپنے مردوں کا ماتم کر رہی تھیں۔ رسول ﷺ پر رقت طاری ہو گئی اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔

حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید خیر واپس بنی عبدالاشہل کے گھر گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ حضرت حمزہ ﷺ کا ماتم کریں۔ لیکن جب رسول ﷺ نے ان کی چیخ و پکار اور بین سنی تو انہیں مزید رونے دھونے سے منع فرمایا اور بعد میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ مردوں کیلئے سوگ مناتے وقت بلند آواز سے ماتم نہ کریں۔

عبادۃ بن صامت کے بیان کے مطابق جب رسول ﷺ جنگ اُحد کے شہداء کی قبروں کی زیارت کرتے تھے تو فرماتے تھے: سلام تم پر، جنہوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، جس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا۔

## سید الشہداء ﷺ کی قبر


رسول ﷺ نے اپنے چچا حضرت حمزہ ﷺ کو وادی قنادر کے کنارے جبل الرماۃ کے شمال مغرب اور جبل اُحد کے جنوب میں ایک ٹیلے پر دفن فرمایا اور ان کے بھانجے عبداللہ ابن جحش ﷺ ان کے ساتھ دفن ہوئے۔

سعودی گورنمنٹ نے قبروں کے چاروں طرف جنگلا بنوایا اور اس پہاڑی راستے پر زائرین کے قبر تک پہنچنے کیلئے سیڑھیاں بنوائیں۔ دیوار میں جنوب کی سمت لوہے کا دروازہ لگوایا۔ وادی قنادر کو وادی سید الشہداء اور وادی سیدنا حمزہ ﷺ بھی کہا جاتا ہے۔

## قبر شہدائے جنگ اُحد


مورخین جنگ اُحد کے شہداء کی تعداد ۷۰ بتاتے ہیں۔ جن میں ۶۳ انصار اور ۶ مہاجرین تھے۔ ان میں زیادہ تر حضرت حمزہ ﷺ کی قبر کے شمالی حصہ میں دفن ہیں۔ ان کی قبروں کے چاروں طرف بھی جنگلا لگا ہوا ہے۔

دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے زائرین مدینہ منورہ میں حضرت حمزہ ﷺ اور دوسرے شہداء کی قبروں کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ جو اس فیصلہ کن جنگ کی یاد تازہ کرتی ہیں اور جو مسلمانوں کو اپنے رہنما کی حکم عدولی نہ کرنے کا سبق دیتی ہیں۔




غزوہ اُحد کے قریب حضرت امیر حمزہ ؓ، حضرت مصعب بن عمیر ؓ کی قبریں


رسول اکرم ؐ جب اُحد تشریف لے گئے تو شیخین کے پاس پڑاؤ فرمایا اور وہاں صبح تک رہے وہاں ام سلمہ ؓ ایک بھنا ہوا بکری کا بازو لیکر آئیں جسے آپ ؐ نے تناول فرمایا پھر انہوں نے کھجوروں کا پانی (نبیذ) پیش کیا۔ جو آپ نے نوش فرمایا اور پھر ایک اور شخص نے لیکر پیا پھر عبد اللہ بن جحش ؓ نے بغیر سانس لئے پیا ایک شخص نے کہا سنبھل کر پی، پتہ ہے



کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ سے سیر حالت میں ملنا مجھے پسند ہے نہ کہ پیاسے۔ اے اللہ میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں اور یہ کہ میرے ناک کان کاٹ دیئے جائیں۔ پھر تو فرمائے کہ تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو میں کہوں: تیرے اور تیرے رسول ؐ کیلئے۔ حضرت عبد اللہ بن جحش ؓ جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔



أحد کے دامن میں شہداءِ اُحد کی آرام گاہیں اس احاطے میں بھی ہیں۔ چھوٹی تصویر مشہور مجاہد سماہنی حضرت عمرو بن جوح رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی ہے جنہوں نے معذوری کی حالت میں جہاد میں شرکت کر کے رہتی دنیا تک کے لیے قابلِ عقیدہ مثال قائم کی۔



جبل اُحد اور شہدائے اُحد کا مدفن




غزوہ اُحد کا وہ مبارک غار جس میں زخمی ہونے کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ نے آرام فرمایا تھا






غزوہ اُحد میں تیراندازوں کا ٹیلہ




جبل الرمادة

جنگ اُحد میں آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ ﷺ بن جبیر کی سرکردگی میں پچاس تیراندازوں کی ایک جماعت کو اس پہاڑ پر مامور فرمایا



مرقد عمرو بن جموح

حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا مرقد مبارک۔ اونٹنی کے مدینہ منورہ کی طرف واپس نہ جانے کے سبب آپ کو اُحد سے کچھ دور دفن کیا گیا۔ آپ نے معذوری کی حالت میں مردانہ وار معرکہ کارزار میں شریک ہو کر دادِ شجاعت دی اور مسلمانوں کیلئے شہادت کے شوق اور پروردگار سے ملاقات کے اشتیاق کی قابلِ تقلید مثال قائم کی۔



جبل حمر اہل الاسد


غزوہ اُحد کے بعد آپ ﷺ نے اس جگہ 3 دن لشکر کے ساتھ آرام فرمایا تھا

# غزوة خندق

(ذی قعدہ سنہ ۵ ہجری بمطابق مارچ سنہ ۶۲۷ عیسوی)

غزوة خندق کو غزوة احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس غزوة میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر خندق کھودی گئی تھی۔ غزوة خندق کی اصل وجہ قبیلہ بنو نضیر سے لگانے والے یہودی تھے۔ مدینہ سے لگانے جانے پر انہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کر لی تھی، چنانچہ اپنی ذلت کا انتقام لینے کیلئے انہیں قریش کے متعدد قبائل کو لایا گیا دیکرا اپنے ساتھ ملا کر 24 ہزار جنگجوؤں کا لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملہ کیلئے تیار یاں شروع کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے حملہ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا جنگی حکمت عملی کی جائے؟ تو مختلف صحابہ نے الگ الگ مشورہ دیے مگر حضرت سلمان فارسی نے سب سے منفرد اور انوکھا مشورہ دیا کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں صحابہ کے ساتھ مل کر 3 1/2 میل کی لمبائی میں خندق کھودی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار کیلئے چھلانگ لگانا ناممکن ہو گیا تھا اور گہرائی اتنی تھی کہ پانی نکل آیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کے پاس صرف 3 ہزار کا لشکر اور 26 گھوڑے تھے جب کہ کفار کے پاس 24 ہزار کا لشکر اور ہزاروں گھوڑے تھے۔

جب کفار مدینہ منورہ کے پاس اپنا لشکر لے کر پہنچے، کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ تمام غزوات میں ناکامی کا ضرور بدلہ لیں گے مگر جب کفار نے مدینہ کے اطراف 3 میل گہرے گہرے گڑھے دیکھے تو حیران اور ناکام ہو گئے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا "مسلمان صاف مسلمان تو مجھ سے ہے، مسلمان اہل بیت میں سے ہے۔"



خندق کی کھدائی کے موقع صحابہ 3 دن کے فاقہ سے تھے ایک چنان باوجود کوشش کے ٹوٹی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کدال کی ضرب چنان پر ماری تو ایک نور نکلا ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کی چابیاں مل گئی پھر دوسری ضرب پر فرمایا کہ مجھے ایران کی چابیاں عطا کی گئیں تیسری ضرب پر فرمایا مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں۔ یہ بشارت سن کر صحابہ کے چہرہ خوشی سے چمک اٹھے۔ دوسری طرف سرداران خیبر اور بنو قریظہ کے یہودی خندق کے باہر محاصرہ کئے گھڑے تھے اور صحابہ دن رات اللہ کے سامنے آواز اڑا رہے تھے۔

دعاؤں کے سننے والے نے ایک رات سخت سردی کی لہر میں طوفان باد و باران کو بھیج دیا۔ جھکڑ چلے، خیمے اکھڑ گئے، اونٹ اور گھوڑے رسیاں تڑا کر بھاگ گئے۔ رسد کا سامان بھیگ کر تباہ ہو گیا۔ ایسے میں مجاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان کو دشمن کے کیمپ کی خبر لانے کو بھیجا۔ وہ پہنچے تو پہ سالار ابوسفیان سخت پریشانی کے عالم میں اعلان کر رہا تھا اب پڑاؤ اٹھاؤ اور کوچ کرو۔ یہ سن کر قاصد رسول لوٹا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ بھود معروف دعا تھے۔ سرائیا یا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ماجرا سنایا۔ ارشاد ہوا "اب قریش تم پر کبھی حملہ نہ کر سکیں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔"

ایک ماہ کے محاصرے میں کل ۶ مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کے ۸ آدمی قتل ہوئے جن میں ان کے نامی گرامی پہلوان بھی شامل تھے۔ یوں غزوة خندق اسلام کی مکمل بالادستی اور فتح کا اولین نشان بنا۔

خندق کی ابتداء مسجد مستراح سے ہوئی تھی جو بنو حارثہ کا علاقہ تھا۔ یہ خندق ذباب پہاڑی کے پاس سے ہوتے ہوئے سلع پہاڑ تک چلی جاتی تھی جہاں آج کل مسجد فتح واقع ہے۔ آپ ﷺ کا خیمہ ذباب پہاڑی پر تھا جہاں سے آپ ﷺ خندق کی کھدائی کی نگرانی فرماتے تھے۔ ذباب پہاڑی کے شمال میں ایک چٹان توڑنے کا معجزہ واقع ہوا۔ جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی کے دوران اس چٹان کو توڑنے سے عاجز آگئے تو نبی اکرم ﷺ نے اس پر ایسی ضرب لگائی کہ اس سے نکلنے والی روشنی سے مدینہ کے دونوں طرف روشن ہو گئے اور آپ ﷺ کو دلائل، کسری، روم و حنفاء کے محلات دکھائی دیئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آکر بتلایا کہ ان پر آپ ﷺ کی امت غالب آجائے گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان آگئی تو لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک چٹان نے کھدائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں آ رہا ہوں۔ آپ ﷺ اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے ہم لوگ ان دنوں تین دن کے فاقہ سے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے گینتی اٹھائی اور چٹان پر ضرب لگائی جس سے وہ ریت کا ڈھیر بن گئی۔

میں نبی اکرم ﷺ سے اجازت لے کر گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی جو کیفیت دیکھی ہے میرے لئے ناقابل برداشت ہے، تمہارے پاس کھانے کیلئے کچھ ہے؟ تو اس نے کہاں جو ہیں اور بکری کا بچہ ہے جسے میں نے ذبح کر دیا اور گوشت ہنڈیا میں ڈال دیا اور جو پیش دیئے۔ جب میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آٹا گوندھا جا چکا تھا اور ہنڈیا چولہے پر تھی جو پکنے والی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے آپ ﷺ اپنے ایک دو صحابہ کے ہمراہ تشریف لے چلے۔ فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے بتلا دیا۔ فرمایا بہت کافی اور خوب ہے، جاؤ بیوی کو کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں نہ ہنڈیا اتارے نہ ہی تنور میں روٹیاں لگائے اور تمام صحابہ کرام سے فرمایا: اٹھو سب مہاجر و انصار چل دیئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب بیوی کے پاس پہنچے تو کہا: افسوس نبی اکرم ﷺ تو سب مہاجر و انصار کے ساتھ تشریف لارہے ہیں۔ بیوی نے کہا: آپ ﷺ نے تم سے (کھانے کی مقدار) کا پوچھا تھا؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو بیوی نے کہا پھر تم کو کیا فکر؟ ادھر آپ ﷺ بھی آ پہنچے، ارشاد ہوا آ جاؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ اب آپ ﷺ نے روٹیاں نکال کر ان پر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت کھانا شروع کر دیتی تو آپ ﷺ ہنڈیا اور تنور کو ڈھک دیتے۔ پھر کھولتے اور روٹی و گوشت تقسیم فرماتے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا۔ پھر فرمایا: خود بھی کھاؤ اور ہمسایوں کو تحفہ بھی دو، اس لئے کہ لوگ فاقہ زدہ ہیں۔


## غزوہ خندق میں موجود جبل زباب نامی پہاڑ




(بیانہ کے مطابق نہیں)

# نقشہ جنگ خندق (۵ھ) غزوة احزاب

اشارات	
	تل و باطن (دعا کا)
	چوڑا و تنگی زمین
	تل و باطن
	تل و باطن
	تل و باطن
	تل و باطن
	تل و باطن
	تل و باطن
	تل و باطن
	تل و باطن







## خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے صحابی رسول سلمان فارسیؓ کا مقبرہ

چنان توڑنے کا معجزہ: حضرت براءؓ کا بیان ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے بھی خندق کھودی۔ میں نے آپ ﷺ کو خندق سے مٹی نکل کرتے ہوئے دیکھا، مٹی سے آپ ﷺ کے پیر کی جلد چھپ گئی تھی۔ حضرت عمرو بن لوفؓ کہتے ہیں کہ میرے (حضرت براءؓ)، سلمانؓ اور حذیفہؓ اور نعمانؓ بن مقرنؓ اور حذیفہؓ بن اسدؓ یعنی ہم کل دس افراد کی جماعت کو چالیس ہاتھ (یعنی بیس میٹر) کھدائی حصہ میں آئی۔ ہم خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ سفید پتھر کی ایک چٹان کھدائی میں رکاوٹ بن گئی جس نے ہمارے لوہے توڑ دیے اور ہمارے لئے مشکل بن گئی۔ ہم نے کہا سلمانؓ تم رسول اکرم ﷺ کے پاس جاؤ اور آپ ﷺ کو اس چٹان کی اطلاع دو کہ یا تو ہم اس سے دوسری طرف ہو جائیں، اور خندق کی جگہ بدل لیں یا جو بھی حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ ہم مناسب ٹھیک سمجھتے کہ اپنے طور پر آپ ﷺ کی نشاندہی سے ادھر ادھر ہوں۔

حضرت سلمان فارسیؓ ذاب پہاڑی کے اوپر گئے جہاں آپ ﷺ خیمہ میں تشریف رکھتے تھے، حضرت سلمانؓ نے ماجرا عرض کیا تو آپ ﷺ ان کے ساتھ ہی خندق میں اتر آئے اور گینتی اٹھا کر ایسی ماری کہ چٹان میں دراڑیں پڑ گئیں اور ایسی چمک و روشنی نکلی کہ مدینہ کے دو طرف چمکیلے میدان روشن ہو گئے۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہر اندھیرے مکان میں چراغ جل اٹھا ہو۔ آپ ﷺ نے باواز بلند اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ضرب لگائی پھر تیسری ضرب سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور ہر دفعہ ایک چمکدار روشنی نمودار ہوئی۔

رواقی ہی اور ہے جبل ابوقیس کی

آئینہ دار جلوہ رحمت ہے آجکل

اشکن سے مراد کہ کے دو پہاڑ ہیں ان میں سے ایک یہی جبل ابوقیس ہے۔ اور دوسرا جبل قلعہ ان ہے۔


میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم

یا جبال الحرم یا جبال الحرم

پھر حضرت سلمان ؓ کا ہاتھ پکڑ کر آپ ﷺ اُوپر چڑھ آئے تو سلمان ؓ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان، آج میں نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا آپ ﷺ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا دیکھتے ہو سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو جیسے تم نے دیکھا چمک پیدا ہوئی جس سے میرے لئے حیرہ (۱) اور مدائن میں کسریٰ (۲) کے محلات واضح ہو گئے جیسے کتے کے دانت نظر آجاتے ہیں اور جبریلؑ نے مجھے بتلایا کہ میری امت کا یہاں بھی غلبہ ہو جائے گا تیسری ضرب سے چمک دیکھی اس میں مجھے صنعاء (۳) کے محلات کتے کے دانتوں کی طرح واضح نظر آئے۔ جبریلؑ نے مجھے خبر دی کہ میری امت اس پر غلبہ پالے گی۔ خوشخبری لو۔ مسلمان خوش ہو گئے اور کہنے لگے: الحمد للہ سچا وعدہ، ہم سے محصوری کے بعد مدد کا وعدہ۔



ذباب پہاڑی کا ایک اور منظر



جبل سلع کا منظر



- ✦ (۱) غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں یہ ۵ھ میں ہوا اس کو خندق اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ایک نئی جنگی ترکیب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر کی گئی یعنی جگہ جگہ خندقیں کھودی گئیں۔ (۲) اس میں صحابہ 3 ہزار تھے اور کفار 10 ہزار سے زائد تھے۔ (۳) اس غزوہ میں مدینہ کا ۱۵ دن تک محاصرہ کرنے کے بعد کفار ناکام لوٹے۔




یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر نماز پڑھی تھی اور دعا فرمائی اور یہیں آپ ﷺ کو فتح کی بشارت دی گئی تھی آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش تمہارے مقابلہ میں کبھی نہیں آئیں گے۔

## سَلْع پھاڑی




سات مسجدیں: جبل سلع کے دامن میں جہاں غزوہ خندق کے دوران لشکر اسلام کے چند مشہور مورچے تھے، وہاں یادگار کے طور پر ساتھ ساتھ مسجد تعمیر کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں یہ مسجدیں دکھائی گئی ہیں۔ جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی جہادی محنتوں کی یاد تازہ کرتی ہیں، پہلی تصویر ذرا قدیم ہے اور دوسری تازہ ترین۔ ان سات مساجد میں سے پہلی ”مسجد فتح“ کہلاتی ہے، یہ اس ٹیلے پر تعمیر کی گئی جہاں رسول اللہ ﷺ تین دن تک متواتر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ بقیہ مساجد چند مشہور صحابہ کے مورچوں کے مقام پر تعمیر کی گئی ہیں جہاں ان کی اقتدا میں نماز پڑھی جاتی تھی اور دفاع اسلام کا مقدس فریضہ سرانجام دیا جاتا تھا۔ ان کے اسماء گرامی بالترتیب یہ ہیں، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، ایک مسجد، مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے ہے۔ ان مساجد کے محل وقوع سے ان جلیل القدر صحابہ کی امارت میں قائم کئے گئے مورچوں کی ترتیب خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔

غزوہٴ خندق کی وہ جگہ جہاں صحابہ کا فوجی بیڑا کو اڑتا تھا





کوہ تیاب احد کے مشرق میں وادی نغمہ کے قریب واقع ہے



مقام غزوہ بنو قریظہ

## غزوة خندق کے وہ 5 مقامات جہاں حضور ﷺ نے نمازیں پڑھیں

**مساجد فضیلت** (۱) مسجد فتح (۲) مسجد ابو بکر صدیق (۳) مسجد علی المرتضیٰ (۴) مسجد سلمان فارسی (۵) مسجد نبی حرام۔ ان مساجد فضیلت میں خود حضور اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام نے غزوة خندق کے موقع پر نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ مساجد مدینہ منورہ سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر جانب مغرب واقع ہیں۔ ان میں سب سے افضل مسجد فتح ہے، اسے مسجد احزاب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر حضور اکرم ﷺ کا قیام تھا۔ آپ ﷺ نے اسی مقام پر نمازیں پڑھیں اور متواتر 3 دن تک دعائیں فرمائی ہیں اور اسی مقام پر اجابت دعا اور فتح کی بشارت پائی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اس کے بعد قریش تمہارے مقابلہ میں کبھی نہ آئیں گے۔ اسی واسطے اس کا نام مسجد فتح ہے۔

اور دوسری مساجد جن صحابہ کرام کے اسمائے مبارکہ کے ساتھ منسوب ہیں وہ اس لئے کہ اس روز یہ صحابہ کرام ان مقامات پر متعین تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز (رضی اللہ عنہ) نے ان مقامات پر مساجد تعمیر کروادیں۔ حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ مجھ کو جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو میں اسی وقت مسجد فتح میں جا کر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں حضور سید عالم ﷺ مسجد الفتح میں تشریف لے گئے اور اونچے ہاتھ کر کے رقت کے ساتھ اتنی لمبی فرمائی کہ کندھے مبارک سے چادر سرک گئی۔ منجی ہارون بن بکیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں حسین بن عبداللہ کے ساتھ مسجد الفتح میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں حضور اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی۔

**مسجد فتح میں کی گئی نبوی دعائیں:** جنگ احزاب زوروں پر تھی، چراغ مصطفوی ﷺ کو بجھانے کیلئے تمام ابولہی قوتوں نے بلہ بول دیا تھا۔ بھوکے پیاسے خندق کھودنے کے بعد مہینوں سے مجاہدین اسلام کا محاصرہ جاری تھا۔ حلقہ بگوشان اسلام کے صبر و استقلال اور جرأت ایمان پر شبہ تو نہ تھا، اس رات رحمت اللعالمین ﷺ مسجد صلح میں تشریف لائے اور صلوة خوف کے بعد دعا مانگی۔

”اللهم لك الحمد هديتي من الضلالة“

اے اللہ! تمام تعریفوں کا صرف تویی مستحق ہے۔ تو نے مجھے زندگی کے تمام اندھیروں میں روشنی بخشی۔

یہ دعا اتنی بار رسول اللہ ﷺ نے ذہرائی کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے انتظار میں پریشان ہو گئے اور حذیفہ (رضی اللہ عنہ) تلاش میں تشریف لائے تو دیکھا دین قیم کے قائد، خلافت الہیہ کے مبلغ و موسس، محمد ﷺ دونوں ہاتھ اٹھائے بھرائی ہوئی آواز میں بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں۔ (سمو دی امام قرطبی کے حوالے سے یہ دعا بھی نقل کرتے ہیں)

”يا صريخ المكروبين و يا مجيب المضطرين و يا كاشف همي غمي و كوربي قدرتي حالي و حال اصحابي.“

ترجمہ: اے بے قراروں کی فریاد سننے والے، اے تڑپتے دلوں کی فریاد قبول کرنے والے، اے میرے دکھ، میرے غم اور میرے درد کرب کو دور فرمانے والے تو میری حالت اور میرے صحابیوں کا حال دیکھ رہا ہے۔“

اپنے محبوب کی زبان سے یہ فریاد سنتے ہی رب ذوالرحمۃ کی رحمت جوش میں آئی اور فوراً جبرائیل امین کو بھیجا.... جبرائیل امین نے کہا: "ان اللہ سمع دعوتک و کفاک هول عدوک." (اللہ نے آپ ﷺ کی دعائی اور آپ ﷺ کے دشمنوں سے خود نپٹنے کا فیصلہ صادر فرمایا۔) یہ خوشخبری سنتے ہی آپ نے چشم مبارک سے آنسو پونچھے.... چہرہ مبارک پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سجدہ شکر ادا فرمایا اور صحابہ کرام کو مژدہ فتح سنایا۔

اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک قیامت خیز آندھی نے دشمنان دین قیم کے خیمے اکھاڑ کر پھینکنے شروع کر دیئے۔ سب پر بدحواسی چھا گئی۔ قہر الہی نے ان کی ہمتوں کو اپنے جلال سے روند ڈالا اور سرورِ دو عالم ﷺ کو فتح اور کامرانی نصیب ہوئی۔ چنانچہ مسجد فتح میں آج بھی جو شخص اپنی پریشانیوں اور درد و کرب کو دور کرنے کیلئے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔

**مسجد فتح کی تعمیر** مسجد سب سے پہلے اینٹوں، پتھروں، لکڑی کے لٹھوں اور کھجور کی شاخوں و پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اموی عہد حکومت میں ۹۳ھ (۷۱۳ء) میں عمر بن عبدالعزیز، امیر مدینہ منورہ نے اس مسجد کی اصلاح و تجدید کرائی۔ پھر سلطان مصر الحسین بن ابی الہیجاء نے ۵۷۵ھ (۱۱۸۲ء) میں اسے از سر نو تعمیر کرایا۔ سعودی حکومت نے مسجد کے قیام کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ایک پختہ زینہ بھی اس کے اندر تعمیر کرایا۔

**مسجد فتح میں مصلیٰ النبی ﷺ** کئی مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مسجد فتح میں رسول اللہ ﷺ کا مصلیٰ شریف اور مقام دعا ٹھیک اسی جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسجد کے کھلے ہوئے حصے میں وسطی ستون کے نزدیک ہے۔ یہ موجودہ محراب کے بالمقابل ہے۔




خندق میں موجود مسجد فتح تعمیر کے بعد




مسجد فتح کی قدیم تصویر... وہ جگہ جہاں حضور ﷺ نے خندق کے موقع پر نماز پڑھی بعد میں یہاں مسجد بنا دی گئی

## خندق کی جگہ بنی ۵ مساجد کا نقشہ



خندق کی وہ جگہ جہاں حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی بعد میں یہاں مسجد بنا دی گئی

**مسجد سلمان فارسی** مسجد فتح کے قریب جنوب کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد ہے جسے حضرت سلمان فارسی ؓ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا طول و عرض ۲۱x۲۵ فٹ ہے۔ حجاج وزائرین اس مسجد میں بھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں ایک روایت منقول ہے کہ سلمان فارسی ؓ نے نبی کریم ﷺ کو اس جگہ جنگ احزاب میں بھی نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ روایت ہے کہ سلمان فارسی ؓ نے نبی کریم ﷺ کو اس جگہ جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ جو جنگی اعتبار سے اہم اور مفید تھا۔



یہ مسجد اس جگہ واقع ہے جہاں غزوہ خندق کے دوران نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی اور بعد میں پہاڑ پر چڑھ کر فتح کیلئے دعا بھی فرمائی تھی عمر بن عبدالعزیز ؓ نے اس جگہ مسجد تعمیر فرمائی اور اس کا نام مسجد سلمان فارسی رکھا کیونکہ غزوہ خندق کی منصوبہ بندی سلمان فارسی ؓ کی تھی




غزوہ خندق میں موجود اس جگہ حضور ﷺ نے غزوہ کے دوران نماز پڑھی تھی



## غزوہ خندق میں موجود 6 مساجد

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَعَلَى الْاِسْرَافِ وَتَحَدُّوا لَعْنَةُ  
بَنِي إِسْرَائِيلَ




دائروں میں آپ ایسی 5 مساجد دیکھ رہے ہیں جو قیامت تک جناب نبی کریم ﷺ اور آپ کے جانشین صحابہؓ کے جدوجہد کی یاد دلاتی رہیں گی۔ مدینہ منورہ میں سلع پہاڑ کے دامن میں غزوہ خندق کی یادگار چھ مساجد جہاں حضور ﷺ اور کبار صحابہؓ کے خیمے تھے



مسجد علی (نئی تعمیر سے پہلے)

## جبل سلع اور مسجد بنی حرام




مسجد بنی حرام جبل سلع کی گھاٹی میں دائیں جانب واقع ہے۔ جو مسجد فتح کے راستے میں ہے۔ حضور ﷺ یہاں تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ اسی گھاٹی کے قریب وہ غار ہے جس میں حضور ﷺ نے غزوة خندق کے دنوں میں رات کو قیام فرمایا اس غار کے اندر وحی بھی نازل ہوئی لہذا مسجد کے ساتھ ساتھ اس غار کی زیارت بھی باعث شرف و سعادت ہے ویسے بھی حیات نبوی ﷺ میں غاروں کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اکثر انبیاء و رسل نے یکسوئی قلب کیلئے پہاڑوں اور غاروں کا رخ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو جبل رحمت پر ان کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام ”عرفہ“ یعنی پہچان کی جگہ ہے۔

**مسجد الذباب** جبل سلع یا جبل خندق کے شمال میں اس سے متصل ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر ایک مسجد ہے جسے مسجد ذباب یا ذوباب کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ یہ مسجد اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں غزوة احزاب کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھی تھی اور اپنا خیمہ بھی نصب کیا تھا۔ اس مسجد کو مسجد الرایہ بھی کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ اس مسجد کی تعمیر عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ سیاہی مائل پہاڑ کے فراز پر پتھروں کی ایک سادہ سی چار دیواری ہے، دیواریں کہیں کم اونچی اور کہیں زیادہ اونچی ہیں، اندر داخل ہونے کیلئے دو چھوٹے راستے چھوڑے گئے، لیکن یہاں گیٹ یا پھاٹک نہیں ہے، اس کے احاطے میں مسجد ذوباب ہے، جس کی چھت اونچی ہے۔

جب خندق کے ساتھ ساتھ دفاعی چوکیاں بنا دی گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے فوراً اپنا مکان چھوڑ کر جبل سلع کے شمالی دامن کے بیچ والے ٹیلے پر اپنا خیمہ لگایا۔ حضور ﷺ یہیں جنگی مصروفیات میں دن بسر کرتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے طلبگار ہوتے۔ یہ خیمہ گویا کمانڈر انچیف کا آفس تھا جہاں سے ہر لحظہ ہدایات جاری ہوتی تھیں۔ اس یاد کو اس سادہ سی مسجد نے محفوظ رکھا ہے اور تاریخی رابطہ قائم رکھا ہوا ہے۔


شیخ سمہودی فرماتے ہیں حضور ﷺ نے غزوة خندق کے موقع پر یہاں خیمہ بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی بلندی چھ میٹر طول عرض ۴۰ میٹر ہے۔ جانبک البروزی نے ۸۴۵ء میں اس کی تعمیر کی تجدیدی کی۔ اس مسجد کی بنیاد عمر بن عبدالعزیز نے رکھی۔ حارث بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ یمن میں مروان بن حکم کا ایک عامل تھا، مروان نے اس کو جبل ذباب پر وار چڑھایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعہ کے بعد کہلا بھیجا تجھ پر افسوس ہے جس مقام پر حضور نے نماز ادا فرمائی تم نے اسی مقدس مقام پر اسے وار پر کھینچا۔ اس کے بعد کئی امراء مدینہ منورہ نے یہ عمل جاری رکھا۔ آخر زعماء مدینہ منورہ کے روکنے سے رک گئے۔



”سلسلہ“ نامی وہ پہاڑ جس کے دامن میں خندق کھودی گئی اور دائیں طرف اس پہاڑ کی چوٹیوں پر قائم مورچے نظر آ رہے ہیں جبکہ بائیں طرف ”غار سجدہ“ دکھایا گیا ہے۔ روایات کے مطابق یہاں حضور ﷺ کو جبریل امین نے رب العالمین کی طرف سے یہ بشارت دی کہ آپ ﷺ کو آپ کی امت کے بارے میں نامراد نہ کروں گا۔ اس پر حضور ﷺ نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔

# غزوة بنی قریظہ

۲۳ ذی الحجہ کو حضور ﷺ نے خندق سے فراغت کے بعد مدینہ آئے ہی تھے کہ حکم الہی پر بنی قریظہ کے محاصرہ کیلئے چل پڑے بنی قریظہ لشکر کی آمد پر قلعہ میں بند ہو گئے بالآخر قریظہ نے ہتھیار ڈال دیئے اس جنگ میں 800 کافروں کی گردنیں اڑائی گئیں۔



## غزوة بنی قریظہ

ذی قعدہ ۵ ہجری

”اور اتار دیا ان کو جو ان کے (اتحادی افواج کے) پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے ان کے قلعوں سے اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک۔ کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک زمین کہ جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

(الاحزاب : ۲۶-۲۷)

خندق کے موقع پر حضور ﷺ کی دعا کی برکت سے اللہ کی طرف سے ایسی سخت آندھی آئی کہ ان کے ڈیرے نیسے سب اکٹڑ گئے، ادھر بنو قریظ جنہوں نے حضور ﷺ کا ساتھ چھوڑ کر بنو نضیر کا ساتھ دیا تھا جب قریظ والوں نے بنو نضیر کی شکست کو دیکھا تو ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے، ادھر بنو غطفان الگ کھڑے ہو گئے، اب قریش بچارے اکیلے کیا کرتے۔ لاچار وہ بھی محاصرہ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور میدان اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ بنو قریظ نے مسلمانوں سے ایسے نازک وقت میں جو بد عہدی کی تھی اُس کی سزا ان کو ملنا چاہئے تھی، چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا خندق سے واپس آ کر محاصرہ کیا۔ بنو قریظ قلعہ میں نظر بند ہو گئے اور ذیل میں بنو قریظ کے وہ قلعے نظر آ رہے ہیں جنہیں صحابہ نے 1400 سال پہلے گھیر رکھا تھا۔

خندق کے چھوٹی قلعہ



مرجب نامی یہودی کا قلعہ

مسجد فصیح (جہاں حضور اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی)



جب حضور اکرم ﷺ نے یہودی قبیلہ بنو نضیر کا ان کی غداری کی وجہ سے محاصرہ کیا تو آپ ﷺ نے اس جگہ نماز ادا فرمائی تھی شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی مسجد میں نازل ہوا۔ حکم آنے کی دیر تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی




مسجد فصیح کی قدیم تصویر



غزوہ بنو قریظہ میں جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عہد شکن یہودیوں کا محاصرہ کیا تو "انا" نامی کنوئیں کے پاس نزول فرمایا۔ بعد میں اس مقام پر یہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ پہلی تصویر میں مسجد کا بیرونی اور دوسری تصویر میں اندرونی منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کو مسجد بنو قریظہ یا مسجد فصیح کہتے ہیں۔ آج کل یہودی حرمین شریفین پر نظریں جمائے ہوئے ہیں لیکن انشاء اللہ یہ مسجد تاقیامت مسلمانوں کی فتح اور یہودیوں کی ذلت و رسوائی کے طور پر قائم رہے گی اور زبان حال سے مسلمانوں کو بتاتی رہے گی کہ یہود کے مکرو فریب کا ایک ہی علاج ہے۔ وہی علاج جو تمکواری دھارا اور منجھری لوک کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام تدبیریں رائیگاں اور تمام طریقے غیر مفید ہیں۔

غزوہ بنو قریظہ کے مقام پر موجود مسجد بنو قریظہ



اس جگہ آپ ﷺ کا خضری قبیلہ کی عورت کے گھر نماز پڑھنا ثابت ہے

## صلح حدیبیہ ذیقعدہ ۶ھ

سیرت نبوی ﷺ کا درختاں واقعہ جس میں جناب رسول ﷺ کے ہاتھ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے موت کی بیعت کی

مسلمانوں کی بڑی تمنا تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں اور اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے ذی قعدہ ۶ھ میں عمرہ کا ارادہ فرمایا اور ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ ﷺ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو ایک مخبر کو حالات دریافت کرنے کیلئے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ اس نے آ کر خبر دی کہ قریش ایک بڑی جماعت کو لے کر مسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آرہے ہیں۔ حضور ﷺ یہ خبر سن کر حدیبیہ میں اتر پڑے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ مکہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کا ہے مگر کفار کسی طرح نہ مانے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا۔

مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے، بس پھر کیا تھا ایک تہلکہ مچ گیا۔ تمام مسلمان جوش و خروش میں آ گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عثمان (رضی اللہ عنہ) کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ پھر ایک بول کے درخت کے نیچے تمام صحابہ سے جاں نثاری کی بیعت لی، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کی بیعت۔



صلح حدیبیہ ذیقعدہ ۶ھ  
سیرت نبوی کا درختاں واقعہ جس  
میں جناب رسول ﷺ کے ہاتھ پر  
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے موت  
پر بیعت کی قدیم مسجد حدیبیہ کے  
مقام پر ۱۲۵۵ء میں بنی تھی۔




اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس پر خوشی ظاہر فرمائی ہے۔ فرماتا ہے:


لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (فتح)

ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا، جنہوں نے درخت کے نیچے تم سے بیعت کی۔

یہ سب ہو چکنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن مسلمانوں کے اس جوش اور فویظ و غضب کا قریش پر بہت اثر ہوا، وہ گھبرا گئے، پھر انہوں نے اپنا ایک قاصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ اس قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی چند شرطیں پیش کیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر صلح کر لی، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ اس معاہدہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ طیبہ واپس آئے۔



حدیبیہ کا قدیم کنواں جس کے نام پر اس جگہ کا نام حدیبیہ پڑ گیا۔ اسی کے قریب لشکر اسلام نے پڑاؤ کیا اور یہاں فوائد و لطائف پر مشتمل ایسے واقعات پیش آئے جن سے عامۃ المسلمین کو عموماً اور مجاہدین کو خصوصاً عہد کی پابندی، امیر کی کامل اطاعت اور آخر سانس تک میدان میں ڈٹے رہنے جیسے قیمتی سبق ملتے ہیں۔



مسجد شمیس جو صلح حدیبیہ کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی۔ اس صلح میں صحابہ کرامؓ نے حضور ﷺ کی بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور آپ کے فیصلے کے سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اسے دل و جان سے تسلیم کیا تھا، اس پر فتح مبین کی بشارت نازل ہوئی۔



مقام غزوہ حمراء الاسد


غزوہ حمراء الاسد میں اس پہاڑی کے دامن میں حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تین دن قیام فرمایا۔ آپ کی بروقت تیاری اور دشمن کا حوصلہ توڑ دینے والی پیش قدمی کا میاں رہی اور دشمن حملے کی ہمت کئے بغیر لوٹ گیا۔

# غزوة خیبر و فدک

7 ہجری

یہودی تمام آبادی سمٹ سمٹا کر خیبر میں جمع ہو گئی تھی، یہاں ان کے قلعے تھے، بڑی بڑی حویلیاں تھیں۔ مگردماغ میں تو لڑائی کا سوسہا یا تھا اور دل میں فساد کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لئے نہ چین سے بیٹھے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیا۔ یہاں بھی مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی کاروائیاں کیں۔ جس سے مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔


سے ۱۰ھ میں رسول ﷺ نے حملہ کا اعلان فرمایا اعلان ہوتے ہی 1400 چودہ سو، سوار پیادے جہاد کے شوق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔




خیبر پہنچ کر بڑا سخت معرکہ ہوا، بڑی زبردست لڑائی ہوئی، تقریباً بیس ہزار دشمن تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، یہودیوں کے تمام قلعے زبردست حملہ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی۔

اس جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری دکھائی، قلعہ انہیں کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اور بڑے بڑے بہادران کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ پندرہ مسلمان اس لڑائی میں کام آئے یعنی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور ﷺ وادی القریٰ کی طرف بڑھے، جس میں تیما اور فدک وغیرہ تھے، وہاں کے یہودیوں نے خیبر والوں کی شرط پر صلح کر لی۔ اس کے بعد یہودیوں کی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے نکاح میں آئیں۔

# خیبر میں موجود یہودیوں کے قلعوں کا نقشہ



**فتح خیبر، فدک اور وادی القرئی (محرم ۷ھ)**  
 ﴿ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾  
 لہذا اللہ تعالیٰ نے اس خواب (فتح مکہ) کے واقع ہونے سے پہلے تمہارے لیے ایک قریبی فتح (فتح خیبر) مقرر فرمادی۔ (الفتح: 27/48)





خیبر کے یہودیوں کے قلعے  
جن کا حضور ﷺ اور صحابہ نے محاصرہ کر کے یہودیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا



خیبر کا یہودی قلعہ




خیبر میں موجود یہودی قلعوں کا منظر



خیبر میں موجود عین الہامہ نامی چشمہ



غزوة خیر میں مسجد خیر



موجودہ خیر کا دروازہ (باب الداخلة) کا منظر

### خیبر میں کعب بن اشرف کا قلعہ

یہ قلعہ حرہ شرقیہ میں واقع تھا۔ اس کی لمبائی ۲۳-۲۳ میٹر تھی۔ اس کا مرکزی دروازہ غربی جانب واقع تھا۔ یہ قلعہ ۸ عظیم برجوں پر مشتمل تھا اور بڑے بڑے سیاہ پتھروں سے تعمیر تھا۔ بنو نضیر کی آبادی میں یہ قلعہ تھا۔

شیخ سمہودی فرماتے ہیں کہ میں نے اس قلعہ کے آثار اور وادی مذنیب میں بستیوں کے نشانات دیکھے ہیں۔ صاحب آثار المدینہ نے اس قلعہ کی تحقیقات کیلئے خاصی دلچسپی سے کام لیا ہے۔ موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ قلعہ نصاریٰ کا ہے۔ انہوں نے خود محسوس کر لیا کہ بدوی لوگ یہود و نصاریٰ کے درمیان کوئی امتیاز نہ رکھتے تھے۔ اس بنا پر یہ جواب دیا ہے تاہم ان بدوی لوگوں نے بتایا کہ یہ قلعہ غیر مسلموں کا تھا اور اس جگہ پر غیر مسلم یہود آباد تھے۔ ۳۲۸ھ میں صاحب آثار المدینہ اس قلعہ پر گئے۔ وہاں علی نامی زمیندار سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا یہ قلعہ ہماری ملکیت ہے۔ اس نے اس قلعہ میں تمام اہم مقامات سے آگاہ کیا اور ایک کنواں دکھایا جس سے قلعہ کے اندر رہنے والوں کے لئے آب رسانی کا نظام چلتا تھا۔ یہ قلعہ مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً اڑھائی گھنٹہ پیدل کی مسافت پر واقع ہے۔ راستہ یہ ہے۔ باب العوالی طریق قربان ام عشرہ حرہ۔

### کعب بن اشرف کون؟

مدینہ منورہ میں بسنے والے یہود کا سرکردہ تھا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے پر اسے سخت صدمہ پہنچا۔ شاعر تھا حضور سید عالم ﷺ کی بجو میں بہت اشعار لکھتا تھا۔ جگہ جگہ محفلیں جما کر یہ اشعار سناتا۔ بدر میں قتل ہونے والوں کی یاد میں خود کبھی روتا لوگوں کو بھی رلاتا تھا اور حضور سید عالم ﷺ کے خلاف اکساتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کو حرم کعبہ میں لایا۔ غلاف کعبہ تمام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے۔ (زردانی صفحہ ۹۱ ج ۲)

کعب بن اشرف کی خباثیوں پر کافی عرصہ تک صبر و تحمل سے کام لیا جاتا رہا۔ جب وہ کسی طرح بھی باز نہ آیا تو حضور ﷺ نے اس کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ (فتح الباری، ج ۲، ص ۲۵۹)

### کعب بن اشرف کی ناکام سازش

کعب بن اشرف حضور سید عالم ﷺ کے قتل کے منصوبے بنا تا رہتا تھا۔

ایک مرتبہ کسی بہانہ سے گھر بلایا اور کچھ آدمی مقرر کر دیئے جبکہ آپ تشریف لائیں تو یکبارگی حملہ کر کے شہید کر دیں۔ آپ ﷺ اس کی دعوت پر تشریف لے آئے۔ ابھی آکر بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نے کعب بن اشرف کی بدعتی اور ارادہ فساد و ظلم سے اطلاع عرض کی تو آپ فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے نیچے سے باہر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام سے فرمایا۔ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے عرض کی حضور یہ کام میرے سپرد فرمائیے۔ میں حاضر ہوں۔ اور ساتھ ہی میری درخواست بھی قبول فرمائیں کہ مجھے اس مہم کو سر کرنے میں ایسے کلمات کہنے کی اجازت فرمادیں جن کے کئی معانی ہوں کہ کعب بن اشرف ان کلمات کو سن کر خوش ہو جائے۔ درحقیقت وہ اس کیلئے موت کا پیغام ہوں۔ حضور نے ذومعنی کلمات استعمال کرنے کی اجازت دیدی۔

### مکالمہ محمد بن مسلمہ اور کعب بن اشرف کے درمیان

کعب بن اشرف کے قتل کے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے حضرت محمد بن مسلمہ ایک دن کعب بن اشرف کے ہاں تشریف لے گئے اور اس طرح گفتگو ہوئی۔

محمد بن مسلمہ: یہ شخص ہم سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔

کعب بن اشرف: ابھی کیا دیکھا ہے۔ ابھی دیکھو گے۔ تم اس سے اکتا جاؤ گے۔

محمد بن مسلمہ: اب تو ہم اس کے پیرو ہو چکے ہیں۔ چھوڑنا مشکل ہے۔ انجام کے منتظر ہیں۔ (اسلام کی مکمل فتح کے منتظر ہیں) تو ہمیں کچھ غلہ ادھار دے دے۔

کعب بن اشرف: مجھے کوئی انکار نہیں مگر کوئی چیز رہن رکھ دو۔

محمد بن مسلمہ: آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں۔

کعب بن اشرف: اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ غلہ ادائیگی پر چھڑو لینا۔

محمد بن مسلمہ: بہت مشکل ہے یہ تو ہماری غیرت کو چیلنج ہے۔

کعب بن اشرف: اپنے بچوں کو رہن رکھ دو۔

محمد بن مسلمہ: یہ بھی مشکل ہے۔ بچے بڑے ہو کر مطعون ہوا کریں گے۔ البتہ ہم

اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔

کعب بن اشرف: مجھے منظور ہے۔ جنگی ہتھیار رہن رکھ دو۔



## کعب بن اشرف کے جرائم

کعب بن اشرف کے وہ جرائم جن کی بنا پر اسے قتل کیا گیا یہ ہیں۔

- ۱۔ دین اسلام پر طعن و تشنیع کرنا۔
- ۲۔ دعوت کے بہانے سے حضور ﷺ کے قتل کی سازش کرنا۔
- ۳۔ عوام الناس کو اسلام اور حضور ﷺ کے خلاف اُکسانا۔
- ۴۔ ملت اسلامیہ سے فریب اور خلاف عہد کرنا۔
- ۵۔ حضور سید عالم ﷺ کی شان میں توہین بھرے اشعار کہنا۔
- ۶۔ حضور سید عالم ﷺ کو کالیاں دینا۔
- ۷۔ لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا۔

## کعب بن اشرف کا قتل


معاہدہ ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ رات کو آ کر قلعہ لے جائیں۔ پتا چھ محمد بن مسلمہ نے اپنے رفقاء کو ساتھ لیا اور کعب کے قلعہ پر پہنچ گئے۔ دھک دی کعب چپے آیا۔ کعب کو بھئی نے روکا۔ اس وقت قلعہ سے باہر نہ جائے۔ کعب نے نہ مانی۔ بھئی نے کہا آؤ لا میں خون کی بو محسوس ہوتی ہے۔ کعب نے کہا شریف آدمی کو کیا ڈر ہے۔ شریف آدمی کو اگر رات نیر و مارنے کیلئے بھی بلایا جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔

محمد بن مسلمہ نے ساتھیوں کو سمجھا دیا تھا جب کعب آئے گا تو میں اس کے سر کی خوشبو کی تعریف کروں گا اور سونگھوں گا۔ جب وہ سر کو قریب کرے گا کہ میں خوشبو لے لوں تو میں سر کے بال پکڑ لوں گا۔ تم نے ہلدی سے سرکات دینا ہوگا۔ کعب چپے اُترا۔ خوشبو سے معطر تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے خوشبو سونگھنے کی کہی۔ اس نے سر ہٹا دیا۔ محمد بن مسلمہ نے سر کے بال پکڑ لئے۔ ساتھیوں نے سرکات دیا۔ (کعب بن اشرف کا قتل، ص ۱۰۰، دارالکتاب، بیروت)



خیبر میں موجود یہودی قلعوں کا نظارہ

کعب بن اشرف یہودی سردار تھا آپ ﷺ سے سخت نفرت کرتا تھا حتیٰ کے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا انہی وجوہات کی بناء پر آپ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ چنانچہ محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور کعب کے قتل کیلئے روانہ ہو گئے موقع ملنے پر محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب کو قتل کیا جس پر آپ ﷺ بہت خوش ہوئے




کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کا اندرونی منظر

## کعب بن اشرف کے قلعے



کعب بن اشرف نامی یہودی کے قلعہ کے کھنڈرات



کعب بن اشرف کے باغات اور قلعے کے کھنڈرات جو گستاخانِ رسول کے عبرتناک انجام کی یاد دلاتے ہیں



یہودی سردار کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کا بیرونی منظر




کعب بن اشرف کے قلعہ کے قریب یہودیوں کے مکانات کے باقیات



خیبر میں موجود یہودیوں کے مکانات

## قلعہ قموص


قلعہ ناعم کے بعد قلعہ قموص فتح ہوا یہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں نہایت مستحکم تھا۔ جب اس قلعہ کا محاصرہ ہوا تو آنحضرت ﷺ درحقیقہ کی وجہ سے میدان میں تشریف نہ لاسکے اس لئے جھنڈا دے کر ابو بکر صدیق ؓ کو بھیجا۔ باوجود پوری جدوجہد کے قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آگئے۔ دوسرے روز فاروق اعظم ؓ کو جھنڈا دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت عمر ؓ نے پوری جدوجہد سے قتال کیا لیکن بغیر فتح کئے ہوئے واپس آئے۔ اس روز آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتا ہو اور اس کے ہاتھ پر اس کو فتح فرمائے۔ ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھئے یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ تمام شب اسی تمنا اور اشتیاق میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ؓ کو بلایا۔ حضرت علی ؓ کی آنکھیں اس وقت آشوب کی ہوئی تھیں بلا کر آنکھوں کو لعاب دہن لگایا اور دعا پڑھی۔ فوراً اسی وقت آنکھیں اچھی ہو گئیں گویا کبھی کوئی شکایت پیش ہی نہیں آئی تھی اور جھنڈا مرحمت فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جہاد و قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ان کو خبردار کرنا۔ خدا کی قسم اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعہ ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی ؓ جھنڈا لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ (رواہ البخاری)



مقام قلعہ قموص کے نیچے مسجد علی ؓ کا محراب۔ اس مقام پر حضرت علی ؓ نے مرحب کو قتل کیا تھا

## غزوہ موتہ 8 ہجری

موتہ کی لڑائی اور اسلام کی فتح



موتہ شام کا علاقہ ہے جو دمشق کے لڑیپ اور بیت المقدس سے تقریباً دو منزل پر ہے۔ یہاں عیسائی رومیوں کا دار تھا۔

اب تک تو مسلمانوں کو صرف عرب بیہود اور مشرکوں سے مقابلہ رہا لیکن اب عیسائی رومیوں سے لڑنا اور انہی کی شرارتوں سے بچنا پڑا۔

یہاں کے لوگوں نے حضور ﷺ کے قاصد کو جو قتل کر گیا تھا اس کا بدلہ لینے کیلئے عہد نامہ اول پیش کیا جس میں ہزاروں فوج مدینہ صیہ سے روانہ فرمائی اور حضرت ابراہیم بن حارثہ کو اس پر سردار مقرر فرمایا اور فرمایا کہ

ابھی تک عیسائیوں نے تمہارے نبی کو قتل کیا ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ یہ بھی کام آتا ہے کہ تمہاری فوجیں اس کو ہلاک کر دے اور یہ بھی اہم ہے کہ تمہاری فوجیں اس سے پہلے ہی کو مسیح پر آمادہ کر دے اور اسلام کی تکمیل کر دے۔

اس نیا نیا مقررہ حکم کو اس سے کام لیا۔

مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا۔ دوسرے مسلمانوں کے مقابلہ میں شاہ

مسیح اور روم کے بادشاہ قیس نے اس کا مقابلہ کرنے میں آمادہ رہا۔

اللہ اکبر کہاں نہیں ہزاروں کہیں اس کا مقابلہ کیا اور اس کی شان نظر آتی ہے۔

غزوہ موتہ کے شہداء کی اجتماعی قبر، قدیم مسجد اور میدان موتہ



(۱) جنگ موتہ ۸ھ بمطابق ستمبر ۶۳۵ء میں ہوئی۔ (۲) موتہ ملک شام میں ایک جگہ ہے۔ مدینہ سے 1 ہزار میل کے فاصلہ پر ہے۔

(۳) یہ جنگ اس لئے ہوئی کہ وہاں کے سردار نے آپ ﷺ کے قاصد کو قتل کر دیا تھا۔ (۴) اس غزوہ میں 3 ہزار صحابہ تھے اور کفار

2 لاکھ تھے۔ (۵) اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ملی کفار بھاگ گئے۔


دونوں فوجوں میں مڈبھیڑ ہوئی، غضب کا رن پڑا، دونوں طرف کے بہادر اپنی پوری قوت سے کام لے رہے تھے، بڑی زبردست لڑائی ہوئی، مسلمان اللہ کی راہ میں شہادت کے شوق میں اپنی جان ہتھیلی پر لئے ہوئے تھے، ان کو شہادت زندگی سے زیادہ عزیز تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کمی اور ان کی زیادتی پر کوئی توجہ نہ کی اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر یہ کم اور وہ کئی گنا زیادہ، لڑتے لڑتے کلیجہ منہ کو آگیا مارتے مارتے شل ہو گئے، دوڑتے دوڑتے ہاتھ پاؤں تھک گئے، لیکن کیا مجال کہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے ہوں۔

حضور ﷺ کی پشتگونی کے مطابق تینوں سردار یکے بعد دیگرے شہادت کے ساغر نوش فرما گئے اور سرداری حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھ آئی، جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ان کی بہادری تو مشہور ہے، انہوں نے انتہائی بہادری اور نئی تدبیر سے ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کے حواس اڑ گئے۔ صرف ایک ہی حملہ میں ڈیڑھ لاکھ فوج کا منہ پھر گیا، اور ان کو بھاگتے ہی بنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس چھوٹی سی فوج کو اتنی بڑی فوج پر نمایاں کامیابی عطا فرمائی اور وہ فتح و نصرت کے ساتھ خوشی خوشی کامیاب با مراد واپس ہوئے۔

آنحضرت ﷺ نے اسی لڑائی میں حضرت خالدؓ کو سیف اللہ (یعنی اللہ کی تلوار) کا لقب عطا فرمایا۔

اردن میں موجود موتہ کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی حضرت زید بن حارثہؓ کا مزار مبارک

شہید موتہ، حضرت زید بن حارثہؓ کا مدفن







شہید مواتہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا مزار



مقام حضرت شریک بن حسن رضی اللہ عنہ



شہید مواتہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک



مقام شہید مواتہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ




مواتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مزار کا اندرونی منظر




مقام شہید مواتہ حضرت ضرار بن الازر رضی اللہ عنہ

غزوہ موتہ کے معرکہ کی جگہ بنی ہوئی یادگار موتہ مسجد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ



اسی مسجد میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ اب میدان موتہ سلطنت اردن کا حصہ بن چکا ہے




میدان موتہ

غزوہ موتہ کے میدان میں موجود شہداء کی اجتماعی قبر



### خانہ کعبہ کی چھت پر اسلامی پرچم

سخ صحیحہ کے موقع پر جو شریں مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے ہوئی تھیں، ان کو مسلمانوں نے پوری طرح سے بھادیا لیکن جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کھلاڑی مار لے اس کا کیا علاج۔  
 کلار مکہ نے سخ کے ہاد جو مسلمانوں کے ایک دوست قبیلہ کو جو غزادہ کا قبیلہ کہلاتا تھا، خاص حرم شریف کے اندر صرف داخل اور عدوت کی بنا پر بی بی نے دروی سے نقل کرا لیا۔  
 اس قبیلہ کے چند آدمیوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر فریاد کی۔ حضور ﷺ کو یہ واقعہ سن کر بہت صدمہ ہوا، مگر حضور ﷺ نے پہلے یہ کہا کہ قریش کے پاس قاصد بھیجا، اور تمیں شریں فرمائیں، کہ ان میں سے کوئی منظور کر لیں۔  
 قریش کے سرداروں نے یہ قیسری ہات مان لی کہ صد صحیحہ کا معامہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں بہت پچھتائے کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی، پھر ابوسفیان کو مدھیہ روانہ کیا کہ اس معامہ کو پھر سے قائم کر لیں ابوسفیان آئے مگر ان کی کچھ نہ چلی، تاکام واپس ہوئے۔  
 حضور ﷺ ان کی مدھیہ سے مجبور ہو کر ۱۰ رمضان المبارک ۶ھ میں ان مظلوموں کا بدلہ لینے کیلئے دس ہزار مسلمانوں کی فوج لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔



وہ مقام جہاں فتح مکہ کے موقع پر فتح کا جھنڈا نصب کیا گیا تھا

مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ قیام فرمایا۔ قریش کو جب اس کا علم ہوا تو ابوسفیان کو دریافت حال کیلئے روانہ کیا۔ ابو سفیان نے یہاں پہنچ کر فوج کا کڑو فردیکھا تو ہوش اڑ گئے، حواس کھو گئے اور سمجھ گئے کہ اب قریش کی خیر نہیں، اب بغیر امن حاصل کئے چارہ نہیں۔ بس حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے لئے امان حاصل کی پھر حضور ﷺ کے کریمانہ برتاؤ سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابوسفیان کو اسلامی فوج کا کڑو فرد کھلانے کی خاطر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھالے گئے، تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر بڑی شان اور بڑے کڑو فرد سے آتا ہوا دکھائی دیا، اللہ اکبر کے نعروں سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اور ایک لشکر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آخر میں مہتاب رسالت نظر آیا، جس کے گرد وفاداری کا ہالہ تھا، گویا چاند کے گرد ہالہ پڑا۔

### مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا شاندار داخلہ

وہ مکہ جہاں آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے جاں نثاروں کو طرح طرح کی تکلیفیں سہنا پڑیں، حتیٰ کہ اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑا، اسی پیارے وطن اور مقدس سر زمین میں آج کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔



**مسجد رایة:** رایہ کے معنی جھنڈا کے ہیں۔

فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم ﷺ کا جھنڈا جہاں نصب کیا گیا تھا یہ مسجد اس مقام پر قائم کی گئی ہے


## غزوة طائف ۸ ہجری

غزوہ تبوک سے لڑاوت کے بعد سردار عالم ﷺ نے طائف کی طرف جہاد کیلئے سڑکیا۔ وہی طائف والے لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کو میل تک چھڑا دیا۔ پھر اسے جی کر کے میل تک حضور ﷺ کو پہنچایا حتیٰ کہ آپ ﷺ کے جوتے مہارک ٹھون سے بھر گئے۔ مگر اس قی طائف کا ماسروا اپنی ذات کیلئے نہیں کیا کیا تھا بلکہ غزوہ تبوک میں طائف کے لوگوں کا شریک تھے اور انہی کا لڑوں نے اسے کہا: صحابہ کرام! یہاں ماسروا کی خلاف ورزی کی۔


دوسری طرف طائف کے کاروں کو حضور اکرم ﷺ کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے طائف کی کثیر تعداد کی اور طائف کے حضور و قسوں میں پہنچ گئے۔

حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ سے اپنے قبیل انور صحابی (ابن کلاب کی کنوڑا کا لقب طائف) کو 1000 صحابہ کا سربراہ بنا کر طائف بھیجا حضرت خالدؓ نے طائف والوں کو کہا یا کہ گھست سلیم کرو اور قمر سے اٹھنا ہے گا اور اڑو ہے۔ جو قمر میں رہے گا وہ ہاک کر دیا جائے گا۔ پناہ چھوڑا اور قمر سے اٹھنا ہے مگر اکلایت قمری کو کھو پناہ کو کھینچے ہوئے قمری میں رہے۔ تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے فرمایا اسے یہاں ہیں اپنے قسوں پر نازت کر دیا اس سے اسے قلعے اور قریبہ اور ان ٹیڑ کو نہ پھا سکے اب تو کدھی گئے ہو چکا ہے جس میں اور دشمنیت والے اگلی گھست سلیم کر چکے ہیں لہذا تم بھی گھست سلیم کرو۔ مگر اہل طائف نے گھست نہ دلی۔ تو صرف خالد بن ولیدؓ کے ہم پر اس غزوہ میں پہلی ہارتھین کا شہناہ ہو۔

18 دن تک طائف والوں کا حضور اکرم ﷺ نے ماسروا کیا اور پھر واپسی کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول ﷺ ہمیں کا ماسروا تم نہیں کریں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا واپس چلو یہ اللہ کا حکم ہے پناہ چھوڑو حضور ﷺ طائف والوں کو واپس کیلئے دعا کرتے ہوئے واپس لوٹے تو اللہ کی شان تک ہی عرس میں طائف والے حضور ﷺ کی نرسنت میں آکر مسلمان ہو گئے۔




وادی طائف کا پر نور منظر اس وادی کی آب و ہوا میں حضور ﷺ کے جسم مبارک کی خوشبو آج بھی موجود ہے



روایت کے مطابق محاصرے کے دنوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہاں اذان دی اور باجماعت نماز ادا کی جاتی رہی

مسجد الطائف: ابن اسحاق فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے حنین کا سفر اختیار فرمایا تو پہلے مقام فیکہ پھر نخب سے ہوتے ہوئے سدہ (جو صادرہ کے نام سے مشہور ہے) اور پھر طائف تشریف لائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے لشکر کے ساتھ جس جگہ محاصرہ کا پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں امہات المؤمنین میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ الگ دو خیمے قبہ نما نصب فرمائے۔ یہاں بیس راتوں تک محاصرہ رہا، جب قبیلہ ثقیف مسلمان ہو گیا تو انہوں نے اس جگہ مسجد تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے۔




طائف کے قلعہ کا برج جہاں سے تیر اندازوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا




مسجد شراعی: یہ اس مقام کے قریب تعمیر کی گئی جہاں حنین کا معرکہ پایا ہوا تھا۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے



النزلة الیمانیہ: وہ مقام جہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غزوہ حنین کے لئے جاتے وقت پڑاؤ فرمایا تھا۔ حنین وہ معرکہ ہے جس سے مجاہدین اسلام کو یہ قیمتی سبق ملتا ہے کہ اپنی تعداد اور اسباب کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھنی چاہئے۔ فتح و نصرت کا مالک وہی ہے اور وہی اپنے بندوں کی محنت اور قربانیوں کو ٹھکانے لگاتا ہے۔



غزوة طائف سے واپسی کے بعد حضور ﷺ ۱۸ ذی قعدہ ۸ھ کو جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جامعہ مسجد جعرانہ سے تھوڑے فاصلے پر حدود حرم کے آغاز کی علامت کے طور پر سڑک کے دونوں جانب یہ علامتی نشان تعمیر کئے گئے ہیں۔ سیرت و تاریخ کے طلبہ کیلئے یہ تصویریں نادر و نایاب تحفہ ہیں۔



طائف شہر کا فضائی منظر



# حجۃ الوداع

## رسول اللہ ﷺ کا آخری حج

جب تمام ملک عرب سے کفر و شرک کی بنیادیں اکھڑ گئیں اور چاروں طرف اسلام کا دریا موجزن ہو گیا اور جس دین کو حضور ﷺ نے کر آئے تھے، وہ مکمل ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اذ احیاء نصر اللہ والقضخ سے بھی پتہ چل گیا کہ رسول ﷺ اب دنیا میں چند دن ہی تشریف رکھیں گے۔ نبوت و رسالت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے ذی قعدہ ۱۰ھ میں حج کا اعلان فرمادیا۔



یہ خبر تمام ملک عرب میں بجلی کی طرح پہنچ گئی اور ہر طرف سے مسلمان پروانہ وار ٹوٹ پڑے، ذیقعدہ کی ۲۶ تاریخ شنبہ کے دن، آپ ﷺ تمام مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے لہیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔

حضرت جابر ﷺ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی، بس آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے اور حضور ﷺ کے ساتھ تمام مسلمان بھی کہنے لگتے تھے، اُس وقت حجاز کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھتی تھیں۔ اللہ اللہ کیا وقت تھا، ایک لاکھ مسلمانوں کا مجمع، اس میں آفتاب رسالت جلوہ گر، پھر مقدس سرزمین کا سفر، اسلام کا آخری رکن ادا کرنے کا قصد، اللہ کے دربار میں حاضری کا دن، ایمان کے توشہ سے لبریز، اللہ اور رسول ﷺ کی محبت میں سرشار، حج کے شوق میں بے تاب، لہیک کہتے ہوئے بے تابانہ وار بڑھے جارہے تھے، آخر ۴ ذی الحجہ، اتوار کے دن، صبح کے وقت، یہ معزز قافلہ مقدس سرزمین میں پہنچ گیا۔ مکہ معظمہ میں پہنچ کر آپ ﷺ نے طواف کیا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر دو رکعت نماز ادا کی، پھر سعی کیلئے صفا مروہ پر تشریف لائے، پھر آٹھویں ذی الحجہ کو آپ سارے مسلمانوں کے ساتھ منیٰ تشریف لے گئے، دوسرے دن نویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ عرفات تشریف لے گئے۔

# مولانا ارسلان بن اختر کی دیگر تالیفات

